



اردو بان میں پہلی مرتبہ اب عذر کے نمول تھے

# اُصولِ مداریہ

بدایہ جلد اول میں موجود ۲۲ اصول

ترجمہ تشریح اور تخریج کے ساتھ

## مولانا محمد نعمن صاحب

اسلامیت ہمہ دنیا اس کے میں ہیں کوئی بھی

حضرت مولانا محمد نعمن صاحب کی کتابیں اور بیانات والیں ایپ پر حاصل  
کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-2645500

## ادارۃ المعارف بگل پچھی

## ..... ﴿ فہرستِ مضافین اصولِ ہدایہ ﴾ .....

صفحة	مضامين
٢٧	كتاب الطهارات
٢٨	(١) إِنَّ الْغَایَةَ إِنْ كَانَتْ لِإِسْقاطِ مَا وَرَاءَ تَدْخُلٍ تَحْتَ الْمُغَیَّبَا وَإِنْ كَانَتْ بِمَدِ الْحُکْمِ لَا تَدْخُلُ
٢٩	(٢) إِنَّ لِلَّا كُثْرَ حُکْمُ الْكُلِّ
٣٠	(٣) إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَقْعُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلِكُنَّهُ يَقْعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ
٣٠	(٤) إِنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهَّرٍ إِلَّا فِي حَالٍ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ
٣١	(٥) إِنَّ التَّكَرَارَ لَا يَضُرُّ الْغُسْلَ بِخَلَافِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ يَضُرُّهُ
٣٢	(٦) إِنَّ الْوَأْوَلَ مُطْلَقُ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ الْلُّغَةِ
٣٣	فصل في نواقص الوضوء
٣٤	(٧) إِنَّ كَلِمَةَ "مَا" عَامَّةٌ
٣٥	(٨) إِنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ
٣٦	(٩) إِنَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا
٣٧	(١٠) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَرْجٌ لَا تَتَخلَّلُهُ النِّجَاسَةُ
٣٨	(١١) إِنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِ الدَّمِ
٣٩	(١٢) إِنَّ الشَّابِتَ عَادَةً كَالْمُتَيَّقِنِ بِهِ
٤٠	(١٣) إِنَّ الْحَرَاجَ مَدْفُوعٌ شَرُعًا
٤١	(١٤) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَخْفِيًّا أَقِيمَ السَّبْبُ مَقَامَهُ
٤٢	باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به
٤٣	(١٥) إِنَّ الْمُطْلَقَ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ فَرْدٌ كَامِلٌ
٤٤	(١٦) إِنَّ اسْمَ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بِأَقِيقَةٍ يَبْقَى حُكْمُهُ
٤٥	(١٧) إِنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورَتِهَا النِّجَاسَةُ
٤٦	(١٨) إِنَّ النِّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ فِي مَعْدِنَهَا لَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُ النِّجَاسَةِ
٤٧	(١٩) إِنَّ مُلَاقَاةَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ لَا تُؤْجِبُ النِّجَاسَةَ

## أصول بداية جلد اول

- ٣٩) إِنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ يُورِثُ تَحْفِيْفًا  
٤٠) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقدَّرُ بِقَدْرِهَا  
٤١) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقدَّرُ بِقَدْرِهَا  
٤٢) إِنَّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَهُوَ لِيْسَ بِنَجْسِ الْعَيْنِ  
٤٣) إِنَّ الْمَقْصُودُ إِذَا حَصَلَ بِشَيْءٍ فَلَا مَعْنَى لِا شْتِرَاطِ غَيْرِهِ  
٤٤) إِنَّ مَا يَطْهُرُ جَلْدُهُ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالدِّكَاكَةِ  
٤٥) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةً لَا يَحْلُهُ الْمَوْتُ

## فصل في البئر

- ٤٦) إِنَّ مَسَائِلَ الْآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ  
٤٧) إِنَّ الْقَلِيلَ جُعِلَ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ  
٤٨) إِنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكِلُ لَحْمَهُ طَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَنَجْسٌ عِنْدَهُمَا  
٤٩) إِنَّ التَّدَاوِي بِالْمُحْرِمِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَيْنَةَ  
٥٠) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا عَادَلَ شَيْئًا يَا خُذْ حُكْمَهُ  
٥١) إِنَّ الْيَقِينَ لَا يَرْوُلُ بِالشَّكِّ  
٥٢) إِنَّ الشَّيْءَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبًا ظَاهِرًا يُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ

## فصل في الآثار وغيرها

- ٥٣) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَوْلَدُهُمَا وَمَا خُذُهُمَا وَاحِدًا يَا خُذْ أَحَدُهُمَا حُكْمَ صَاحِبِهِ  
٥٤) إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ طَاهِرٍ فَهُوَ أَيْضًا طَاهِرٌ  
٥٥) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حُكْمٌ فَمَا هُوَ دُونَهِ يُدْخَلُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِالْأَوَّلِ  
٥٦) إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ نَجْسٍ فَهُوَ أَيْضًا نَجْسٌ  
٥٧) إِنَّ تَعَارُضَ الْأَدِلَّةِ فِي الْإِبَاحةِ وَالْحُرْمَةِ يُورِثُ الشَّكَّ وَكَذَا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
٥٨) إِنَّ الْحَدِيثُ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا وَعَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ يَصِحُّ بِهِ الرِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ

## باب التيمم

- ٥٩) إِنَّ الْعَجْزَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبارِهِ

## أصول بداية جلد اول

- ٥  
٢٣) إِنَّ النَّائِمَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ  
٦٥) إِنَّ مَا كَانَ آلَهُ التَّطْهِيرِ فَلَا بُدُّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ  
٦٥) إِنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ  
٦٦) إِنَّ الْعَجْزَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا يَقِينُ مِثْلِهِ  
٦٧) لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ  
٦٨) إِنَّ الضَّرَرَ مُسْقَطٌ

## باب المصح على الخفين

- ٦٩) إِنَّ مَا هُوَ مَعْدُولٌ عَنِ الْقِيَاسِ يُرَاغِي جَمِيعَ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ  
٧٠) إِنْ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِدُونِهِ

## باب الحيض والاستحاضة

- ٧١) إِنَّ تَقْدِيرَ الشَّرْعِ يَمْنَعُ إِلْحَاقِ غَيْرِهِ بِهِ  
باب الأنجاس وتطهيرها

- ٧٢) إِنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ  
٧٣) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا ثَبَتَ نَجَاسَةً بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ تَكُونُ مُغَلَّظَةً  
٧٤) إِنَّ تَعَارُضَ النَّصِّينِ فِي نَجَاسَةِ شَيْءٍ يُوجِبُ التَّخْفِيفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

## كتاب الصلاة

### باب الأذان

- ٧٥) إِنْ تَكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الِإِقَامَةِ  
٧٦) إِنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ  
٧٧) إِنَّ الْأَذَانَ لِلإِسْتِحْضَارِ وَالِإِقَامَةِ لِلْإِعْلَامِ الْأَفْتَاحِ

### باب شروط الصلاة

- ٧٨) إِنَّ الرُّبُعَ يَحْكُمُ حِكَايَةَ الْكَمَالِ  
٧٩) إِنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْكُثْرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقْلَ مِنْهُ  
٨٠) إِنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ  
٨١) إِنَّ تَرْكَ الشَّيْءِ إِلَى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا

- ٦  
٨١  
٨٢  
٨٢
- (٥٩) إِنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسْبِ الْوُسْعِ  
(٦٠) إِنَّ الْاسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحْرِيْ  
(٦١) إِنَّ الْعَمَلَ بِالْاجْتِهَادِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَاجِبٌ مِّنْ غَيْرِ نَفْضِ الْمُؤَذَّى قَبْلَهُ
- باب صفة الصلاة**
- ٨٣  
٨٣  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
٨٨  
٨٨  
٨٩  
٩٠  
٩١  
٩٢  
٩٢  
٩٣  
٩٣  
٩٤  
٩٤
- (٦٢) إِنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ السُّنْنَةِ عَلَى مَا ثَبَّتَ وُجُوبُهُ بِالسُّنْنَةِ  
(٦٣) إِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ  
(٦٤) إِنَّ النَّفْيَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِثْبَاتِ  
(٦٥) إِنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِأَعْلَامِ الْأَصْمَمِ  
(٦٦) إِنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لِغَةً  
(٦٧) إِنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا  
(٦٨) إِنَّ فِي الْأَذَانِ يُعْتَبِرُ التَّعَارُفَ  
(٦٩) إِنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ دِكْرٌ مَسْنُونٌ يُعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَّا  
(٧٠) إِنَّ التَّعُودَ تَبْعَدُ لِلقراءَةِ دُونَ الشَّنَاءِ عِنْدَ الْطَّرَفَيْنِ رَحْمَهُمَا اللَّهُ  
(٧١) إِنَّ الرِّيَادَةَ عَلَى الْكِتَابِ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ لِكُنْهِ يُوجِبُ الْعَمَلَ  
(٧٢) إِنَّ مَبْنَى الدُّعَاءِ عَلَى الْإِخْفَاءِ  
(٧٣) إِنَّ الصَّلَاةَ مَا وُضِعَتْ لِلإِسْتِرَاحَةِ  
(٧٤) إِنَّ مَا كَانَ عَلَى الْبُدْنَ أَشَقُّ أُولَئِ  
(٧٥) إِنَّ مَا لَا يَسْتَحِيْلُ سُوَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ يَشْبَهُ كَلَامَ النَّاسِ وَيَسْتَحِيْلُ  
لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ
- (٧٦) إِنَّ الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِيْنَ  
(٧٧) إِنَّ التَّخْيِيرَ يُنَافِي الْفَرْضِيَّةَ وَالْوُجُوبَ
- فصل في القراءة**
- ٩٧  
٩٧
- (٧٨) إِنَّ مَا كَانَ مُكَمِّلًا لِشَيْءٍ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ  
(٧٩) إِنَّ الْجَهَرَ يَخْتَصُ إِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتَّمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ  
عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ

٨٠) إِنَّ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِذَلِيلٍ

(٨١) إِنَّ الْمُخَافِتَةَ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَالْجَهْرَ أَنْ يُسْمَعَ غَيْرُهُ عِنْدَ الْفَقِيهِ ٩٩

**أبى جعفر الهندوانى وعند الكرخى أذنى الجهر أن يسمع نفسه وأذنى**

المُخاَفَةُ تُصْحِّحُ الْحُرُوفَ

باب الامامة

(٨٢) إِنَّ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لَا يَجُوزُ

(٨٣) إِنَّ الْقَوْيَ لَا يُبَنِّي عَلَى الْضَّعِيفِ

(٨٣) إِنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ ١٠٢

(٨٥) إِنَّ التَّيْمَ طَهَارَةً مُطْلَقَةً عِنْدَ الشَّيْخِينَ رَحْمَهُمَا اللَّهُ وَطَهَارَةً ضُرُورَيَّةً ١٠٣

عَنْدَ مُحَمَّدٍ رَّحْمَةُ اللَّهِ

٨٢) إِنَّ الْأَقْتَدِاءَ شُرَكَةٌ وَمُوَافِقةً ١٠٣

باب الحدث في الصلاة

(٨٧) إِنَّ الْإِنْصِرَافَ عَلَى قَصْدِ الإِعْلَمِ لَا يَمْنَعُ الْبَنَاءَ وَالْإِنْصِرَافَ ١٠٥

عَلَى قَصْدِ الرَّفْضِ وَالْتُّرْكِ يَمْنَعُهُ

١٠٤ (٨٨) إِنَّ مَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ لَا يَكُونُ فِي مَعْنَىٰ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ

٨٩) إِنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّيِّ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ لَيْسَ ١٠٧

بِفَرْضِ عِنْدِهِمَا

(٩٠) إِنَّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْفَرْضِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا ١٠٨

(٩١) إِنَّ الْبُنَاءَ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ

٦٢) إِنَّ تَمَامَ الرُّكْنِ بِالْأَنْتِقَالِ

من لا يصلح للإمام يفسد الصلاة

## **باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها**

١١٢ (٩٣) إِنَّ مَا يَدْلُلُ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

٩٥) إِنَّ مَا فِيهِ اِظْهَارُ الْجَرَعِ وَالتَّاسِفُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

٩٦) إِنَّ الْكَلْمَةَ إِذَا اسْتَمْلَتْ عَلَى حَرْفٍ وَهُمَا زَائِدَتَانِ أَوْ أَحْدَاهُمَا لَا ١١٣

**تَفْسِيدُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتَا أَصْلَيْتَهُ تَفْسِيدٌ عِنْدَ أَيِّ يَوْمٍ سَفَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى**

- (٧٦) إِنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهِمِ الْعُرْفِ يَتَبَعُ وُجُودَ حُرُوفِ الْهِجَاءِ ١١٣  
وَإِفَهَامَ الْمَعْنَى

١١٥ (٧٨) إِنَّ مَا يَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِمْ

١١٦ (٧٩) إِنَّ مَا فِيهِ تَعْلِيمٌ وَتَعْلُمٌ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

١١٦ (٨٠) إِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أَخْرَجَ مَحْرَاجَ الْجَوَابِ وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ يُجْعَلُ جَوَابًا

١١٧ (٨١) إِنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ

### باب صلاة الوتر

١١٩ (٨٢) إِنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ

١٢٠ (٨٣) إِنَّ مَا هُوَ مَنْسُوخٌ لَا مُتَابَعَةَ فِيهِ

### باب التوافل

١٢٠ (٨٤) إِنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ

١٢٢ (٨٥) إِنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ

١٢٣ (٨٦) إِنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ مَا شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ

١٢٣ (٨٧) إِنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَئِينَ أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا يُوجِبُ  
بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ  
بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَإِنَّمَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ وَعِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ تَرْكُ  
الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَئِينَ يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَفِي إِحْدَاهُمَا لَا يُوجِبُ

١٢٥ (٨٨) إِنَّ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ

١٢٦ (٨٩) إِنَّ التَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ

### باب إدراك الفريضة

١٢٧ (٩٠) إِنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

١٢٨ (٩١) إِنَّ الْقَضَاءَ اخْتَصَّ بِالْوَاجِبِ

### باب قضاء الفوائت

١٢٩ (٩٢) إِنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ مُسْتَحْقٌ

١٢٩ (٩٣) إِنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضيقِ الْوَقْتِ وَكَذَا بِالنِّسْيَانِ وَكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ

٩  
 ١٣٠) إِنَّ الْفَرْضِيَّةَ إِذَا بَطَلَتِ التَّحْرِيمَةُ أَصْلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الشِّيَخِينَ لَا يَبْطُلُ

### باب سجود السهو

- ١٣١) إِنَّ سُجُودَ السَّهُوِ مِمَّا لَا يَسْكُرُ  
 ١٣٣) إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ  
 ١٣٣) إِنَّ سَجْدَةَ السَّهُوِ لَا تَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرٍ رُكْنٌ سَاهِيًّا  
 ١٣٥) إِنَّ النُّقَصَانَ الْمُتَمَكِّنَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ مُتَمَكِّنٌ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ  
 ١٣٥) إِنَّ تَقْرِيرَ السَّبِبِ الْمُوْجَبِ فِي حَقِّ الْاَصْلِ تَقْرِيرٌ فِي حَقِّ تَابِعِهِ  
 ١٣٦) إِنَّ مَا يَقْرُبُ مِنَ الشَّيْءِ يَا خُذْ حُكْمَهُ  
 ١٣٦) إِنَّ سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ السَّهُوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلَاةِ أَصْلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ الشِّيَخِينَ يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ النَّوْقُوفِ  
 ١٣٧) إِنَّ النِّيَّةَ إِنْ كَانَتْ مُغَيِّرَةً لِلمَشْرُوعِ تَلْغُو

### باب صلاة المريض

- ١٣٩) إِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ  
 ١٣٩) إِنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنَعٌ  
 ١٤٠) إِنَّ مَنْ يَفْهَمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضِيَّةُ  
 ١٤١) إِنَّ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ إِلَى السَّجْدَةِ  
 ١٤٢) إِنَّ الْغَالِبَ وُجُودُهُ كَالْمُتَحَقِّقِ

### باب في سجدة التلاوة

- ١٤٣) إِنَّ كَلِمَةَ عَلَى لِلْإِيْجَابِ  
 ١٤٣) إِنَّ تَصْرِفَ الْمَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ  
 ١٤٥) إِنَّ النَّاقِصَ لَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ  
 ١٤٦) إِنَّ مَبْنَى السَّجْدَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ

### باب صلاة المسافر

- ١٤٧) إِنَّ الْوَطَنَ الْأَصْلَى يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ وَوَطْنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِ

## أصول بداية جداول

- ١٠  
١٣٣) إِنْ إِقَامَةُ الْمَرْءِ مُضَافَةً إِلَى مَبِيتِهِ  
١٣٤) إِنْ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمُعْصِيَةٍ  
١٣٥) إِنْ الْقَضَاءُ بِحَسْبِ الْأَدَاءِ

## باب صلاة الجمعة

- ١٥١) إِنَّ التَّكْلِيفَ يَدْوُرُ عَلَى التَّمَكُّنِ

## باب العيدين

- ١٥٢) إِنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّنَاءِ إِلَخْفَاءُ

## باب الشهيد

- ١٥٣) إِنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ

## باب الصلاة في الكعبة

- ١٣٩) إِنَّ التَّقْدُمَ وَالتَّاخيرَ إِنَّمَا يَظْهُرُ عِنْدَ اتِّحادِ الْجَانِبِ

- ١٤٠) إِنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعُرْصَةُ وَالْهُوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ

## كتاب الزكاة

- ١٣١) إِنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِالْحُرْيَةِ

- ١٣٢) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنَ الْكَافِرِ

- ١٣٣) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَأْدِي إِلَّا بِالْإِخْتِيَارِ

- ١٣٤) إِنَّ مَا هُوَ مَشْغُولٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ يُعْتَبَرُ مَعْذُومًا

- ١٣٥) إِنَّ الدَّيْنَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ يُرَادُ بِهِ دِينُ لَهُ مَطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ

- ١٣٦) إِنَّهُ لَا نَمَاءٌ إِلَّا بِالْقُدرَةِ عَلَى التَّصْرُفِ

- ١٣٧) إِنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِيِّ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ

- ١٣٨) إِنَّ النِّيَّةَ إِنْ اتَّصَلتْ بِالْعَمَلِ وَإِلَّا فَلَا

## باب صدقة السوائم

- ١٣٩) إِنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ

- ١٤٠) إِنَّ أَخْدَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائزٌ



- ١٢  
١٧٧  
١٧٧  
١٧٨  
١٧٩  
١٧٩  
١٨٠  
١٨١  
١٨٢  
١٨٣  
١٨٣  
١٨٣  
١٨٤  
١٨٥  
١٨٦  
١٨٧  
١٨٨  
١٨٩  
١٩٠  
١٩١  
١٩٢  
١٩٣  
١٩٣
- (١٤٩) إِنَّ النَّادِرَ كَالْمَعْدُومِ  
(١٤٠) إِنَّ كَفَّارَةَ الصَّوْمِ تَدْوُرُ عَلَى كَمَالِ الْجِنَائِيَّةِ  
(١٤١) إِنَّ وُصُولَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجُوْفِ يُفْطِرُ الصَّوْمَ  
(١٤٢) إِنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاجِحِ  
(١٤٣) إِنَّ شَرْطَ الْخَلِيقَةِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ  
(١٤٤) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنِ الْاِخْتِيَارِ  
(١٤٥) إِنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ الْجُزْءُ الْمُتَصِّلُ بِالْأَدَاءِ وَفِي  
الصَّوْمِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ  
(١٤٦) إِنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلَا صَحَّةَ الشُّرُوعِ  
(١٤٧) لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَلَى حَدِّهِ  
(١٤٨) إِنَّ الْإِغْمَاءَ يُضَعِّفُ الْقُوَى فَقَطُ وَلَا يُزِيلُ الْحِجَّى  
(١٤٩) لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ  
(١٥٠) إِنَّ الْكُفَّارَ تَعَلَّقُتْ بِالْإِفْسَادِ لَا بِالْإِمْتِنَاعِ  
(١٥١) إِنَّ الظَّنَّ إِذَا لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى ذَلِيلٍ شَرِعيٍّ فَهُوَ لَيْسَ بِمُعْتَبٍ  
(١٥٢) إِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ لَا يُورِثُ الشُّبُهَةَ  
(١٥٣) إِنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ يَبْتَئِنُ عَلَى وُجُوبِ الْصِّيَانَةِ
- باب الاعتكاف**
- (١٥٤) إِنَّ مُواظِبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِيلُ الْسُّنَّةِ  
(١٥٥) إِنَّ الْقِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الْمُنْقُولِ غَيْرُ مَقْبُولٍ  
(١٥٦) إِنَّ التَّفْلَ مَبْنَى عَلَى الْمُسَاهَلَةِ  
(١٥٧) إِنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ يَتَنَوَّلُ مَا يَأْزِي إِنَّهَا مِنَ الْيَالِيَّ  
(١٥٨) إِنَّ مَبْنَى الْإِعْتِكَافِ عَلَى التَّسَابِعِ بِخَلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفْرِقِ
- كتاب الحج**
- (١٥٩) إِنَّ السَّبَبَ إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ لَمْ يَتَكَرَّرْ الْمُسَبَّبُ  
(١٦٠) إِنَّ الْعِبَادَاتِ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ الْصِّبِيَّانِ

## أصول هداية جلد اول

- ١٣  
١٩١) إِنَّ الْقُدْرَةَ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمُعْتَبٍ عِنْدَ أَيِّ حَنِيفَةَ  
١٩٢) إِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الشَّرْعِ  
١٩٣) إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ

## باب الإحرام

- ١٩٨) إِنَّ بَابَ الْحَجَّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ  
١٩٨) إِنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ  
١٩٩) إِنَّ التَّوْقِيقَتْ يَذْهَبُ بِالرِّفْقَةِ  
٢٠٠) إِنَّ التَّحْرُرَ عَنْ أَذْى الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ  
٢٠٠) إِنَّ مَا ثَبَتَ فَرْضِيَّتُهُ بِنَصِّ الْكِتَابِ لَا يَتَأَدَّى كَمَا ثَبَتَ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ  
٢٠١) إِنَّ الْحُكْمَ لَا يَزُولُ بِزَوَالِ السَّبِبِ  
٢٠٢) إِنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ  
٢٠٣) إِنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ وَإِلَّا فَلَا  
٢٠٣) إِنَّ الرُّكْيَةَ لَا تُثْبَتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ  
٢٠٣) إِنَّ التَّنَفُّلَ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ  
٢٠٥) إِنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ يَقْفُ وَإِلَّا فَلَا  
٢٠٦) مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجَّ فَتَرْكُهُ لَا يُؤْجِبُ الْجَاهِرَ  
٢٠٦) إِنَّ مَا هُوَ رُكْنٌ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ كَيْفَمَا كَانَ  
٢٧) إِنَّ إِظْهَارَ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقُولِ

## باب القرآن

- ٢٠٨) لَا تَدَخُلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ  
٢٠٩) إِنَّ الْأَبْدَالَ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا

## باب التمتع

- ٢١٠) لَوْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُبِيْحِ فَالْتَّرجِيحُ لِلْمُحْرِمِ

## باب الجنائيات

- ٢١٢) إِنَّ الْجِنَائِيَّةَ تَتَكَامِلُ بِتَكَامِلِ الْإِرْتِفَاقِ

## أصول هداية جداول

- ١٣  
٢١٢) إِنَّ بِسَبِّ النُّؤُمِ وَالْإِكْرَاهِ يُنْتَفِي الْمَاثُمَ دُونَ الْحُكْمِ  
٢١٣) إِنَّ الصَّيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْدُهُ إِلَّا بِحِيلَةٍ  
٢١٤) إِنَّ الْعُرْفَ أَمْلَكٌ  
٢١٥) إِنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعْرُضِ لَا عَنْ ذَفْعِ الْأَذَى  
٢١٦) إِنَّ الْجَزَاءَ لَا يَجِدُ مَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ  
٢١٧) إِنَّ الْعَارِضَ لَا يُعْتَبَرُ  
٢١٨) إِنَّ الصَّوْمَ يُصْلِحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَالِ  
٢١٩) إِنَّ الْعَادَةَ الْفَاسِدَةَ مِنْ إِحْدَى الْحَجَجِ  
٢٢٠) إِنَّ وُصُولَ الْخَلْفِ كَوُصُولِ الْأَصْلِ  
**باب إضافة الإحرام**  
٢٢١) إِنَّ النَّهَى لَا يَمْنَعُ تَحْقِيقَ الْفِعْلِ  
**باب الإحصار**  
٢٢٢) إِنْ حُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ  
**باب الفوات**  
٢٢٣) إِنَّ الْفَرْضِيَّةَ لَا تَثْبُتُ مَعَ التَّعَارُضِ فِي الْآثارِ  
**باب الحج عن الغير**  
٢٢٤) إِنْ فَعْلَ الْمَأْمُورِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِيرِ يَقُعُ عَنِ الْمَأْمُورِ لَا عَنِ الْأَمِيرِ  
**باب الهدى**  
٢٢٥) إِنَّ ذَمَّ الْقِرَآنِ وَجَبَ شُكُرًا لِمَا وَفَقَهَ اللَّهُ مِنَ الْجَمْعِ مِنَ النُّسُكِينَ  
٢٢٦) إِنَّ ذَمَّ الْمُنْتَعِةِ وَالْقِرَآنِ ذَمْ نُسُكٍ بِخَلَافِ بَقِيَّةِ الدِّمَاءِ فَإِنَّهَا دِمَاءُ الْكُفَّارِاتِ  
٢٢٧) إِنَّ التَّوْلِيَ فِي الْقُرْبَاتِ أَوْلَى  
٢٢٨) إِنَّ السَّتْرَ أَيْقُنُ الْجَنَائِيَّاتِ

مقدمة

”ہدایہ“ درسِ نظامی کی تند اول اور معروف کتاب ہے، بر صغیر پاک و ہند کے اکثر دینی مدارس میں بطور نصاب کے شامل ہے۔ یہ کتاب اپنی استناد اور افادیت کی وجہ سے بنیظیر ہے۔ نقلي و عقلی دلائل کی جامعیت اور اپنے مخصوص طرز کی وجہ سے یہ کتاب فقہ حنفی میں مخصوص مقام کی حامل ہے۔ اس کتاب کی جلاست شان کی وجہ سے موصوف علمی حلقات میں اپنے نام ”برہان الدین“ سے زیادہ ”صاحب ہدایہ“ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی، والد کا نام ابو بکر اور رادا کا نام عبدالجلیل ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور صاحب ہدایہ کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ ۸ ربیع الاول ۱۵۱ھ بروز پیر بعد نماز عصر آپ کی ولادت ہوئی۔

آپ کا مولد و مسکن مرغینان ہے، جو ماوراء النہر کے علاقے میں واقع ولایت فرغانہ کا ایک شہر ہے۔ وادی فرغانہ میں سے ایک روی دریا بھون گزرتا ہے اور شہر مرغینان اس کے مشرق میں واقع ہے۔ ① صاحب ہدایہ اسی شہر کی نسبت سے مرغینانی کہلاتے ہیں۔ آپ حضرت ابو یکر صدقی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۱۹ھ / ۵۹۳ء میں موئی خہ ۲۷ ذی الحجه منگل کی شب کو ہوئی۔

موصوف نے جن اساتذہ کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کئے ان میں سے چند معروف درج ذہلی ہیں:

امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النسفي رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۷ھ) انہوں نے عقائد کے موضوع پر ایک رسالہ ”العقائد النسفیۃ“ لکھا تھا، جس کی شرح علامہ تقیٰ زانی رحمہ اللہ (متوفی ۹۲۷ھ) نے ”شرح العقائد النسفیۃ“ کے نام سے تصنیف کی، جو درسِ نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔  
امام حسام الدین عمر بن عبد العزیز بن مازہ رحمہ اللہ (متوفی ۵۳۶ھ) یہ ”الصدر الشہید“ کے لقب سے معروف ہیں۔

امام ابو عمر و عثمان بن علی المیکنندی رحمہ اللہ، یہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۳ھ) کے شاگرد تھے۔  
امام قوام الدین احمد بن عبد الرشید البخاری رحمہ اللہ، یہ کتاب ”خلاصة الفتاوى“ کے  
مصنف کے والد ہیں۔ ②

<sup>١</sup> الجوهرة المضية في طبقات الحنفية: ترجمة: على بن أبي بكر، ج ١ ص ٣٨٣

<sup>٢</sup> الفوائد البهية في ترجم الحنفية: ترجمة: علي بن أبي بكر، ص ٢٣٠، ٢٣١.

علامہ عبدالحکیم الحنفی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) لکھتے ہیں ”وتفقهہ علیہ جم غیر منہم اولادہ“، کہ آپ سے ایک بڑی جماعت نے فقاہت حاصل کی، جن میں آپ کی اولاد بھی شامل ہے۔ آپ کے تین فرزند تھے، تینوں اپنے دور کے امام تھے:

۱.....شیخ الاسلام عماد الدین ابو بکر رحمہ اللہ      ۲.....نظام الدین عمر الفرغانی رحمہ اللہ

۳.....ابوالفتح جلال الدین محمد الفرغانی رحمہ اللہ ①

صاحب ہدایہ کے پوتے امام ابوالفتح زین الدین عبد الرحیم بن ابو بکر عماد الدین بن علی برہان الدین المرغینانی، مشہور کتاب ”الفصول العمادیة“ اور ”الفصول الأستروشنية“ کے مصنف ہیں۔ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ اپنے زمانہ کے بلند پایہ عالم و فقیہ تھے، موصوف حافظ، مفسر، محدث، ادیب، علوم و فنون کے جامع، اصول و فروع پر کامل دسترس رکھنے والے، متقن، محقق اور مدقق عالم تھے۔ علم خلاف میں آپ پید طولی رکھتے تھے۔

علامہ الحنفی رحمہ اللہ آپ کے ترجمہ کا آغاز ان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

كان إماماً فقيهاً حافظاً محدثاً مفسراً جاماً للعلوم ضابطاً للفنون، متقدناً محققاً نظاراً مدققاً زاهداً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أدبياً شاعراً لم تر العيون مثله في العلم والأدب، وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب.

یعنی صاحب ہدایہ امام وقت، فقیہ دوراں، حافظ عصر، محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، پختہ علم، محقق و بالغ النظر، باریک بین، عابد وزاہد، پرہیزگار، فائق و فاضل، ماہر فنون، اصولی، ادیب اور شاعر تھے، علم و ادب میں آپ کا ثانی نہیں دیکھا گیا، آپ کو اختلاف ائمہ اور مذاہب کے سلسلے میں بڑی دسترس حاصل تھی۔

درسی اور زبانی افادے کے علاوہ صاحب ہدایہ نے قلمی اور تحریری طور پر بھی اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل کیا، آپ کی تصنیفات درج ذیل ہیں:

۱.....بداية المبتدى. ۲.....التجنيس والمزيد. ۳.....شرح الجامع الكبير  
لإمام محمد بن الحسن. ۴.....فرائض العثمانى. ۵.....كتفایة المستهی. ۶.....مجموع  
النوازل. ۷.....نشر المذاہب. ۸.....معجم الشیوخ. ۹.....منتقی الفروع.

۰ ..... الہدایہ لشرح البدایہ. ۱ ..... مناسک الحج. ۱۲ ..... مختار الفتاویٰ. ①

صاحب ہدایہ نے ”بدایہ المبتدی“ میں قدوری اور جامع الصیغر کے مسائل کو جمع کیا ہے۔ کتاب کے ابواب کو جامع الصیغر کے طرز پر مرتب کیا، قدوری کے مسائل کو پہلے اور جامع الصیغر کے مسائل کو بعد میں ذکر کیا۔ اس متن کی شرح خود صاحب ہدایہ نے ”الہدایہ شرح بدایہ المبتدی“ کے نام سے کی ہے۔

۷۲۷ صفحات پر مشتمل یہ متن پہلے مطبوع نہیں تھا، اب یہ متن مطبعہ محمد علی صحیح قاهرہ سے چھپ چکا ہے۔ علامہ ابو بکر بن علی عاملی رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۵ھ) نے اس متن کو نظم کی صورت میں تحریر کیا ہے۔ ②

صاحب ہدایہ کی تصانیف میں ”التجنیس والمزید“ طبع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں فقہ حنفی کی ان پیش آمدہ نئے مسائل کا تذکرہ ہے جنہیں متاخرین نے استنباط کیا ہے، متفقہ میں سے اس بارے میں کوئی صراحةً منقول نہیں ہے۔ یہ کتاب علامہ سمرقندی رحمہ اللہ (متوفی ۳۷۳ھ) کی ”النوازل، عیون المسائل“ اور ”واقعات الناطفی، فتاویٰ ابن الفضل، فتاویٰ ائمۃ سمرقند“ کا تتمہ ہے۔ ان کتابوں میں بھی نئے مسائل اور حوادث کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب فقہی ابواب کی ترتیب پر ہے، یہ ایک مقدمہ اور پانچ کتب ”کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الز کاہ، کتاب الصوم، کتاب الحج“ پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب کل (۱۳۵۷) مسائل پر مشتمل ہے، اس میں ہر مسئلہ پر ”مسئلة“ کا عنوان ہے، چونکہ ہر مسئلہ ترقیم اور ”مسئلة“ کے ذیلی عنوان سے مزین ہے اس لئے اس کتاب سے استفادہ اور مطلوبہ مسئلہ تک رسائی آسان ہے۔ اس کتاب میں صرف مسائل کا تذکرہ ہے، دلائل کا ذکر نہیں ہے، فقہاءِ ثلاثیاً دیگر مذاہب کا بھی تذکرہ نہیں ہے، عموماً کتب فتاویٰ مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں ادله اور اختلافات پر نہیں، ورنہ صاحب ہدایہ مذاہب، فقہ مقارن، عقلی نقیٰ دلائل سے خوب واقف ہیں جیسا کہ ہدایہ پڑھنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب مذہب حنفی کے مطابق متاخرین علماء کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب دکتور محمد امین مکی حفظہ اللہ کی نہایت گراں قدر تحقیق و تعلیق اور تخریج حدیث کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ محقق نے فصل اول میں قدرے تفصیل کے ساتھ مصنف کے حالات اور تصنیفات کا ذکر کیا ہے۔ فصل ثانی میں ”التجنیس والمزید“ کا معنی، اس کتاب کی صاحب ہدایہ کی طرف نسبت کی توثیق اور اس کتاب کے مصادر، رموز اور اس کتاب میں جن اہل علم اور کتب کا تذکرہ آیا ہے اُن کا تعارف کرایا ہے۔ محقق نے

① الفوائد البهیة: ترجمة: علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل، ص ۲۳۰ / تاج التراجم: ج ۲

ص ۱ / الأعلام: ج ۲ ص ۲۶ / هدیۃ العارفین: ج ۱ ص ۴۰۲

② کشف الظنون: ج ۱ ص ۲۷

نہایت عرق ریزی کے ساتھ مختلف شخصوں سے موازنہ کر کے درست عبارت کی نشاندہی، غریب الفاظ کی وضاحت، مسائل پر ترجم، تپ فقه سے مسائل کی تخریج، احادیث کی تخریج اور کتاب کے آخر میں متعدد فہرستوں کے ذریعے کتاب کی افادیت پر چار چاند لگادیئے ہیں۔ یہ محققانہ نسخہ دو جلدوں میں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے شائع ہوا ہے۔

امام مرغینانی کی تمام تصانیف میں سے جو شہرت و قبولیت اور منفرد مقام ”الہدایہ“ کو حاصل ہوا کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہوسکا۔ یہ کتاب دراصل علامہ مرغینانی رحمہ اللہ کے فقہی تبحر، بصیرت، تحقیق و تدقیق، وسعتِ مطالعہ، صلاحیت رائے، فکری و فنی چیزوں اور اجتہادی ملکہ و ثقاہت کا ایسا کامل ثبوت ہے کہ آج تک اس کی افادیت میں کمی واقع نہیں ہو سکی۔ تقریباً ۸۰۰ سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا مقام قانونی دنیا میں بلند و بالا ہی ہے۔ ہر دور کے علماء، فقهاء اور ماہرین قانون اس سے برابر استفادہ کرتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر، جامع و مانع، مدلل و مربوط اور موجز متن تاریخ فقه و قانون میں آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔

علامہ مرغینانی رحمہ اللہ نے الہدایہ کی تالیف کا آغاز ۳۷۵ھ مادہ ذی القعدہ میں بروز بدھ وقت ظہر کیا تھا۔

ہدایہ کو علامہ مرغینانی رحمہ اللہ نے نہایت زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے ساتھ لکھا، یہ کتاب تیرہ (۱۳) سال کے عرصے میں مسلسل روزے کی حالت میں آپ نے لکھی، آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو اس عمل کی خبر نہ ہو:

فی تصنیفہ ثلاثة عشرة سنة، و كان صائمًاً تلک المدة و كان يجتهد ألا يطلع على صومه أحد. ①

صاحب ہدایہ کا اسلوب، منبع، طرزِ تالیف اور رموز سے واقفیت کے لئے دیکھیں: ②  
علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) نے اس مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ”بداية المبتدى“ کی مفصل و مدلل نہایت تفصیل کے ساتھ ”کفایۃ المنتهی“ کے نام سے اسی (۸۰) جلدوں میں شرح لکھی۔ ③

① العناية شرح الہدایہ: خطبة الكتاب، ج ۱ ص ۱ / مفتاح السعادة: الكتب المعتبرة، ج ۲ ص ۲۳۸

② مفتاح السعادة: الكتب المعتبرة، ج ۲ ص ۲۳۹، ۲۴۰

③ مفتاح السعادة: الكتب المعتبرة، ج ۲ ص ۲۳۹

یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی جو دیگر مصنفوں کے حصے میں نہ آ سکی، بلاشبہ ہدایہ فقہ حنفی کا جزو لainفک ہے، اور حنفی کتابوں میں اسے ایک معتبر اور معتمد متن کی سند اور حیثیت حاصل ہے۔

ہدایہ کی یہ مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ہدایہ کے حوالے سے طالبین و متنین کی شغف اور ان کی چاہت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کتاب کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی کمراہی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے، اور غور و فکر سے پڑھنے والے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خود اعتمادی اور دوسرے کلام کے صحیح معانی و مطالب اخذ کرنے کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، کسی شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے درج ذیل اشعار کہے ہیں:

إِنَّ الْهِدَايَةَ كَالْقُرْآنِ قَدْ نَسَخَتْ      مَا صَنَفُواْ قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبٍ  
فَاحْفَظْ قَوَاعِدَهَا وَاسْلُكْ مَسَالِكَهَا      يَسِّلُمُ مَقَالَكَ مِنْ زَيْغٍ وَمِنْ كِذَبٍ

یعنی قرآن کریم کی طرح ہدایہ نے بھی شریعت کے سلسلے میں لکھی گئیں اپنے سے پہلی تمام تصنیفات کو منسوخ کر دیا، لہذا اے مخاطب! تم ہدایہ کی تعلیم و تعلم کو لازم پکڑو، تمہاری گفتگو کذب و بھی سے محفوظ رہے گی۔

امام عمار الدین ابو بکر رحمہ اللہ "الہدایہ" کی تعریف میں فرماتے ہیں:

كِتَابُ الْهِدَايَةِ يَهْدِي الْهُدَى	إِلَى حَافِظِيهِ وَيَجْلُو الْعِمَى
فَلَازِمُهُ وَاحْفَظُهُ يَا ذَا الْحِجَّى	فَمَنْ نَالَهُ نَالَ أَقْصَى الْمُنْمَى

ہدایہ کی کتاب ہدایت دیتی ہے، اس کے حفظ کرنے والے کے اندر ہے پن کو دور کرتی ہے۔ اے عقل والے! اس کو لازمی پکڑو اور اسے یاد رکھو۔ پس جس نے اسے پالیا اُس نے خواہشات کی حدود کو پالیا۔

امام الحصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۵۲ھ) فرمایا کرتے تھے:

چاروں فقہی مسالک میں فقهاء نے بہت کتابیں لکھیں اور ان میں بعض مضامین اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ ہیں لیکن ہدایہ جیسی کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ حسن ترتیب اور حسن بیان دونوں کے اعتبار سے ہدایہ بے مثال کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ فتح القدر جیسی کتاب لکھو دو تو مجھے امید ہے کہ میں لکھ سکوں گا، لیکن اگر کوئی ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کے لئے

کہ تو شاید میں چند سطر میں بھی نہ لکھ سکوں۔ ①

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ ”الحمد للہ! میں ہر کتاب کے مخصوص طرز پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں لیکن چار کتابیں اس سے مستثنی ہیں:  
قرآن عزیز، بخاری شریف، مثنوی اور ہدایہ۔

علامہ کشمیری رحمہ اللہ کی علمی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی وفات پر آٹھ صدیاں گزرنے کو ہیں مگر ہدایہ آج بھی اس طرح نصاب میں باقی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جن مقاصد کے پیش نظر یہ کتاب نصاب میں داخل کی گئی ہے فقهہ ختنی میں کوئی دوسری کتاب اپ تک ایسی تصنیف ہی نہیں ہوئی جو اس کے قائم مقامی ہو سکے۔

شیخ الفہیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۲ھ) نے ”سراج الہدایہ“ کے آغاز میں ہدایہ کے بارے میں یہ کلمات تحریر کئے، ان کا یہ جملہ ہدایہ کی ایک منفرد خصوصیت کی نشاندہی کر رہا ہے:

دریا کی ظاہری سطح پر تیرنے سے موتی ہاتھ نہیں آتے۔ موتی اس کے ہاتھ لگتے ہیں جو دریا کی گہرائی تک غوطہ لگانے کی قدر ترکھتا ہو، ان جیسے رائخین فی العلم میں سے شیخ مرغینانی رحمہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے شرائع اسلام یعنی احکامِ شرعیہ کی تحقیق و تدقيق پر ”ہدایہ“ کے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی، جو احکامِ شرعیہ کی تحقیق و تدقيق اور علم کی گہرائی میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ ہر مسئلہ پر ائمہ اربعہ کے اقوال اور ہر قول کی ایک ایک دلیل نقلي اور ایک ایک دلیل عقلی بیان کی۔ پھر آخر میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی ایک دلیل نقلي اور ایک دلیل عقلی بیان کرنے کے بعد ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی ہر دلیل نقلي اور دلیل عقلی کا جواب دیا۔ اس طرح بسا اوقات تین اماموں کی چھ دلیلیں اور ان کے چھ جواب مل کر بارہ ہوتے ہیں اور دو دلیلیں ابوحنیفہ کی اور ایک وجہ ترجیح سب مل کر پندرہ دلائل کا ذخیرہ چند سطروں میں سامنے آ جاتا ہے اور قاری پر حیرت و استتعاب کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ②

”الهداية“ یہ پہلے مکتبہ خیریہ مصر سے ۱۳۲۶ھ میں طبع ہوئی۔ پھر شیخ عبد الرحیم بن مصطفیٰ عدوی کی تحقیق اور تعلیق کے ساتھ مصطفیٰ البابی حلبی سے ۱۳۵۵ھ میں طبع ہوئی۔ پھر ہندوستان میں

١٣- نصب الراية: مقدمة المحقق، ج ١ ص

۳۵، ۳۶ اور صاحب بذریعہ: ص

علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) کے حواشی و تعلیقات کے ساتھ ۱۳۷۵ھ میں نہایت اہتمام کے ساتھ طبع ہوئی۔

کئی اکابر اہل علم نے ہدایہ کی شروح و حواشی اور تخریج حدیث کی، ان میں چند ایک درج ذیل ہیں:

۱..... ”الفوائد الفقهیة“ علامہ جمیل الدین علی بن محمد بن علی الضریر رحمہ اللہ (متوفی ۶۶۶ھ)

۲..... ”نہایۃ الکفایۃ فی درایۃ الہدایۃ“ علامہ تاج الشریعہ عمر بن صدر الشریعہ الاول عبید اللہ الحجوی رحمہ اللہ (متوفی ۶۷۲ھ)

۳..... ”الغاۃ“ امام ابوالعباس احمد بن ابراہیم السروجی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۶ھ)

۴..... ”النہایۃ شرح الہدایۃ“ امام حسام الدین حسین بن علی سعفانی المعروف شارح الہدایہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۶ھ)

امام جمال الدین محمود بن احمد القونوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۷۷ھ) نے اس کی تلخیص ”خلاصة النہایۃ فی فوائد الہدایۃ“ کے نام سے کی۔

۵..... ”شرح الہدایۃ“ حافظ الدین ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد النسفي (متوفی ۱۰۷۶ھ) امام نسفي رحمہ اللہ نے یہ شرح قیام بغداد کے دوران ۴۰۰ھ میں تصنیف کی۔

۶..... ”شرح الہدایۃ“ امام احمد بن حسن المعروف بابن الزرکشی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۸۷ھ)

۷..... ”معراج الدرایۃ إلی شرح الہدایۃ“ امام قوام الدین محمد بن محمد سکا کی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۷ھ)

۸..... ”شرح الہدایۃ“ علامہ علاء الدین علی بن عثمان ترکمانی ماردنی (متوفی ۱۵۰۷ھ) وہ اسے خود مکمل نہ کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد اس کی تکمیل ان کے بیٹے جمال الدین عبد اللہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۷۶ھ) نے کی۔

۹..... ”شرح الہدایۃ“ امام نجم الدین ابراہیم بن علی طرطوسی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵۷ھ)

۱۰..... ”غایۃ البیان و نادرۃ الأقران“ امام قوام الدین امیر کاتب بن امیر عمر الاتقانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵۸ھ)

۱۱..... ”الکفایۃ فی شرح الہدایۃ“ امام سید جلال الدین بن شمس الدین خوارزمی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۶۷ھ)

۱۲..... ”التوشیح“ علامہ سراج الدین عمر بن اسحاق غزنوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۷۳ھ)

۱۳.....”العنایة شرح الهدایۃ“ علامہ اکمل الدین محمود بن محمد بابری رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۷ھ)

اس شرح کے متعلق حاجی خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وقد أحسن فيه وأجاد“ یہ نہایت مفید شرح ہے، اس میں متوسط انداز میں کتاب کو حل کیا گیا ہے، ہر کتاب کی دوسری کتاب سے مناسبت، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی معنی، اُس کتاب کی اہمیت و ضرورت، ائمہ ثالثہ کی آراء، راجح مذهب کی نشاندہی، نہایت متفق و مہذب انداز میں بچے تک الفاظ کے ساتھ مصنف کی مراد کیوضاحت کرتے ہیں، یہ شرح دوں جلدوں میں دارالفنون سے چھپ چکی ہے۔

۱۴.....”شرح الهدایۃ“ علامہ سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۶ھ)

۱۵.....”البنایہ شرح الهدایۃ“ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) علامہ عینی رحمہ اللہ بنایہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ۹۰ سال کی عمر کے قریب میری عمر ہے جب میں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ ①

وفات سے پانچ سال قبل یعنی ۸۵۰ھ میں آپ کی یہ تصنیف مکمل ہوئی، حل کتاب کے لحاظ سے ہدایہ کی شروحات میں یہ شرح سب سے ممتاز ہے، مصنف نے حل لغات، غریب الفاظ کیوضاحت، ہدایہ کی عبارت کی توضیح، ائمہ احناف کے مذاہب، دلائل اور ترجیح، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے راجح قول کی نشاندہی، ائمہ ثالثہ کے مذاہب و دلائل، اُن کے دلائل کے جوابات، مذهب احناف کی ترجیح، احادیث کی تخریج، احادیث احکام کا تفصیلی تذکرہ، مرفوع، موقوف، مقطوع تینوں ذخیروں سے استفادہ، نہایت سہل عبارت کے ساتھ کتاب کی توضیح و تشریح کی ہے، یہ شرح ۱۳۲۰ھ میں تیرہ جلدوں میں دارالكتب العلمیہ سے چھپ چکی ہے۔

۱۶.....”فتح القدير“ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ)

مصنف حدیث، فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیت میں خوب دسترس رکھتے تھے، علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ ان کا تذکرہ ان القابات کے ساتھ کرتے ہیں:

کان إماماً نظاراً فارساً في البحث فروعاً أصولياً محدثاً مفسراً حافظاً  
نحوياً كلامياً منطقياً جديلاً. ②

آپ نے اس شرح کا آغاز ۸۲۹ھ میں کیا، مصنف نے نہایت بسط کے ساتھ محققانہ انداز میں یہ

① البنایہ: ج ۱۳ ص ۵۳۵

② الفوائد البهیة: ترجمة: محمد بن عبد الواحد، ص ۷۹

شرح لکھی، اس میں لغات کی وضاحت، الفاظ کی تشریح، عبارت کا حل، احادیث کی تخریج، رؤاٹ پر نقد و برج، الفاظ حدیث کی وضاحت، احادیث کے دیگر طرق و متابع کا ذکر، اگر روایت بالمعنی ہے تو اصل الفاظ کی نشاندہی، احادیث احکام کا تفصیلی ذکر، ائمہ شافعیہ کے مذاہب و دلائل، حنفی نقطہ نظر کی اعتدال کے ساتھ وضاحت، تسامحات کی نشاندہی، فروعی مسائل کا ذکر، دلائل عقلیہ، نقلیہ کا تذکرہ، ہر کتاب کے شروع میں لغوی، اصطلاحی اور فنی معلومات، جامیجا اصول فقہ اور علوم عربیت کے قواعد و فوائد کا تذکرہ، یہ شرح علوم و معارف، تحقیق و تدقیق کا ایک گنجینہ ہے۔ مصنف جب ”كتاب الوکالة“ میں ”العقد الذى یعقده الوکلاء على ضریبین“ پر پہنچ تو آپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس شرح کی تکمیل علامہ شمس الدین احمد بن قودر المعروف قاضی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۸ھ) نے ”نتائج الأفکار فی کشف الرموز والأسرار“ کے نام سے اس کا تکملہ لکھا، یہ کتاب اور تکملہ مصطفیٰ البابی حلبی سے ۱۳۸۹ھ میں دو جلدیں میں چھپ چکی ہے۔

ہدایہ پر لکھی گئی مزید شروح، حواشی، تعلیقات اور اختصارات کے لئے تفصیلاً دیکھئے: ①

ہدایہ میں موجود مرفوع روایات، اقوال صحابہ اور آثار تابعین کی تخریج پر لکھی گئی کتابیں:

۱..... ”الکفایة فی معرفة أحادیث الهدایة“ علامہ علاء الدین علی بن عثمان المعروف

ترکمانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۰۷ھ)

۲..... ”نصب الرایۃ لأحادیث الهدایۃ“ علامہ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف

زیلیعی رحمہ اللہ (متوفی ۶۲۷ھ)

۳..... ”العنایۃ فی تخریج أحادیث الهدایۃ“ علامہ عبدال قادر قرشی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۷ھ)

۴..... ”الدرایۃ فی تخریج أحادیث الهدایۃ“ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ (متوفی

۸۵۲ھ) یہ امام زیلیعی رحمہ اللہ کی ”نصب الرایۃ“ کی تلخیص ہے۔

۵..... ”منیۃ الالمعی فیما فات من تخریج أحادیث الهدایۃ للزیلیعی“ علامہ

قاسم بن قطلو بغار رحمہ اللہ (متوفی ۸۷۹ھ)

محقق العصر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۹۲ھ) صاحب ہدایہ کی علم حدیث میں جالست

شان اور ہدایہ میں موجود روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

قلت: ويدل على كونه محدثا حافظا للحديث كثرة ما أو دعه في كتبه لا سيما

الهداية من الأحاديث، وقد اعتنى الحافظ الزيلعى بتخریجها في كتاب سماه ”نصب الراية في تخریج أحاديث الهدایة“ ولخصها الحافظ ابن حجر العسقلانى فسماه ”الدرایة لأحاديث الهدایة“ وكل حديث قال فيه الحافظان ”غريب لم نجده“ قد وجدت الكثير منه والله الحمد في كتاب الخراج للإمام أبي يوسف، وفي كتاب الآثار له وفي كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن، وفي كتاب الحجج له، رحمه الله عليهما، ويidel على براعته في العربية والأدب ما في كتاب الهدایة من الفصاحة والبلاغة والانسجام والسلامة كما اعترف به بعض الأدباء من الشيعة حيث قال: أفصح الكتب في الإسلام بعد كتاب الله البخاري ثم الهدایة، ولعله لم يطلع على الموطأ للإمام محمد رحمه الله ولا على الجامع الصغير له، وإنما قال: أفصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ لمحمد رحمه الله ثم البخاري ثم الجامع الصغير لمحمد ثم الهدایة.<sup>①</sup>

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ صاحب ہدایہ کے محدث اور حافظ الحدیث ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ اپنی کتابوں میں احادیث نقل کی ہیں، خصوصاً ہدایہ میں۔ حافظ زیلعی نے ان احادیث کی تخریج اپنی کتاب ”نصب الراية في تخریج أحاديث الهدایة“ میں کی ہے۔ اس کتاب کی تخلیص حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”الدرایة لأحاديث الهدایة“ کے نام سے کی۔ ہر وہ حدیث جس کے بارے میں ان دونوں حفاظ حدیث نے فرمایا کہ یہ روایت غریب ہے ہمیں نہیں ملی، اُن میں سے اکثر احادیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امام ابو یوسف کی ”کتاب الخراج“ اور ”کتاب الآثار“ اور امام محمد کی ”کتاب الآثار“ اور ”کتاب الحجج“ میں مل گئیں۔

صاحب ہدایہ کی عربیت اور ادبیت میں مہارت کا اندازہ ہدایہ کی فضیح و بلیغ مربوط اور سلاست بھری عبارت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض شیعہ ادباء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام میں کتاب اللہ کے بعد سب سے فضیح کتاب بخاری اور پھر ہدایہ ہے۔ شاید یہ امام محمد کی ”الموطأ“ اور ”الجامع الصغير“ پر مطلع نہیں ہوئے، ورنہ یہ کہتے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے فضیح کتاب امام محمد کی ”الموطأ“ پھر ”صحیح البخاری“ پھر ”الجامع الصغير“ اور پھر ”الهدایۃ“ ہے۔

ہدایہ پڑھاتے وقت حل کتاب کے لئے ”البنایۃ“ ”تفصیلات“، ”دلائل“، ”جزئیات“ کے لئے ”فتح القدیر“ اور تخریج احادیث کے لئے ”نصب الراية“ کا مطالعہ کریں۔

① أبو حنيفة وأصحابه المحدثون: ترجمة: على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، ص ۲۱۱، ۲۱۲

بعض اہل علم نے ہدایہ کے نفس مسائل کو بغیر دلائل کے بھی جمع کیا، ان میں امام ابوالطحی محمد بن عثمان رحمہ اللہ (متوفی ۷۸۷ھ) کی "الرعایۃ فی تحرید مسائل الہدایۃ" اور علامہ طاش کبری زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۶۸ھ) کی "اصحاب البدایۃ والنہایۃ فی تحرید مسائل الہدایۃ" کا نام ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے ہدایہ کی تلخیص بھی کی، ان میں نمایاں نام علامہ علاء الدین علی بن عثمان ماردینی رحمہ اللہ (متوفی ۷۵۰ھ) کی "الکفایۃ فی تلخیص الہدایۃ" کا ہے۔

ہدایہ کے مسائل اور دلائل پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات پر علامہ عبدالرحمٰن بن کمال رحمہ اللہ نے "ترغیب اللبیب" لکھی۔

ہدایہ پر لکھی گئی تعلیقات میں چند ایک درج ذیل ہیں:

۱..... تعلیقات: امام سراج الدین عمر بن علی المعروف قاری الہدایہ رحمہ اللہ (متوفی ۸۲۹ھ)

۲..... تعلیقات: امام احمد بن سلیمان ابن کمال پاشار رحمہ اللہ (متوفی ۹۳۰ھ)

۳..... تعلیقات: مجشی بیضاوی شیخ زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۹۵۰ھ)

۴..... تعلیقات: امام ابوالسعود عماری رحمہ اللہ (متوفی ۹۸۲ھ)

۵..... تعلیقات: امام عبدالحیم المعروف اخی زادہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۱۳ھ)

ہدایہ پر لکھے گئے جواشی میں زیادہ مقبولیت پاک و ہند میں علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۰۲ھ) کے حاشیہ کو ملی۔

ہدایہ کی اہل علم نے متنوع اعتبارات سے خدمت کی ہے، کسی نے اس کی عبارت کی شرح کی، تو کسی نے اس کی احادیث کی تخریج کی، کسی نے اس کا اختصار کیا، تو کسی نے اس کے مسائل کی تحرید کی، کسی نے اس پر تعلیقات لکھیں، تو کسی نے ہدایہ میں موجود دلائل کی وضاحت کی، لیکن صاحب ہدایہ نے جو جابجا اپنے تحریف قہی، خداداد صلاحیت اور کمال علم کی روشنی میں جواصول و قواعد ذکر کئے تھے ان کی طرف کسی نے خصوصی توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ اصول فقہی بصیرت پیدا کرنے اور دماغی درپیکوں کے کھولنے میں نہایت مدد و معاون ہیں۔ یہ اصول عموماً موصوف نے دلائل عقلیہ کی صورت میں ذکر کئے ہیں۔ ان اصولوں کو موضوعِ خن بننا کر مستقل طور پر حضرت مولانا عبدالجید جوزجانی مدظلہ (الباحث: تخصص فی علوم الحدیث دارالعلوم دیوبند) نے جمع کیا۔ موصوف نے نہایت تتفق اور عرق ریزی کے

ساتھ ہدایہ کی چاروں جلدوں سے ان قواعد کا انتخاب کر کے اسے اصول کا جامہ پہنایا۔ موصوف اس محنت پر بڑی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نہایت محنت و جستجو کے ساتھ ان اصولوں کو بیکجا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اپنی شایان شان دنیا و آخرت میں انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین

رقم نے ان اصولوں کا رد و ترجمہ، تشریح اور تخریج کی ہے۔ اصولوں کی تخریج مکتبہ رحمانیہ لاہور کے نسخے کے مطابق کی ہے۔ بامحاورہ اصولوں کا ترجمہ کیا، اختصار کے ساتھ تشریح و توضیح ذکر کی، اور دیگر کتب حفیہ میں جہاں بعینہ یا اسی کے مفہوم میں اصول استعمال ہوا ہے تو حاشیہ میں اس کی تخریج کی ہے۔ اصولوں کی فہرست ابواب کی ترتیب پر بنائی ہے تا کہ استفادہ آسان ہو۔

یاد رہے کہ اس میں بعض اصول ائمہ حنفیہ کی آراء ہیں جنہیں اصول کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ چند ایک اصول ایسے ہیں جن پر مسائل کی تفریغ نہیں ہوئی لیکن مصنف نے انہیں بطور اصول کے ذکر کیا ہے، اس لئے رقم نے انہیں برقرار رکھا ہم ہدایہ اور فقہی بصیرت کے لئے یہی فائدے سے خانہ نہیں ہیں۔

رقم نے اس میں زیادہ تر استفادہ علامہ بابری رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۷ھ) کی "العنایۃ" علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ (متوفی ۸۵۵ھ) کی "البنایۃ" اور علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (متوفی ۸۶۱ھ) کی "فتح القدیر" اور حضرت مولانا جمیل احمد سکرور ڈھوی صاحب کی "اشرف الہدایہ" اور حضرت مفتی عبدالحیم قاسمی بستوی صاحب کی "حسن الہدایہ" سے کیا ہے۔ باقیہ جن کتب سے تخریج کی ہے ان کا حوالہ حاشیہ میں دے دیا ہے۔

میرے شاگرد رشید حافظ محمد اعجاز بن طاؤس خان حفظہ اللہ نے اس کام میں میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رقم کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

محمد نعمان

استاذ جامعہ انوار العلوم مہر ان ٹاؤن کو روگی کراچی

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ / ۱۵ جنوری ۲۰۱۸ء

كتاب الطهارات

(١) إِنَّ الْغَایَةَ إِنْ كَانَتْ لِإِسْقَاطٍ مَا وَرَاءَ تَدْخُلٍ تَحْتَ الْمُغَیَّبًا وَإِنْ كَانَتْ بِمَدِ الْحُکْمِ لَا تَدْخُلُ. ①

ترجمہ: غایہ اگر اپنے ماوراء کو ساقط کرنے کے لئے ہوتے مغیا کے تحت داخل ہوگی، اور اگر یہ صرف حکم کو کھینچنے کے لئے ہوتے پھر غایہ مغیا میں داخل نہیں ہوگی۔

تشریح: اصول مذکورہ اور اس پر ذکر کی گئی تفریع سے قبل اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ غالباً  
کی دو قسمیں ہیں:

[۱] غایتِ اسقاط [۲] غایتِ اثبات

غایتِ اثبات کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی غاییہ حکم میں شامل نہ ہو، لیکن اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیا تک پہنچا دے، اور غایتِ اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو لیکن اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل نہ ہونے دے۔ ان دونوں کا دار و مدار صدر کلام پر ہے، یعنی غاییہ اگر اپنے ماقبل مغیا کی جنس سے ہے تو وہ غاییہ غایتِ اسقاط کہلانے گی، اور حکم میں شامل ہو گی، اور اگر غاییہ مغیا کی جنس میں سے نہ ہو تو پھر وہ غاییہ غایتِ اثبات کہلانے گی اور حکم میں داخل نہ ہو گی۔

صاحب ہدایہ اصول مذکورہ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ دونوں کہنیوں اور دونوں گھنٹوں کو بھی وضو میں دھونا ضروری ہے، جس طرح ہاتھوں اور پیروں کا دھونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”مرفق“ اور ”کعب“ دونوں ”یہد“ اور ”رجل“ کی جنس میں سے ہیں اور یہ غاییہ غلیتِ اسقاط ہے اور مغیا میں داخل ہے، لہذا جس طرح ”یہد“ اور ”رجل“ کا دھونا وضو میں ضروری ہے اسی طرح ان کی غاییہ یعنی ”مرفق“ اور ”کعب“ کا دھونا بھی وضو میں ضروری ہوگا۔ البتہ مذکورہ غاییہ چونکہ غایتِ اسقاط ہے، اس نے مرفق اور کعب کے علاوہ دیگر حصے مغیا کے حکم سے خارج ہوں گے اور ان کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ ”یہد“ کا اطلاق کندھے تک ہوتا ہے، اگر یہ غاییہ نہیں

ہوتی تو ہاتھ مکمل کندھے تک دھویا جاتا، اس غایبی نے ”مرفق“ کے علاوہ ساقط کر دیا۔

اس کے برخلاف ”أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ“ میں ”لیل“ چونکہ ”صوم“ کی جنس میں سے نہیں ہے اس لئے لیل روزے کے حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ غایبی غایبیت اثبات ہے اور غایبیت اثبات مغایا کے حکم میں داخل نہیں ہوتی۔ البتہ ”لیل“ والی غایبی کا فائدہ یہ ہو گا کہ وہ حکم ”صوم“ کو اپنے تک کھینچ لائے گی، یعنی رات صوم میں داخل نہیں ہو گی مگر صوم رات تک ہی ہو گا، رات آنے سے پہلے روزہ مکمل نہیں ہو گا۔ لغت کے اعتبار سے ”صوم“ کا اطلاق تھوڑی دریکھانے، پہنچنے اور جماع سے رکنے پر بھی ہوتا ہے، تو یہ غایبی مدد حکم کے لئے ہے کہ اس نے بتایا کہ روزہ وہ شرعاً معتبر ہے جو ”لیل“ تک ہو۔ ①

(۲) إِنَّ لِلَّاْكُثِيرِ حُكْمُ الْكُلِّ.

ترجمہ: اکثر کے لئے کل کا حکم ہوتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ ذکر کر کے مسح رأس کی فرض مقدار کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے نہ کہ مکمل سر کا، اور اسی اصول پر بعض علماء احناف کا قول پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مقدار ناصیہ کی تقدیر تین انگلیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ میں انگلیاں اصل ہیں اور تین انگلیاں اکثر ہیں اور ”لِلَّاْكُثِيرِ حُكْمُ الْكُلِّ“ اس قاعدے کے تحت تین انگلیوں کو کل کے قائم مقام بنا کر یہ حکم دیا کہ اگر صرف تین

❶ قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَدْخُلُنَّ لِأَنَّ الْغَایَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَایَةَ كَاللَّیلِ فِي الصَّوْمِ قُلْنَا نَعَمْ لِكُنَّ الْمَرَافِقُ وَالْكَعْبَانِ غَایَةٌ إِسْقَاطٍ فَلَا يَدْخُلُنَّ فِي الْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ (وَأَيْدِيْكُمْ)  
(المائدۃ: ۶) يَسْأَوْلُ كُلَّ الْأَيْدِیْدِیِّ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَلَمَّا قَالَ إِلَى الْمَرَافِقِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ  
ذَاهِلًا تَحْتَ السُّقُوطِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَدْخُلُ فِي الْمَحْدُودِ فَبِقِيَ الْغَسْلُ ثَابِتًا فِي الْيَدِ مَعَ الْمَرَافِقِ  
وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لَيْسَ الْغَایَةُ غَایَةً إِسْقَاطٍ وَإِنَّمَا هِيَ غَایَةً امْتِدَادِ الْحُكْمِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ  
يُطْلَقُ عَلَى الْإِمسَاكِ سَاعَةً فَهِيَ غَایَةٌ إِثْبَاتٍ لَا غَایَةٌ إِسْقَاطٍ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۱۸، ط: رحمانیہ

الْكَلِيلُوْنَ كَمَدَارِ سَرْكَاسْحَ كَيَا جَائَهُ تَوْيِيْسْحَ شَرْعَاهُ كَافِيْهُ جَاءَهُ گَاهُ۔ ①

(۳) إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَقْعُدُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلِكُنَّهُ يَقْعُدُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ۔ ②

ترجمہ: وضو بغیر نیت کے عبادت تو نہیں بن سکتا البتہ نماز کے لئے مفتاح (آلہ) کا درجہ رکھتا ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ احناف کے ہاں وضو میں نیت کرنا سنت ہے نہ کہ فرض۔ یہ بات مسلم ہے کہ وضو میں عبادت کا جو وصف ہے وہ بغیر نیت کے متحقق نہیں ہو سکتا، وضو کا ثواب بغیر نیت کے حاصل نہیں ہوتا، لیکن وضو بغیر نیت کے بھی مفتاح صلاة بن سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی مفتاح طہارت ہے اور طہارت کے لئے نیت ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ پانی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا“ (الفرقان: ۳۸) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کے لئے نیت کا ذکر نہیں کیا، لہذا اپنی کو جب بھی کوئی شخص وضو بغیرہ کے لئے استعمال کرے گا اور وضو کے فرائض اربعہ کی تکمیل کرے گا تو بلاشبہ اس شخص کا وضو متحقق ہو جائے گا، خواہ نیت کرے یا نہ کرے، لہذا معلوم ہوا کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے نہ کہ فرض۔ ③

① إِلَّا نَا مَأْمُورُونَ بِالْمَسْحِ بِالْيَدِ وَالْأَصَابِعِ أَصْلُهَا وَالثَّلَاثُ أَكْثُرُهَا وَلِلأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ۔

[مجمع الأنہر: کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۱، ط: دار إحياء التراث]

وتقدير الفرض بثلاثة أصابع الخ "أى من أصغر أصابع اليد لأن الأصابع أصل اليد حتى يجب بقطعها دية كل اليد والثلاث أكثرها وللأكثر حكم الكل.

[حاشیۃ الطھطاوی علی مراقبی الفلاح: کتاب الطہارۃ، فصل فی أحكام الوضوء، ج ۱ ص ۲۰، ط: دار الكتب العلمية]

② الہدایہ: کتاب الطہارۃ، ج ۱ ص ۲۲، ط: زمانیہ

③ وَأَمَّا الْمَاءُ فَمُطَهَّرٌ بِطَبَعِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ قُرْبَةً بِدُونِ النِّيَّةِ لِكُنَّهُ يَقْعُدُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُطَهَّرِ۔

[الجوهرۃ النیرۃ: کتاب الطہارۃ، سنن الطہارۃ، ج ۱ ص ۷، ط: المطبعة الخیریۃ]

فإنَّه لا يحصل له ثواب الوضوء بدون النية، إِذ الشَّوَابُ لا يحصل إِلَّا بالقرابة وَلَا يقع قربة إِلَّا بالنِّيَّةِ عندنا أيضًا، ولكنَّه يقع مفتاحًا لِلصَّلَاةِ بدونها.

[الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: ص ۲۰، ط: مؤسسة الكتب]

فَلَمْ يَرَهُ . فَلَمْ يَرَهُ .

(۴) إِنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُظَهِّرٍ إِلَّا فِي حَالٍ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ. ①

ترجمہ: مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے مگر ارادہ صلاۃ کی حالت میں۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ کو امام شافعی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس قیاس کے رد میں لائے ہیں جو انہوں نے وضو کو تیم پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح تیم میں نیت کرنا ضروری ہے اسی طرح وضو میں بھی نیت کرنا ضروری ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا وضو کو تیم پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لئے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور پانی بذاتہ پاک کرنے والا ہے، اور تیم مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی بذاتہ پاک کرنے والی نہیں بلکہ یہ جسم کو ملوث اور معیر کرنے والی ہے مگر یہ کہ ارادہ صلاۃ کی حالت میں۔ پانی کے نہ ملنے کی صورت میں ارادہ نماز کے وقت خلاف قیاس مٹی کو مطہر بنا دیا جاتا ہے، جسے فقہاء کرام کی اصطلاح میں امر تعبدی کہا جاتا ہے، امر تعبدی نیت کے محتاج ہوتے ہیں بغیر نیت کے امر تعبدی کا تحقق نہیں ہوتا، اس لئے تیم میں نیت کرنا ضروری ہے لیکن اس ضرورت کو وضو کے لئے لازم نہیں قرار دیا جاسکتا، لہذا وضو کو تیم پر قیاس کر کے یہ حکم لگانا کہ جس طرح تیم میں نیت کرنا ضروری ہے اسی طرح وضو میں بھی نیت کرنا ضروری ہے یہ درست نہیں۔ ②

(۵) إِنَّ التَّغْرِيرَ لَا يَضُرُّ الْغَسْلَ بِخَلَافِ الْمَسْحِ فَإِنَّهُ يَضُرُّهُ. ③

ترجمہ: تکرار غسل کے لئے مضر نہیں ہے بخلاف مسح کے اس کے لئے تکرار مضر ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کے ذریعہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ غسل میں

① الہدایہ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۲، ط: زرجمانیہ

② بِخَلَافِ التَّيْمٍ فِي إِنَّ التُّرَابَ لَمْ يُعْقِلْ مُظَهِّرًا طَبَعًا فَلَمْ يَقِنْ فِيهِ إِلَّا مَعْنَى التَّعْبُدِ وَلَا تَعْبُدَ بِدُونِ النِّيَّةِ.

[العنایہ شرح الہدایہ: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۳، ط: دار الفکر]

(لأن التراب غير مطهر) يعني لم يعقل مطهرا؛ لأنه في ذاته ملوث ومغير فلا يكون مطهرا (إلا في حالة إرادة الصلاة) فتكون طهارته بدلا عن الوضوء، لأنه بطبيعة وحقيقة مطهر.

[العنایہ شرح الہدایہ: کتاب الطهارة، السنیۃ فی الوضوء، ج ۱ ص ۲۳۶، ط: دار الكتب العلمیة]

③ الہدایہ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۳، ط: زرجمانیہ

احناف کے ہاں تکرار مسنون ہے لیکن مسح میں تکرار نہیں ہے۔ اس اصول کو ایک مثال کے ذریعہ سے واضح کیا ہے (اصول مذکورہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب بھی ہے جو انہوں نے سر کے مسح کو اعضاء مغسلہ پر قیاس کیا)۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے نہ کہ دھونا، اب اگر مسح میں تثییث اور تکرار کو مان لیا جائے اور اعضاء مغسلہ کی طرح تین مرتبہ مسح کیا جائے تو اس صورت میں یہ مسح، مسح نہیں رہے گا بلکہ تکرار کی وجہ سے غسل بن جائے گا، جبکہ قرآن کریم میں مسح کا حکم ہے۔ سر کا مسح موڑے کے مسح کے مشابہ ہے، جس طرح موڑے کے مسح میں تثییث اور تکرار مسنون نہیں، اسی طرح سر کے مسح میں بھی تکرار مسنون نہیں ہو گا، لیکن اس کے برخلاف غسل میں تکرار اور تثییث مسنون ہے کیونکہ تکرار غسل کے لئے مفید ہے اس سے مزید نظافت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جبکہ مسح کے لئے تکرار ضرر ہے۔ ①

(۶) إِنَّ الْوَأْوَالِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ الْلُّغَةِ. ②

ترجمہ: حرف و او اہل لغت کے متفرقہ فیصلے کی وجہ سے مطلق جمع کے لئے آتا ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ احناف کے ہاں وضو میں ترتیب مسنون ہے نہ کہ فرض جیسا کہ حضرات ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔

”فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ“، اس آیت میں ارکان وضو کے درمیان حرف و او آیا ہے، جو مطلق جمع کے لئے آتا ہے، ترتیب کے لئے نہیں آتا، اس لئے اعضاء مفروضہ کے

---

① وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَسْحَ يُفْسِدُ التَّكْرَارَ، بِخَلَافِ الْغَسْلِ فِإِنَّهُ لَا يُفْسِدُهُ، فَكَانَ قِيَاسُ الشَّافِعِيٍّ الْمَمْسُوحَ عَلَى الْمَغْسُولِ فَاسِداً.

[العنایة: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۲، ط: دار الفکر]

أن المسح يفسد التكرار بخلاف الغسل فإنه لا يفسد بل يزيده نظافة وتنقية فكان قياس الشافعى الممسوح على المغسول فاسداً.

[البنيان: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۲۲۳، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایۃ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۳، ط: زرجمانیہ

درمیان ترتیب فرض نہیں ہے، مگر چونکہ احادیث مبارکہ میں قرآنی ترتیب کے مطابق وضو کا ذکر

ہے اس لئے وضو میں ترتیب سنت مؤکد ہے۔ ①

## فصل فی نواقض الوضوء

(۷) إِنَّ كَلِمَةً "مَا" عَامَّةٌ. ②

ترجمہ: کلمہ "ما" عموم کے لئے آتا ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے خارج ہو وہ ناقض وضو ہے، خواہ وہ شی معتاد ہو یا غیر معتاد شی، معتاد جیسے بول و برآزو اور غیر معتاد جیسے کیڑا، کنکر اور استخاضہ کا خون، یہ سب ناقض وضو ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں غیر معتاد چیزیں مثلاً: کیڑا، کنکر، استخاضہ کا خون، سلسل البول، انطلاق بطن وغیرہ ناقض وضو ہیں ہے۔ احناف کے ہاں "مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلِينَ" کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو شامل ہو گا خواہ وہ معتاد ہو جیسے: بول و برآزو اور غیر معتاد جیسے: کیڑا، کنکر وغیرہ۔

❶ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي تَرْتِيبِ الْأَعْصَاءِ، وَالدَّاخِلُ فِيهَا الْوَاوُ وَهِيَ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَدْعَى الْمُصَنِّفُ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْلُّغَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ يُفِيدُ التَّرْتِيبَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يُفِيدُ الْقِرَآنَ، أُجِيبَ بِأَنَّ أَبَا عَلَى الْفَارِسِيَّ ذَكَرَ أَنَّ النُّحَاهَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ، ذَكَرَهُ سِيَّبَوَيْهُ فِي سَبْعَةِ عَشَرَ مَوْضِعًا فِي كِتَابِهِ فَأَعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ وَبِأَنَّ خِلَافَ الْقَلِيلِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْمَاعَ الْلُّغَوِيَّ.

[العنایہ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۳۵، ط: دار الفکر]

"الترتیب" سنة مؤكدة في الصحيح وهو "كما نص الله تعالى في كتابه ولم يكن فرضا لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع والفاء التي في قوله تعالى (فاغسلوا) لتعليق جملة الأعضاء.

[مراقب الغلاح: فصل في سنن الوضوء، ص ۳۲، ط: المكتبة العصرية]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۲، ط: رحمانیہ

لہذا کلمہ "ما" اپنی عمومیت کی وجہ سے سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز کو شامل ہو گا اور اس سے وضو

ٹوٹ جائے گا۔ ①

(۸) إِنْ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ. ②

ترجمہ: نجاست کا نکنا طہارت کے زائل ہونے میں مؤثر ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل عقلی کے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے پیش ہے کہ خارج من غیر اسپیلین میں سے بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو ناقض وضو ہیں اور ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے خون، پیپ وغیرہ، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ خون، پیپ وغیرہ جسم سے نکل کر بہہ جائے اور ایسے مقام کی طرف تجاوز کر جائے جس کو غسل یا وضو میں پاک کرنے کا حکم ہے یعنی سبیلین کے علاوہ دوسرے مقام سے خروج میں صرف نجاست کا ظاہر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سیلان شرط ہے۔

بہر حال اصول مذکورہ اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اتنی بات تو مسلم ہے کہ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں طہارت زائل ہو جاتی ہے، یہ صورت اصل اور مقیس علیہ ہے اور حدیث میں قی اور رعاف وغیرہ کو ناقض وضوشمار کیا گیا ہے اور یہ چیزیں غیر سبیلین سے خارج ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ خارج من اسپیلین بھی ناقض وضو ہے اور خارج من غیر اسپیلین بھی ناقض وضو ہے اور دونوں صورتوں میں انسان کی طہارت زائل ہو جاتی ہے اور زوال طہارت کے بعد حصول طہارت کے لئے اعضاء اربعہ کو لازماً دھونا پڑتا ہے اور چونکہ اصل یعنی خارج من اسپیلین

❶ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: إِذَا قَالَ لِأَمْتَهِ إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكَ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدْتِ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَا تَعْتِقُ لَأَنَّ كَلِمَةَ "ما" عَامَةٌ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرًا.

[الجوهرة النيرة: كتاب العق، ج ۲ ص ۰۳۱، ط: المطبعة الخيرية]

(فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدَيِّ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءٌ لَهُ عَلَيْهَا لَأَنَّهَا لَمْ تَغْرُهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ لَأَنَّ كَلِمَةَ "ما" عَامَةٌ تَسَاءَلُ الْمَالَ وَغَيْرَهُ).

[العنایة: کتاب الطلاق، باب الخلع، ج ۳ ص ۲۲۲، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الطہارات، ج ۱ ص ۲۲، ط: زمانیہ

میں حصول طہارت کے لئے اعضاء اربعہ کو دھویا جاتا ہے تو اسی پر قیاس کر کے فرع یعنی خارج میں غیر اسپیلین میں بھی اعضاء اربعہ کے دھونے کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں انسان کی طہارت زائل ہوتی ہے، اسی لئے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ نجاست کا نکنا طہارت کے زائل ہونے میں موثر ہے اور نجاست کا خروج چونکہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے لہذا عسل میں دونوں کا حکم ایک ہو گا۔ ①

(۹) إِنَّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا. ②

ترجمہ: ہر وہ چیز جو حدث نہ ہو تو وہ نجس بھی نہیں ہو گی۔

شرح: صاحب ہدایہ نے ایک فقہی ضابطہ ذکر کیا ہے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حدث یعنی ناقض وضو نہ ہو تو وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں ہو گی، جیسے قمی قلیل اور دم غیر سائل وغیرہ یہ نجس نہیں ہیں، اگر یہ نجس ہوتیں تو ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا، حالانکہ معمولی قمی اور دم غیر سائل وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب وضو نہیں ٹوٹتا تو نجس بھی نہیں ہو گا۔ ③

(۱۰) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَزِيجٌ لَا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ. ④

ترجمہ: ہر وہ چیز جس میں چکنا ہٹ ہواں میں نجاست داخل نہیں ہوتی۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل عقلی کے ذکر کر کے حضرات طرفین کے مسلک کو ثابت کیا ہے کہ بلغم کی قمی غیر ناقض وضو ہے۔

① البناء: كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ج ۱ ص ۲۷، ط: دار الكتب العلمية

② الهدایۃ: كتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۵، ط: رحمانیہ

③ (ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا) الذي لا يكون حدثا هو القليل من القيء وغير السائل من الدم لا يكون نجسا، الا ترى أنه لا تنقض به الطهارة فيكون ظاهرا.

[البناء: كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ج ۱ ص ۲۵، ط: دار الكتب العلمية] وَإِنَّمَا اتَّصَلَ بِهِ قَلِيلُ الْقَيْءِ فَلَا يَكُونُ حَدَثًا فَلَا يَكُونُ نَجَسًا وَكَذَا الصَّبِيُّ إِذَا ارْتَضَعَ وَقَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ.

[البحر الرائق: كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ج ۱ ص ۳۶، ط: دار الكتاب الإسلامي]

④ الهدایۃ: كتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۶، ط: رحمانیہ

دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حضراتِ طرفین کے نزدیک اگر کسی شخص نے بلغم کی قسم کی تواس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلغم میں چکنا ہوتی ہے، اور اصول ہے کہ چکنی، لیس دار چیز میں نجاست داخل نہیں ہوتی، بلغم بھی چونکہ چکنا ہوتا ہے تو اس میں بھی نجاست سراحت نہیں کرے گی اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو نجاست اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ قلیل مقدار میں ہے اور قسم میں قلیل مقدار ناقض وضو نہیں ہے، لہذا بلغم کی قسم بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ ①

### (۱) إِنَّ الْمِعْدَةَ لَيَسْتُ بِمَحَلِ الدَّمِ ②

ترجمہ: معدہ خون کی جگہ نہیں ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو دلیل عقلی کے پیش نظر ذکر کر کے حضرات شیخین کا مسلک ثابت کیا ہے کہ اگر خون اپنی قوت کی وجہ سے بہہ جائے تو وہ ناقض وضو ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے نزدیک اگر خون اپنی قوت سے اپنی جگہ سے بہہ جائے اگرچہ وہ خون قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ معدہ خون کی جگہ نہیں ہے، جب معدہ محلِ دم نہیں تو لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ یہ نکلنے والا خون پیٹ کے کسی زخم سے نکلا ہے، پس اس کو اس خون پر قیاس کیا جائے گا جو ظاہر زخم سے نکلے، چونکہ اس میں

① (لا تخلله النجاسة) أى لا يتدخله النجاسة ولا يدخل فى أجزائه (وما يتصل به قليل والقليل فى القىء غير ناقض) لأنه لا يتحمل السيلان، والسائلان فى غير السبيلين أقيم مقام الخروج ولم يوجده.

[البنيۃ: کتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، ج ۱ ص ۲۷۶، ط: دار الكتب العلمية] لأنَّه بزاق حقيقة والبزاق ظاهر لأنَّ الرطوبة ترقى أعلى الحلق فتصير بزاقاً وفي أسفله تغليظ فتصير بلغماً فلم يخرج من المعدة ولئن خرج منها فهو لزوج صقيل لا تخلله النجاسة وما يتصل بها منها قليل وهو في القيء عفو.

[حاشية الطحطاوى على مراقبى الفلاح: فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء، ج ۱ ص ۹۲، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایۃ: کتاب الطهارات، ج ۱ ص ۲۶، ط: زمانیہ

نقض وضو کے لئے سیلان ضروری ہے اور یہاں پر بھی سیلان پایا گیا ہے، اس لئے محض سیلان سے نقض وضو کا حکم لگایا جائے گا، اس میں ملا افم کی شرط نہیں ہے۔ ①

(۱۲) إِنَّ الثَّابِتَ عَادَةً كَالْمُتَيَّقِنِ بِهِ. ۲

ترجمہ: جو چیز عادتاً ثابت ہو وہ یقینی طور پر ثابت شدہ چیز کی طرح ہے۔

ترجمہ: صاحب ہدایہ نے اصول ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کروٹ پر لیٹ کر سونا نقض وضو ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کروٹ کے بل یا تکلیف وغیرہ لگا کر سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے کہ کروٹ پر سونا جوڑ بند کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے اور اس صورت میں عام طور پر کوئی نہ کوئی چیز نکل جاتی ہے، پس کروٹ پر سونا عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا، اور اصول ہے کہ جو چیز عادتاً ثابت ہو وہ یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کروٹ پر لیٹنے سے استرخاء مفاصل کی وجہ سے خروج رتح وغیرہ ہوتی ہے اور خروج رتح سے یقینی طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اضطجاع کی صورت میں بھی استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ②

❶ (لأن المعدة ليست بمحل للدم) يعني أنها ليست من مظان الدم وموضعه (فتكون من قرحة في الجوف) فالمعتبر هناك السيلان فكذلك هناك.

[البنيان: كتاب الطهارة، فصل في نوافض الوضوء، ج ۱ ص ۲۷، ط: دار الكتب العلمية] وَعِنْدَهُمَا إِنْ سَالَ بِقُوَّةٍ نَفْسِهِ نَقْضَ الْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، لِأَنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلٍ الدَّمِ فَيُكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَاخْتَلَفَ النَّصْحَى فَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ قَوْلَهُمَا قَالَ وَبِهِ أَحَدٌ عَامَّةُ الْمَشَايخِ.

[البحر الرائق: كتاب الطهارة، فصل في نوافض الوضوء، ج ۱ ص ۳۷، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الهدایۃ: كتاب الطهارة، ج ۱ ص ۲۶، ط: زمانیہ

❸ لِأَنَّ الاضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلَا يَخْلُو عَنْ حُرُوجٍ رِيحٍ عَادَةً، وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَّقِنِ بِهِ، إِلَّا تَرَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمُسْتَرَاحَ ثُمَّ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّهُ يُحَكِّمُ بِنَقْضِ وُضُوئِهِ، لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَاثٌ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْحَلَاءِ بِالْتَّبَرُزِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا شَكَّ بِدُونِ الدُّخُولِ.

[العنایۃ: كتاب الطهارة، فصل في نوافض الوضوء، ج ۱ ص ۳۷، ط: دار الفكر]

### ①) إِنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ شَرُعًا۔

ترجمہ: یقیناً شریعت نے حرج کو دور کر رکھا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصول سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس چیز میں شرعاً کوئی حرج ہو تو اسے بجالانا واجب نہیں ہے اور جس میں شرعاً کوئی حرج وغیرہ نہ ہو تو اسے بجالانا ضروری ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے اسے ایک مثال سے واضح فرمایا ہے کہ عورت کے لئے غسل کے وقت گوند ہے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے بشرطیکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو، تو اسی طرح اس کے لئے اپنے بٹے ہوئے گیسوؤں کو ترکرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ ان بٹے ہوئے بالوں کو ترکرنے میں عورت کے حق میں حرج ہے اور شریعت نے حرج کو دور کر رکھا ہے، جیسا کہ اصول مذکورہ میں موجود ہے کہ جس چیز میں شرعاً حرج ہو تو اسے بجالانا ضروری نہیں ہے، اور یہاں پر بھی چونکہ عورت کے لئے اپنے بٹے ہوئے بالوں کو ترکرنے میں حرج ہے اس لئے ان بالوں کو ترکرنا ضروری نہیں ہے، بخلاف داڑھی کے کہ اس کے اندر پانی پہنچانے میں کوئی حرج اور مشقت نہیں ہے، لہذا داڑھی کے اندر پانی کا پہنچانا واجب اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت کے بال کھلے ہوں تو ان کے درمیان بھی پانی پہنچانا واجب ہے، کیونکہ اب اس میں کوئی حرج اور مشقت نہیں ہے۔ ②

❶ الہدایۃ: کتاب الطهارات، فصل فی الغسل، ج ۱ ص ۳، ط: رحمانیہ

❷ لَاَنَّ مَوَاضِعَ الضَّرُورَةِ مُسْتَشَأَةٌ كَذَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا بَلْهَا فَكَذِلِكَ فِي الصَّحِيفَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ.

[العنایۃ: کتاب الطهارة، فصل فی الغسل، ج ۱ ص ۵۹، ط: دار الفکر]

(ومن کان داخل المیقات) ای و من کان وطنہ بین المیقات و مکہ (له أن يدخل مکة بغیر إحرام لحاجته) ای لأجل حاجته (لأنه يکثر دخوله مکة، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين) ای ظاهر، والحرج مدفوع شرعاً.

[البنيۃ: کتاب الحج، فصل المواقیت المکانیۃ للحج، ج ۲ ص ۲۳، ط: دار الكتب العلمیۃ]

(۱۲) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَخْفِيًّا أُقِيمَ السَّبْبُ مَقَامُهُ. ①

ترجمہ: جب کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ ہو تو ظاہری سبب کو اس کے قائم مقام بنایا جاتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول کو بطور دلیل عقلی کے پیش نظر کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ  
التفاء ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز پر حکم کا ترتیب ہوتا ہے اگر وہ چیز مخفی اور پوشیدہ ہے اور اس کا  
کوئی ظاہری سبب ہے تو حکم کا ترتیب اس چیز کے ظاہری سبب پر ہوتا ہے اور یہی سبب ظاہر اس مخفی  
اور پوشیدہ چیز کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ التفاء ختانین یہ ازال ظاہری کا سبب ہے، نفس ازال  
جس پر غسل واجب ہوتا ہے وہ ایک مخفی اور پوشیدہ چیز ہے کیونکہ وہ انسان کی نگاہوں سے او جھل  
رہتا ہے اور کبھی تو قلت منی کی وجہ سے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ازال ہوایا نہیں، لہذا جب ازال  
میں اخفاء ہے تو لا محالہ حکم کا ترتیب اس کے ظاہری سبب پر ہو گا، اور ازال کا ظاہری سبب چونکہ  
التفاء ختانین ہے لہذا اسی پر وجوب غسل کا حکم مرتب ہو گا اور یہی کہا جائے گا کہ محض التفاء ختانین  
سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس میں ازال ہو یا نہ ہو۔

اور یہی حکم اس صورت میں بھی ہو گا جب کوئی شخص قبل کے بجائے دُبّر میں اپنی شہوت کو پورا  
کرے، تو یہاں بھی محض ایلان اور غیوبت حشفہ سے اس پر وجوب غسل کا حکم مرتب ہو گا ازال کی  
شرط نہیں ہو گی۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی الغسل، ج ۱ ص ۳۱، ط: رحمانیہ

❷ إِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَتَبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ إِذَا كَانَ خَفِيًّا وَلَهُ سَبْبٌ ظَاهِرٌ، يُقَامُ ذَلِكَ السَّبْبُ الظَّاهِرُ  
مَقَامَ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَفِيِّ، وَيَرَتَبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، وَهَاهُنَا الْتِقَاءُ الْخِتَانِيْنَ سَبْبُ الْإِنْزَالِ، وَنَفْسُ  
الْإِنْزَالِ الَّذِي تَرَتَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِ الْمُنْزَلِ، وَقَدْ يَخْفِي الْإِنْزَالُ لِقَلْلَةِ الْمَنِيِّ فَيَقَامُ  
الْإِلْتِقاءُ مَقَامَ الْإِنْزَالِ كَمَا فِي السَّفَرِ مَعَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يَرَتَبُ عَلَيْهَا الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ.

[العنایہ: کتاب الطهارات، فصل فی الغسل، ج ۱ ص ۲۲، ط: دار الفکر]

أَنَّ الْتِقَاءَ الْخِتَانِيْنَ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لَا سُطُّلاَقٍ وَكَاءِ الْمَنِيِّ جُعِلَ بِهِ كَالْمُمْنِيِّ، وَإِقَامَةُ السَّبْبِ  
الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمَعْنَى الْخَفِيِّ أَصْلُ فِي الشَّرْعِ.

[المبسوط: باب الوضوء والغسل، ج ۱ ص ۲۲، ط: دار المعرفة]

**باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز به**

(١٥) إِنَّ الْمُطْلَقَ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ فَرْدٌ كَامِلٌ.

ترجمہ: جب کسی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اُس سے فردِ کامل مراد لیا جاتا ہے۔

لشیع: صاحبِ ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ احادیث سے پاکی حاصل کرنا آسمان کے پانی کے ساتھ، وادیوں کے پانی کے ساتھ، چشمتوں کے پانی کے ساتھ، کنوؤں اور دریاؤں کے پانی کے ساتھ جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ قرآن کریم میں ہے ”وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا“، اس آیت میں لفظ ”ماء“ مطلق ہے اور اصول مذکورہ کے مطابق جب کسی چیز کو مطلق رکھا جائے تو اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے، لہذا ”ماء“ اپنے تمام افراد کو شامل ہوگا، چاہے وہ بارش کا پانی ہو یا وادیوں، چشمتوں اور کنوؤں کا پانی ہو یا دریاؤں کا پانی ہو، ان تمام سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بخلاف وہ پانی جو کسی درخت یا کسی پھل سے نپھوڑ کر نکالا گیا ہوا اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ماء مطلق نہیں، جب ماء مطلق نہیں ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تینم کیا جائے گا، لقولہ تعالیٰ (فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)۔ ①

**❶** الهدایة: کتاب الطهارات، باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز به، ج ١ ص ٣٣، ط: رحمانیہ

**٢٠** لَا يَتَوَضَّأُ بِمَا أَعْتَصَرَ مِنْ شَجَرٍ كَالرِّيَابِسِ أَوْ ثَمَرٍ كَالْعِنْبِ لَأَنَّ هَذَا مَاءٌ مُّقَيْدٌ، وَلَيْسَ بِمُطْلَقٍ، فَلَا يَجُوزُ الوضُوءُ بِهِ، لَأَنَّ الْحُكْمَ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيْمُومِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ بِلَا وَاسْطَةٍ بَيْنَهُمَا.

**[البحر الرائق: كتاب الطهارة، أحكام المياه، ج ١ ص ٢٧، ط: دار الكتاب الإسلامي]**  
وَالْمُبَانُ مِنْهُ كَمَا إِذَا أَبْيَنَ الرَّأْسُ بِذَكَاهُ الْإِخْتِيَارِ وَذَلِكَ لَأَنَّ قَطْعَ أَيِّ عُضُوٍ كَانَ فِي ذَكَاهُ  
الْإِضْطِرَارِ كَقَطْعِ الرَّأْسِ فِي ذَكَاهُ الْإِخْتِيَارِ، وَالرَّأْسُ يُؤْكَلُ فِي ذَكَاهُ الْإِخْتِيَارِ فَكَذَا الْعُضُوُّ الْمُبَانُ  
فِي ذَكَاهُ الْإِضْطِرَارِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَبْيَنَ مِنَ الْحَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ  
إِنَّهُ ذَكَرَ الْحَيٍّ مُطْلَقاً، وَالْمُطْلَقُ يُنَصَّرِّفُ إِلَى الْفُرْدِ الْكَامِلِ، وَالْكَامِلُ هُوَ الْحَيٌّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا،  
وَالْعُضُوُّ الْمُبَانُ بِهَذِهِ الصَّفَةِ: يَعْنِي أَبْيَنَ مِنَ الْحَيٍّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، أَمَّا حَقِيقَةُ فِلَقِيَامِ الْحَيَاةِ بِهِ، وَأَمَّا  
حُكْمًا فَلَأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ حَيَاَتُهُ بَعْدَ إِبَانَةِ هَذَا الْعُضُوِّ، وَلَهَذَا أَيُّ وَلَكُونُهُ حَيًا حُكْمًا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ  
حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَفِيهِ حَيَاَةٌ بِهَذِهِ الصَّفَةِ لَمْ يُؤْكَلْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ بِوُقُوعِهِ فِي الْمَاءِ.

[العنابة: كتاب الصيد، فصل في الرمي، ج ١٠ ص ١٣١، ط: دار الفكر]

فَإِنَّ إِسْمَ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَاقِيًّا يَبْقَى حُكْمُهُ۔ ۱۶

(۱۶) إِنَّ إِسْمَ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَاقِيًّا يَبْقَى حُكْمُهُ۔ ۱۶

ترجمہ: جب کسی چیز کا نام باقی ہو تو اس کا حکم بھی باقی رہتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول کو ذکر کر کے یہ بتالیا کہ پانی کے اندر اگر کوئی چیز مل جائے اور اس سے پانی کے تینوں اوصاف (رنگ، بو، ذائقہ) میں سے کوئی ایک وصف متغیر ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جیسے سیلا ب کا پانی، زعفران، صابون یا اشنان کا ملا ہوا پانی، کیونکہ اس صورت میں پانی کا نام علی الاطلاق باقی ہے علیحدہ کوئی نیا نام نہیں پڑا، لہذا اصول مذکورہ کے مطابق جب کسی چیز کا نام باقی ہو تو اس کا حکم بھی برقرار رہتا ہے، لہذا پانی کے اوصافِ ثلاش میں سے اگر کوئی ایک وصف متغیر بھی ہو جائے تو بھی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ ۱۶

(۷) إِنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ۔ ۱۷

ترجمہ: کسی چیز کی حرمت کے لئے اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے (یعنی جو چیز حرام ہو وہ نجس بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے)۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے قبل اس مسئلہ کو ثابت کیا تھا کہ پانی کے اندر اگر

① الہدایہ: کتاب الطهارات، ص ۳۲، ط: رحمانیہ

۱۷ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي حَالَطَهُ مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ زِيَادَةُ نَظَافَةٍ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ ذَلِكَ، وَيُطْبَخُ بِهِ أَوْ يُخَالِطُ بِهِ كَمَاءُ الصَّابُونِ، وَالْأُسْنَانُ يَجُوزُ التَّوْضُؤُ بِهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقٍ، وَأَرْذَادُ مَعْنَاهُ، وَهُوَ التَّطْهِيرُ، وَكَذَلِكَ جَرَاثُ السُّنَّةِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ الْمَغْلِيِّ بِالسَّدْرِ، وَالْحُرْضُ فِي جُوزُ الْوُضُوءِ بِهِ إِلَّا إِذَا صَارَ غَلِيلًا كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ، وَمَعْنَاهُ أَيْضًا.

[بدائع الصنائع: کتاب الطهارة، فصل شرائط ارکان الوضوء، ج ۱ ص ۱۵، ط: دار الكتب العلمية]  
({قوله}: وَالْمَاءُ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأُسْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ) لِأَنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقٍ فِيهِ عَلَى الِإِطْلَاقِ وَالْخِتَالَاطِ الْقَلِيلِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُمْكِنُ إِلَّا حُتْرَازُ عَنْهُ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۲، ط: المطبعة الخيرية]

② الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۷، ط: رحمانیہ

کوئی ایسا جانور مرجائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے: مچھر، مکھی، بھڑ اور بچھو وغیرہ، اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے۔

لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ایسے جانوروں کا پانی کے اندر مرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ذکر کی تھی کہ یہ جانور حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ”**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ**“، اس سے معلوم ہوا کہ تحریم اگر بطریق کرامت اور بزرگی نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت ہے۔ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ذکر کر کے امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حرمت کے لوازم میں سے نجاست نہیں ہے یعنی جو چیز حرام ہو وہ نجس بھی ہو ضروری نہیں ہے، جیسے مٹی اور کوئلہ وغیرہ حرام تو ہیں لیکن ان میں کوئی ناپاک نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اگر پانی کے اندر کوئی ایسا جانور مرجائے جس میں دم سائل نہ ہو تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے کیونکہ مچھر، مکھی وغیرہ اگرچہ حرام تو ہیں لیکن نجس نہیں ہیں۔ ①

(۱۸) إِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ فِي مَعْدِنِهَا لَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُ النَّجَاسَةِ. ②

ترجمہ: نجاست جب تک اپنے معدن میں ہو تو اس پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا۔

شرط: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل عقلی کے ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پانی میں رہنے والا جانور اگر پانی ہی کے اندر مرجائے خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر، اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی، مینڈک اور کیکڑ اور غیرہ، کیونکہ پانی میں رہنے والا جانور

❶ (والحرمة ليست من ضرورتها النجاست) هذا جواب عن قول الشافعى لأن التحرير لا بطريق الكرامة آية النجاست أراد أن الحرام لا يستلزم النجاست (كالطين) فإنه أكله حرام لا لكرامته مع أنه ليس بنجس.

[البنياۃ: کتاب الطهارات، باب الماء یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۹۰، ط: دار الكتب العلمية]  
وَالْحُرْمَةُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهَا النَّجَاسَةُ كَالْطَّيْنِ.

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، أحكام المياه، ج ۱ ص ۹۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۷۳، ط: زرجمانیہ

اگر پانی کے اندر مر جائے تو وہ اپنے معدن میں مرا ہے اور جو جانور اپنے معدن میں مرتا ہے تو اپنے معدن میں بخس ہو گا اور ماقبل میں اصول ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو چیز اپنے معدن میں رہتے ہوئے بخس ہو تو اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر نجاست کو اپنے معدن میں نجاست کا حکم دیا جائے تو کوئی آدمی پاک نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ ہر ایک کی روگوں میں خون نجاست غلیظہ گردش کر رہا ہے، پس نجاست جب تک اپنے معدن میں ہے اس کو نجاست کا حکم نہیں ہو گا، جیسے کہ وہ انڈا جس کی زردی خون ہو گئی تو جب تک اندر ہے انڈا بخس نہیں ہو گا، حتیٰ کہ ایسے انڈے کو جیب میں رکھنا ماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس کے برخلاف اگر نجاست اپنے معدن میں نہ ہو تو اس کو نجاست کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ اگر شیشی میں خون بھر کر جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو نماز جائز نہیں ہے کیونکہ شیشی اس خون کا معدن نہیں ہے۔ ①

### (۱۹) إِنَّ مُلَاقَةَ الطَّاهِرِ الظَّاهِرَ لَا تُؤْجِبُ النَّجَسَ.

ترجمہ: پاک چیز کا پاک چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ناپاکی پیدا نہیں ہوتی۔

تشریح: ماءِ مستعمل کی طہارت اور عدمِ طہارت کے سلسلے میں فقهاء کرام کا اختلاف ہے،

① وَكُلُّ مَا ماتَ فِي مَعْدِنِهِ كَانَ نَجِسًا فِي مَعْدِنِهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَبِيْضَةٍ حَالَ مَجْهَا ذَمًا: أَنَّ تَغْيِيرَثُ صُفْرُهَا ذَمًا، حَتَّى لَوْ صَلَّى وَفِي كُمَّهِ تُلَكَ الْبَيْضَةُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهَا؛ لَأَنَّ النَّجَاسَةَ فِي مَعْدِنِهَا بِخَلَافِ مَا إِذَا صَلَّى وَفِي كُمَّهِ قَارُورَةً فِيهَا ذَمٌ لَا تَجُوزُ صَلَاةُهُ؛ لَأَنَّ النَّجَاسَةَ لَيْسَتْ فِي مَعْدِنِهَا.

[العنایہ: کتاب الطہارات، باب الماء یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۸۳، ط: دار الفکر]  
 (وَمَوْتُ الضَّفْدَعِ، وَالسَّمَكِ، وَالسَّرَّاطِنِ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُهُ) لِوَجْهِيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَاءَ مَعْدِنِهُ، وَالشَّيْءُ إِذَا ماتَ فِي مَعْدِنِهِ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَمَنْ صَلَّى، وَفِي كُمَّهِ بَيْضَةٍ مَذِرَّةٌ حَالَ مُحْهَّها ذَمًا تَجُوزُ صَلَاةُهُ، وَهَذَا، لَأَنَّ التَّحرُّزَ عَنْ مَوْتِهِ فِي الْمَاءِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ ذَمٌ سَائِلٌ فَإِنَّ مَا يَسِيلُ مِنْهَا إِذَا شُمِسَ أَبِيْضُ، وَالدَّمُ إِذَا شُمِسَ أَسْوَدُ، وَهَذَا الْحَرْفُ أَصَحُّ.

[المبسوط: باب الوضوء والغسل، ج ۱ ص ۵۷، ط: دار المعرفة]

② الہدایہ: کتاب الطہارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۷۳، ط: رحمانیہ

امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ماءِ مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں ہے، خواہ استعمال کرنے والا باوضو ہو یا بےوضو، اس لئے کہ محدث کے اعضاء بھی پاک ہیں اور جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے، اور پاک چیز اگر دوسری پاک چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ نجس نہیں ہوتی، مگر چونکہ اس پانی سے ایک عبادت ادا کی گئی ہے اس لئے اس وجہ سے پانی کا وصف متغیر ہو جائے گا اور اب اس میں مطہر ہونے کی صفت باقی نہیں رہے گی، لیکن اس کے طاہر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال فی نفسہ مطہر ہے، ارشاد باری تعالیٰ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهِمْ بِهَا) پس جس مال کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی گئی ہے شریعت نے اُسے میل کچیل قرار دیا ہے اس لئے زکوٰۃ کا مال حضور اور آپ کی اولاد کے لئے شرعاً حرام ہے، جس طرح زکوٰۃ کے مال میں ادا یگی قربت کی وجہ سے تغیر و صف ہو جاتا ہے، اسی طرح ماءِ مستعمل جس سے قربت ادا کی گئی ہو یا حدث زائل کیا گیا ہو تو وہ نجاست حکمیہ کی وجہ سے میلا ہو جاتا ہے اور اپنے اصلی مرتبہ یعنی مطہر ہونے سے خارج ہو جاتا ہے مگر طہارت باقی رہتی ہے، اس لئے ماءِ مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے ماءِ مستعمل کے طاہر ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسلۃ وضو سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے آبِ مستعمل کو لینے کے لئے دوڑتے اور اسے اپنے چہرہ پر ملتے، اگر یہ ناپاک ہوتا تو حضور ضرور صحابہ کو اس سے منع کرتے جیسا کہ ابو طیبہ جام کو اپنے بدن سے نکلے ہوئے خون کو پینے سے منع کیا تھا۔ ①

❶ (لَأَنَّ مُلَاقَةَ الطَّاهِرِ وَهُوَ الْمَاءُ (للطَّاهِرِ) وَهُوَ الْعُضُوُ الْمَغْسُولُ؛ لَأَنَّهُ طَاهِرٌ حَقِيقَةً لَا يُوجِبُ التَّسْجِسَ كَمَا لَوْ غُسِلَ بِهِ ثُوْبٌ طَاهِرٌ (إِلَّا أَنَّهُ أَقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ) وَلَا قَامَتْهَا تَأْثِيرٌ فِي تَغْيِيرِ مَا أَقِيمَتْ بِهِ (فَتَغْيِيرُتْ بِهِ) أَيْ بِالْاسْتِعْمَالِ (صِفَةُ الْمَاءِ كَمَالُ الصَّدَقَةِ) الَّذِي أَقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ وَقَدْ تَغْيِيرُتْ صِفَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ طَيِّبًا، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوا إِلَى وُضُوئِهِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَلَوْ كَانَ نِجْسًا لِمَعِيْهِمْ كَمَا مَنَعَ أَبَا طَيِّبَةَ الْحَجَاجَ عَنْ شُرُبِ ذَمَّهُ.

[العنایہ: کتاب الطہارۃ، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۸۷، ط: دار الكتب العلمیة]

أَنَّ مُلَاقَةَ الطَّاهِرِ لَا تُوجِبُ التَّسْجِسَ، وَلَكِنْ أَقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ أَوْ أَزْيَلَ بِهِ حَدَّتْ فَتَغْيِيرُتْ صِفَتُهُ كَمَالِ الرَّكَأِ لِمَا أَقِيمَتْ بِهِ الْقُرْبَةُ تَغْيِيرُتْ صِفَتُهُ حَتَّى حَرُومَ عَلَى الْهَაشِمِيِّ وَالْغَفِّيِّ.

[تبیین الحقائق: کتاب الطہارۃ، الماء المستعمل، ج ۱ ص ۲۲، ط: المطبعة الكبرى]

﴿٢٠﴾ إِنَّ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ يُورِثُ تَخْفِيفًا.

ترجمہ: علماء کا اختلاف تخفیف پیدا کرتا ہے۔

تشریح: امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ماءِ مستعمل بخس تو ہے لیکن نجاست خفیفہ کے حکم میں ہے نہ کہ نجاست غلیظہ کے حکم میں، امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نجاست غلیظہ کا قول نقل کیا ہے، جب کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ طاہر اور مطہر ہے۔ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ماءِ مستعمل کی طہارت اور نجاست میں علماء کا اختلاف ہے اور اختلاف علماء کی وجہ سے تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، لہذا ماءِ مستعمل نجاست خفیفہ کے حکم میں ہو گانہ کہ نجاست غلیظہ کے۔ ۲

﴿۲۱﴾ إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا ثَبَتَ بِالضُّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

❶ الہدایہ: کتاب الطھارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۸، ط: رجمانیہ

❷ (المکان الاختلاف) أى لأجل اختلاف العلماء في الماء المستعمل، فإن عند مالك ظاهر وظهور كما ذكرنا، واختلاف العلماء يورث الإخفاف.

[البنيان]: كتاب الطھارة، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۰، ط: دار الكتب العلمية  
وثرمة الاختلاف تظهر في الأرواث: عند أبي حنيفة رحمه الله نجاستها غلیظة؛ لأن ورد فيه النص، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ما رواينا، ولم يعارض هذا الحديث نص آخر فيتغلظ؛ وعندهما نجاستها خفیفة لا اختلاف العلماء فيه، ولمكان البلوى، فإن الطرق مملوءة فيها، وقد يحتاج الإنسان إلى سوق الدواب فيمشي عليها، فيصييه الروث على وجه لا يمكنه الدفع عن نفسه، وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة كما في سور الهرة، فلأن يكون لها أثر في التخفيف أولى وقد ذكرنا رواية المعلى عن محمد رحمه الله أنه قال: الروث لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. ونجاسته يوّل ما يؤكل لرحمه على قول من يقول بنجاسته خفیفة، حتى لو أصاب الشوب لا يمنع جواز الصلاة مالم يكن كثيراً فاحشاً، وإذا وقع قطرة في الماء أفسده؛ لأن القليل في الماء يصير كثيراً، وإنما كانت نجاسته خفیفة إما لأن بنجاسته اختلاف، فتحتفف نجاسته، أو لأن فيه ضرورة وللضرورة أثر في التخفيف.

[المحيط البرهانی]: كتاب الطھارة، الفصل السابع، ج ۱ ص ۱۹۳، ط: دار الكتب العلمية

❸ الہدایہ: کتاب الطھارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۸، ط: رجمانیہ

فَإِنْ مَا نَعْمَلُ إِلَّا مَوْجَدٌ لَّهُ مَوْجَدٌ فَمَا أَنْتَ بِمُحْكَمٍ عَنْهُ

ترجمہ: جب کوئی شیئ ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو تو وہ بقدر ضرورت ثابت ہو گی۔

شرح: اس اصول میں ماءِ مستعمل کے وقت کا تعین کیا گیا ہے کہ پانی کب مستعمل ہو گا۔ تو صاحب ہدایہ نے اس اصول کو ذکر کر کے ماءِ مستعمل ہونے کے وقت کے تعین پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ احناف کے نزدیک پانی جو ہبہ بدن سے جدا ہو جائے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے، اس کا کسی برتن یا جگہ میں جمع ہونا مستعمل ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، اس کی دلیل میں اس اصول کو ذکر کیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ بدن سے جدا ہونے سے پہلے پانی کو استعمال کا حکم ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا گیا لیکن جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لئے پانی بدن سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے گا۔ ①

(۲۲) إِنَّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَهُوَ لِيُسَ بنَجِسِ الْعَيْنِ. ۲

ترجمہ: جس چیز سے انتفاع حاصل کیا جائے وہ نجس العین نہیں ہوتی۔

شرح: اصول کا حاصل یہ ہے کہ جن چیزوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ نجس العین نہیں ہوتی، صاحب ہدایہ نے ایک مثال سے واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتاب صحیح قول کے مطابق نجس العین نہیں ہے، کیونکہ پھرہ داری اور شکار کرنے کے لئے کتاب پنے پاس رکھنا جائز ہے، پس اگر کتاب نجس العین ہوتا تو اس سے نفع لینا شرعاً منوع ہوتا، جب اس سے نفع لینا جائز ہے تو وہ نجس العین نہیں ہے، مخالف خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے اور اس پر نص ہے (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) "فَإِنَّهُ" کی ضمیر کا

① (لأن سقوط حكم الاستعمال) أي سقوط حكم كون الماء مستعملاً (قبل الانفصال) أي قبل انفصال الماء عن عضو المتوضى (للضرورة) أي لأجل ضرورة تذر الاختراز عنه (ولا ضرورة بعده) أي عبد الانفصال وفي "المحيط" أن الماء إنما يأخذ حكم الاستعمال إذا زايل البدن، والاجتماع في المكان ليس بشرط هذا هو مذهب أصحابنا.

[البنياۃ: كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: دار الكتب العلمية]  
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَمَا زَاَيَلَ الْعُضُوَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا، لَأَنَّ سُقُوطَ حُكْمِ الْإِسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفَصَالِ لِلضُّرُورَةِ وَلَا ضُرُورَةَ بَعْدَهُ.

[تبیین الحقائق: كتاب الطهارة، الماء المستعمل، ج ۱ ص ۲۵، ط: المطبعة الكبرى]

② الہدایہ: كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۹، ۳۰، ط: رحمانیہ

فَلَا مَعْنَى لَا شُرَاطٍ غَيْرِهِ . فَلَا مَعْنَى لَا شُرَاطٍ غَيْرِهِ .

مرجع خنزیر ہے کیونکہ وہی اس کے قریب ہے۔ ①

(۲۳) إِنَّ الْمَقْصُودُ إِذَا حَصَلَ بِشَيْءٍ فَلَا مَعْنَى لَا شُرَاطٍ غَيْرِهِ . ②

ترجمہ: جب مقصود کسی چیز سے حاصل ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

شرط: صاحب ہدایہ کا مقصود اصول مذکورہ سے دباغت کا تعارف بیان کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز کھال کی بدبو اور فساد کو دور کر دے وہ دباغت ہے، خواہ نمک کے ذریعے ہو، یا دھوپ میں سکھا کر ہو، یا مٹی میں ڈال کر ہو، کیونکہ نجس رطوبتوں کو دور کرنے کی وجہ سے مقصود اس سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی شرط لگانے کے کوئی معنی نہیں ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے درخت سلم (ایک خاص قسم کا درخت ہے جس کے پتوں سے دباغت دی جاتی ہے) اور مازو کے درخت کی شرط لگائی ہے۔ ③

① أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ أَبَابَ الِإِنْفَاقَ بِهِ حِرَاسَةً وَأَصْطِيادًا فَكَذَا بَيْعًا وَلَانَهُ يَحْوُرُ تَمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهَبَةِ، وَالْوِرَصِيَّةِ فَكَذَا بِعِوَضٍ بِخَلَافِ الْخَنْزِيرِ؛ لَانَهُ نَجْسُ الْعَيْنِ كَالْمِيَّةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْوُرُ الِإِنْفَاقَ بِهِ شَرْعًا، وَالْكَلْبُ لَيْسَ بِنَجْسِ الْعَيْنِ.

[تبیین الحقائق: کتاب البيوع، باب المتفقات، حکم بیع الكلب، ج ۲ ص ۱۲۵، ط: المطبعة الكبرى]

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجْسِ الْعَيْنِ؛ لَانَهُ يُنْتَفَعُ بِهِ حِرَاسَةً وَأَصْطِيادًا وَلَيْسَ نَجْسَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ۔

[العنایۃ: کتاب الطهارة، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۹۲، ط: دار الكتب العلمية]

② الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۰، ط: رحمانیہ  
③ قالَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْأَثَارِ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَمْنَعُ الْجِلْدَ مِنْ الْفَسَادِ (فَهُوَ دِبَاغٌ) فَيَسْأَلُ التَّشْمِيسُ وَالتَّتَرِيبُ (لَانَّ الْمَقْصُودَ) وَهُوَ مَنْعُ الْفَسَادِ بِإِرَازِ الْبَرْطُوْبَاتِ النَّجِسَةِ (يَحْصُلُ بِذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لَا شُرَاطٍ غَيْرِهِ) مِنْ قَرَظٍ أَوْ عَفْصٍ أَوْ شَتٍّ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا شَرَطَهُ الشَّافِعِيُّ.

[العنایۃ: کتاب الطهارة، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۹۵، ط: دار الفکر]  
فَإِنَّ اسْمَ الدِّبَاغِ يَسْأَلُ مَا يَقْعُدُ بِالْتَّشْمِيسِ وَالتَّتَرِيبِ فَلَا يُقْيَدُ بِشَيْءٍ، وَلَانَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ فَلَا مَعْنَى لَا شُرَاطٍ غَيْرِهِ.

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، الطهارة بالدیاغ، ج ۱ ص ۱۱۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

٤٢٣) إِنَّ مَا يَطْهُرُ جَلْدُهُ بِالدِّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَّاءِ.

ترجمہ: جس جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔  
 تشریح: اصول مذکورہ کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اسی طرح ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ذبح کرنا ایسے شخص سے ہو جو ذبح کا اہل ہو، چنانچہ محسی کا ذبح کرنا اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبح کرنا دباغت کا کام دیتا ہے اس طور پر کہ شخص رطوبات کو زائل کر دیتا ہے، اور اسی طرح ذبح کرنا اس جانور کے گوشت کو بھی پاک کر دیتا ہے اگرچہ ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی ذبح کرنے سے غیر مأکول اللحم کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر غیر مأکول اللحم جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ ②

<sup>٤٠</sup> الهدایة: کتاب الطهارات، الماء يجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۲۰، ط: رحمانیہ

(٢) ثُمَّ مَا يَطْهُرُ جُلْدُهُ بِالدَّبَاغِ يَطْهُرُ بِالذَّكَاهَةِ يَعْنِي الذَّكَاهَةُ الْحَاصلَةُ مِنَ الْأَهْلِ بِالْتُّسْمِيهِ، فَإِنَّ ذَكَاهَةَ الْمَجُوسِ لَيْسَتْ مُطَهَّرَةً، وَذَكَرَ الضَّمِيرَ فِي (لَا نَهُ لَأَنَّ الذَّكَاهَةَ بِمَعْنَى الدُّبُخِ، وَإِنَّمَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدَّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجْسَةِ) لَا نَهُ يَمْنَعُ مِنْ اتِّصالِهِ بِهِ، وَالدَّبَاغُ مُزِيلٌ بَعْدِ اتِّصالِهِ، وَلَمَّا كَتَانَ الدَّبَاغُ بَعْدِ اتِّصالِ مُزِيلًا وَمُطَهَّرًا كَانَتِ الذَّكَاهَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ اتِّصالِ أُولَئِي أَنْ تَكُونَ مُطَهَّرَةً. وَقَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ) أَيْ لَحْمُ مَا دُبَخَ حَتَّى إِذَا صَلَى وَمَعَهُ مِنْ لَحْمِ الشَّعْلِ الْمَذْبُوحِ أَوْ نَحْوِهِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتْ صَالَاهُ.

العنابة: كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ج ١ ص ٩٥، ط: دار الكتب العلمية  
كُلُّ حَيْوَانٍ يَطْهُرُ بِالدَّبَاغِ؛ يَطْهُرُ جَلْدُهُ بِالذَّكَاءِ، فَهَذَا يَدْلُلُ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَسَائِرُ  
أَجْزَائِهِ؛ لِأَنَّ الْحَيْوَانَ اسْمُ لِجَمْعِ الْأَجْزَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايخِنَا وَمَشَايخُ بَلْخٍ: إِنَّ كُلَّ حَيَّانٍ يَطْهُرُ جَلْدُهُ بِالدَّبَاغِ يَطْهُرُ جَلْدُهُ بِالدَّكَاهِ، فَأَمَّا الْلَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَنَحْوُهُمَا فَلَا يَطْهُرُ، وَالْأَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّجَاسَةَ لِمَكَانِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَقَدْ زَالَ بِالدَّكَاهِ.

[بدائع الصنائع: كتاب الطهارة، فصل بيان ما يقع به التطهير، ج ١ ص ٨٦، ط: دار الكتب العلمية]

(۲۵) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ لَا يَحِلُّهُ الْمَوْتُ۔ ①

ترجمہ: جب کسی چیز کے اندر حیات نہ ہو تو اس میں موت سرا یت نہیں کرے گی۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مردار کے بال اور ہڈی پاک ہیں یعنی اگر مراد کے بال یا ہڈی وغیرہ پانی کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اسی بات کو ثابت کرنے کے لئے موصوف نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل عقلی کے پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مردار کے تمام اجزاء ناپاک نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ اجزاء ان پاک ہیں جن میں حیات ہوا اور موت کی وجہ سے وہ حیات زائل ہو گئی، اور بال اور ہڈی وغیرہ ان چیزوں میں حیات نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے اگر کسی چیز کو کاٹا جائے تو اس سے جانور کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پس جب ان میں حیات نہیں اور اصول ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس چیز کے اندر حیات نہ ہو تو موت اس میں حلول نہیں کرتی، لہذا ان چیزوں میں بھی موت حلول نہیں کرے گی، کیونکہ موت تو حیات کے زائل ہونے کا نام ہے اور وہ یہاں پر مفقود ہے۔ جب ان میں حیات نہیں ہے تو پھر ان کے مرنے یا مردار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب یہ مردار نہیں ہیں تو ناپاک بھی نہیں ہوں گے۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الطهارة، باب الماء الذی یجوز به الوضوء، ج ۱ ص ۳۰، ط: زمانیہ

❷ (وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظِيمُهَا) وَعَصِبَهَا (طَاهِرٌ) ذَكَرَهُ بِاعتِبَارِ اللَّهِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ هُلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ أَوْ لَا؟ عِنْدَنَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ لِكُونِهَا طَاهِرَةً。 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَجِسٌ (لِأَنَّهُ) أَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتِ) وَالْمَيْتُ نَجِسٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ。 قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتِ نَجِسٌ، بَلْ النَّجِسُ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ حَيَاةً زَالَتْ بِالْمَوْتِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا حَيَاةً فِيهَا حَتَّىٰ لَا يَتَّلَمَ بِقَطْعِهَا الْحَيَوانُ، فَإِنَّ قَطْعَ قَرْنِ الْبَقَرِ لَا يُؤْلِمُهَا وَجَزُ صُوفِ الْغَنَمِ كَذَلِكَ فَلَا يُحِلُّهَا الْمَوْتُ إِذَا الْمَوْتُ زَوَالُ الْحَيَاةِ۔

[العنایہ: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۹۶، ط: دار الفکر]

(وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظِيمُهَا طَاهِرٌ) لِأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تُحِلُّهُمَا حَتَّىٰ لَا تَنْالَمَ بِقَطْعِهِمَا فَلَا يَحِلُّهُمَا الْمَوْتُ وَهُوَ الْمُنَجِسُ، وَكَذَلِكَ الْعَصْبُ وَالْحَافِرُ وَالْحُفْثُ وَالظَّلْفُ وَالْقُرْنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ وَالسِّنُّ وَالْمِنْقَارُ وَالْمِخْلَبُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا) امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ۔

[الاختیار لتعلیل المختار: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۲، ط: دار الكتب العلمية]

## فصل فی البئر

(۲۶) إِنَّ مَسَائِلَ الْأَبَارِ مَبْنِيَّةُ عَلَى اِتْبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ.

ترجمہ: کنویں کے مسائل اتباع آثار پر بنی ہیں نہ کہ قیاس پر۔

شرح: اصول کا حاصل یہ ہے کہ کنویں کے تمام مسائل اتباع آثار پر بنی ہیں، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، قیاس اس باب میں اس لئے معتبر نہیں کہ کنویں کے پانی میں دو قیاس متضاد ہیں۔ ایک قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ پانی ناپاک ہی نہ ہو اس لئے کہ کنویں میں نیچے سے مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے، لہذا کنویں کا پانی آب جاری کے حکم میں ہو گا اور آب جاری نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا قیاس یہ ہے کہ پانی ناپاک ہی نہ ہو، کیونکہ نجاست گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا، کنویں کے اطراف، دیواریں اور کچھڑناپاک ہو گئے، اب جتنا پانی نکالیں گے اسی قدر نیچے سے آثار ہے گا اور وہ پانی اس ناپاک پانی سے مل کر خود ناپاک ہو جائے گا، پس یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہو گا۔ اس لئے کنویں کے مسائل میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اتباع آثار پر بنی ہیں۔ سلف کے اجماع کی وجہ م محض کنویں کا پانی نکالنے سے کنوں پاک ہو جائے گا، اس کی دیواریں دھونا اور کچھڑ کا نکالنا واجب نہیں ہے۔ چھوٹے جانور میں کتنے ڈول نکالے جائیں؟ اس سے بڑے میں کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ کس صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا؟ طہارت کس طرح ہو گی؟ یہ سب آثار پر بنی ہیں۔ ①

① (وَمَسَائِلُ الْأَبَارِ مَبْنِيَّةُ عَلَى اِتْبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ) لَأَنَّ الْقِيَاسَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تُطَمَّ الْبِئْرُ كُلُّهَا طَمَّاً لِتَنْجُسِ الْأَوْحَالِ وَالْجُذْرَانِ، وَإِمَّا أَلَا تَنْجُسَ أَبَدًا إِذِ الْمَاءُ يَبْعُزُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَكَانَ كَتَالْمَاءُ الْجَارِي. قَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ: أَتَفَقَ رَأِيِّي وَرَأِيِّيْ يُوسُفَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْجَارِي، إِلَّا أَنَّا تَرَكْتَا الْقِيَاسَ وَاتَّبَعْنَا الْآثَارَ.

[العنایة: کتاب الطہارة، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۹۹، ط: دار الفکر]

وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَطْهُرَ أَصْلًا لَا حَبَلَاطِ النَّجَاسَةِ بِجَمِيعِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَجَارِ وَالْخُشَابِ وَغَيْرِهِمَا وَيَتَعَذَّرُ الغُسلُ أَوْ لَا يَتَسَجَّسُ اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْجَارِي، لِأَنَّهَا كُلُّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَعْلَاهَا يَبْعُزُ مِنْ أَسْفَلِهَا لِكُنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآثَارِ؛ وَلِهَذَا قِيلَ: مَسَائِلُ الْأَبَارِ مَبْنِيَّةُ عَلَى اِتْبَاعِ الْآثَارِ =

(۷) إِنَّ الْقَلِيلَ جُعِلَ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ. ①

ترجمہ: بے شک قلیل مقدار کو ضرورت کی وجہ سے معاف کیا گیا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنوں میں اونٹ یا بکری کی ایک یا دو مینگنیاں گر پڑیں تو قیاساً پانی ناپاک ہو جائے گا اور استحساناً پانی ناپاک نہیں ہوگا، ایک دو مینگنیوں سے مراقلیل مقدار ہے۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ماءِ قلیل ہے، اور ماءِ قلیل میں نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر جنگلوں اور صحراؤں میں جو کنوں ہوتے ہیں ان کے سروں اور کناروں پر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی، مویشی جب پانی پینے آتے ہیں تو عموماً ان کے ارد گرد مینگنیاں کر دیتے ہیں، پھر ہوا کی وجہ سے وہ مینگنیاں کنوں میں گر جاتی ہیں، اس لئے ضرورت کی وجہ سے قلیل مقدار معاف ہے، چونکہ کثیر میں ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ معاف نہیں ہے۔ ②

= حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ الْوَاجِبُ مِنْهَا حُكْمٌ بِطَهَارَةِ جَمِيعِ مَا فِيهَا وَذُلُوكُهَا وَبَدَ النَّازِحِ

[مجمع الأنہر: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۳، ط: دار إحياء التراث]

❶ الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۳۰، ط: زمانی

❷ (قَوْلُهُ: لَا يَبْعَرَتِي إِبْلٌ وَغَنَمٌ) أَىٰ لَا يُنْزَحَ مَاءُ الْبَئْرِ بِوُقُوعِ بَعْرَتِي إِبْلٍ وَغَنَمٍ فِيهَا، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَتَبَجَّسَ الْمَاءُ مُطْلَقاً لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ كَالِإِنَاءِ وَذُكْرِ لِلأَسْتِحْسَانِ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى وَالْأُخْتَارَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مُقْتَصِراً عَلَيْهَا أَنَّ آبَارَ الْفَلَوَاتِ لَيْسَ لَهَا رُءُوسٌ حَاجِزَةٌ وَالْمَوَاشِي تَبْعُرُ حَوْلَهَا وَيُلْقِيَهَا الرِّيحُ فِيهَا فَجُعِلَ الْقَلِيلُ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْكَثِيرِ وَلَا فَرْقٌ عَلَى هَذَا بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَالصَّحِيفِ وَالْمُنْكَسِ، وَالرَّوْبِ وَالْبَعْرِ وَالْخَشِيِّ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ.

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۱۸، ط: دار الكتاب الاسلامي]

(فَجُعِلَ الْقَلِيلُ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ) أَىٰ فِإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَ الْقَلِيلُ مِنَ الْبَعْرِ عَفْوًا لِلضَّرُورَةِ، فَلَوْ أَفْسَدَهُ الْقَلِيلُ أَدْى إِلَى الْحَرْجِ (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ) وَهُوَ الَّذِي ذُكِرَ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيِ الْإِسْتِحْسَانِ. قَالَ فِي الْمَبْسوِطِ: لِلْإِسْتِحْسَانِ وَجْهَانِ أَحَدَهُمَا: أَنَّ فِي الْقَلِيلِ ضَرُورَةَ، وَوَجْهَا مَا ذُكِرَهُ الْمَصْنَفُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَمْ يُذْكُرْ الْمَصْنَفُ وَهُوَ أَنَّ الْبَعْرَ شَيْءٌ صَلْبٌ =

فَلَا خِلَافٌ فِي أَنَّ بَوْلَ كُلُّ مَا لَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ نِجَسٌ، وَأَخْتِلَفُ فِي بَوْلٍ مَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ قَالَ

(۲۸) إِنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَنِجَسٌ عِنْدَهُمَا۔ ①

ترجمہ: جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب امام محمد کے نزدیک پاک ہے، اور حضرات شیخین کے نزدیک ناپاک ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اس اصول سے قبل ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا ہے، اس اختلافی مسئلہ کی اصل وجہ اس اصول مذکورہ سے بیان کی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنوں میں بکری پیشاب کر دے تو حضرات شیخین کے نزدیک کنوں کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کا نکالنا ضروری نہیں، البتہ اگر پیشاب پانی پر غالب ہو گیا تو اس صورت میں پانی مطہر (پاک کرنے والا) تو نہیں رہے گا البتہ طاہر (پاک) ہو گا۔

اس اختلاف کی اصل وجہ اس اصول مذکورہ سے بیان کی کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پاک ہے، اگر قلیل پانی میں پڑ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے، اور حضرات شیخین کے نزدیک ما کوں للحم کا پیشاب ناپاک ہے، اگر ایک قطرہ بھی پانی میں گر گیا تو پانی نجس ہو جائے گا، لہذا بکری نے اگر کنوں میں پیشاب کر دیا تو تمام پانی نکالا جائے گا۔ ②

= وعلى ظاهرها رطوبة في الأمعاء كالغلاف له، وفيها لزوجة تمنع دخول الماء في أثناءه.

[البنياۃ: کتاب الطہارۃ، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۳۳۶، ط: دار الكتب العلمية]

لأن الغش إذا كان قليلا لا يعتبر به؛ لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل الغش، فجعل القليل عفوا دون الكثير، فالفاصل بينهما بالغلبة فأيهما كان أغلب يعتبر به.

[البنياۃ: کتاب الزکاة، فصل فی الفضة، ج ۳ ص ۳۷۳، ط: دار الكتب العلمية]

❶ الہدایہ: کتاب الطہارات، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۱۲، ط: رحمانیہ

❷ فَلَا خِلَافٌ فِي أَنَّ بَوْلَ كُلٌّ مَا لَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ نِجَسٌ، وَأَخْتِلَفُ فِي بَوْلٍ مَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ قَالَ أَبُو حَيْفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ نِجَسٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْعَرَبِينَ شُرْبَ أَبْوَالِ إِلَلِ الصَّدَقَةِ وَالْبَانِهَا مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ =

(۲۹) إِنَّ التَّدَاوِي بِالْمُحْرَمِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ①

ترجمہ: حرام چیز کے ذریعے علاج کرنا امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

شرح: ماقبل میں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا کہ ماکول للحم جانوروں کا پیشاب شیخین کے نزدیک ناپاک ہے، تو اسی پر ایک اور اصول کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے تو اس پیشاب کو بطور دواء کے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پیشاب میں شفاء کا ہونا یقینی نہیں ہے، لہذا اس کو حرام سمجھتے ہوئے اعراض کیا جائے گا، اور اصول ہے کہ تداوی بالحر مات جائز نہیں ہے، لہذا ان جانوروں کے پیشاب کو بھی بطور دواء کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ②

= شِفَاءٌ كُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَقَوْلُهُ: لَيْسَ فِي الرِّجْسِ شِفَاءٌ فَبَثَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ (وَلَهُمَا) حَدِيثٌ عَمَّارٍ إِنَّمَا يُغْسِلُ النُّوْبُ مِنْ خَمْسٍ وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا النُّوْلُ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَنِرْ هُوَ مِنْ النُّوْلِ فَإِنْ عَامَةً عَذَابُ الْقَبْرِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّبَاعَ السَّلِيمَةَ تَسْتَخِبِثُهُ، وَتَحْرِيمُ الشَّيْءِ لَا لِحُتْرَامِهِ وَكَرَامَتِهِ تَنْجِيْسٌ لَهُ شَرُّعًا؛ وَلَأَنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ فِيهِ مَوْجُودٌ وَهُوَ إِلَاسْتِقْدَارٌ الْطَّبِيعِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ إِلَى فَسَادٍ وَهِيَ الرَّأْيَةُ الْمُنْتَهَى، فَصَارَ كَرْوَةٌ وَكَبُولٌ مَا لَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ.

[بدائع الصنائع: کاب الطهارة، فصل في الطهارة الحقيقة، ج ۱ ص ۲۱، ط: دار الكتب العلمية]  
اصل هذه المسألة أن بول ما يؤكل لحمه ظاهر عند محمد، وإن وقع في الماء القليل لا ينجسه ويجوز الوضوء به إلا أن يغلب على الماء فيخرج عن طهوريته نجس. عندهما إن وقع منه قطرة في الماء أفسدته.

[العناية: كتاب الطهارة، فصل في البشر، ج ۱ ص ۱۰۱، ط: دار الفكر]

❶ الهدایۃ: کتاب الطهارات، فصل في البشر، ج ۱ ص ۳۱، ط: رحمانیہ

❷ مطلب في التداوي بالمحرم (قوله أختلف في التداوي بالمحرم) في النهاية عن الدخيرة يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الحالية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليك كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا يأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختارة صاحب الهدایۃ في التجنيس فقال:

(۳۰) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا عَادَ شَيْئًا يَأْخُذُ حُكْمَهُ۔ ①

ترجمہ: جب کوئی شی دوسرا شی کے (جسم میں برادر ہو) تو حکم بھی ایک ہوگا۔

تشریح: چوہا اگر کنویں میں گر جائے تو اس کے نکالنے کے بعد بیس ڈول پانی نکالنے سے کنوں پاک ہو جائے گا، جب کہ وہ پھولا پھٹانہ ہو۔ اسی طرح وہ جانور جو جسم وجہ میں چوہے کے ہم مثل ہیں جیسے گودیا، بھجنگا وغیرہ اگر یہ بھی کنویں میں گر جائیں تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو چوہے کا ہے کا ہے یعنی یہیں ڈول پانی نکالنا واجب ہے اور تیس ڈول تک نکالنا مستحب ہے۔ چوہے کا حکم روایت میں موجود ہے، لہذا دوسرا جانوروں کو وجہ میں ہم مثل ہونے کی وجہ سے چوہے والا حکم

دیا گیا ہے۔ ②

= لَوْرَعَفَ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدِّمْ عَلَى جَبَهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِالْاسْتِشْفَاءِ، وَبِالْبُولِ أَيْضًا إِنْ عَلِمْ فِيهِ شِفَاءً لَا بُأْسَ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يُنْقُلْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الْاسْتِشْفَاءِ كَحِلٌّ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ لِلْعَطْشَانِ وَالْجَائِعِ اهْمِنُ الْبَحْرِ. وَأَفَادَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَفِّيْرِ اللَّهُ لَا يَظْهُرُ الْاِخْتِلَافُ فِي كَلَامِهِمْ لِاِتْفَاقِهِمْ عَلَى الْجَوَازِ لِلضُّرُورَةِ، وَاشْتَرَاطُ صَاحِبِ النَّهَايَةِ الْعِلْمِ لَا يُنَافِيْهُ اشْتَرَاطُ مَنْ بَعْدَهُ الشَّفَاءَ وَلِذَا قَالَ وَالِدِي فِي شِرْحِ الدُّرْرِ: إِنْ قَوْلَهُ لَا لِلتَّدَاوِي مَحْمُولٌ عَلَى الْمَظْنُونِ وَإِلَّا فَجَوَازُهُ بِالْيَقِينِيِّ اتْفَاقٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَصَفَّى. أَقُولُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي الْاِسْتِدَالِ، لِقَوْلِ الْإِمَامِ: لَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قَوْلَ الْأَطْبَاءِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّجْرِيْبَ يَحْصُلُ بِهَا غَلَبةُ الظَّنِّ دُونَ الْيَقِينِ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا بِالْعِلْمِ غَلَبةَ الظَّنِّ وَهُوَ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ تَأَمَّلُ.

[رد المحتار: کتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في التداوى بالمحرم، ج ۱ ص ۲۱۰، ط: دار الفكر]

① الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی البتر، ج ۱ ص ۳۲، ۳۳، ط: رحمانیہ

② (والعصفورة ونحوها تعامل الفارة في الجثة فأخذت حكمها) أى حکم الفارة، وأشار بهذا إلى أن الأثر إلى ذكره وإن كان ورد في الفارة يشمل كل حیوان قدر الفارة فيأخذ حکمها، فيجب عشرون دلوا إلى ثلاثة.

[البنيۃ: کتاب الطهارة، فصل فی البتر، ج ۱ ص ۳۲۹، ط: دار الكتب العلمية]

بِنَرْخُ فِي الْفَارَةِ عِشْرُونَ دَلَوْا وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوُهَا تَعَادُلُ الْفَارَةَ فَأَخَذَتُ حُكْمَهَا.

[تبیین الحقائق: کتاب الطهارة، ماء البتر، ج ۱ ص ۲۸، ط: المطبعة الكبرى]

(۱۳) إِنَّ الْيَقِينَ لَا يَرُوُلُ بِالشَّكِّ ①

ترجمہ: یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو حضرات صاحبین کے مسلک کے ثبوت پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر لوگوں نے کسی کنویں میں مراہو اجانور دیکھا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کب گرا ہے اور ابھی تک پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کنویں سے وضو کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹانا ضروری ہے اور جس چیز کو اس کنویں کا پانی لگا ہوا سے بھی دھویا جائے گا۔

اور اگر وہ جانور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس صورت میں تین دن کی نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے، یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے۔

صاحب ہدایہ نے حضرات صاحبین کے مسلک کو ثابت کرنے کے لئے اصول مذکورہ کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کنویں کا پانی با یقین پاک تھا مگر اس میں مراہو اجانور پانے کی وجہ سے گزشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے میں شک واقع ہو گیا اور اصول ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا ایسا پر یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو گا، جب تک تحقیق سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے تو گزشتہ ایام میں اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور ان پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہو گا۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۲۲، ط: رحمانیہ

❷ (لَأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَرُولُ بِالشَّكِّ) بَيَانُهُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا بِيَقِينٍ وَوَقَعَ الشَّكُ فِي نَجَاسَتِهِ فِيمَا مَضَى، وَالْيَقِينُ لَا يَرُولُ بِالشَّكِّ فَلَا يُحَكِّمُ بِالنِّجَاسَةِ إِلَّا زَمَانَ التَّيْقُنِ بِوُقُوعِ الْجِسْ، لِأَنَّ الْيَقِينَ يَرُولُ بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، كَمَنْ رَأَى فِي ثُوبِهِ نَجَاسَةً لَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزُمُهُ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ. وَلَا بِحِينَةٍ أَنَّ الْمَوْتَ الْحَيَوَانِ فِي الْبَشَرِ سَبَباً ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَكُلُّ مَا لَهُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ يُحَالُ عَلَيْهِ كَمَنْ جَرَحَ إِنْسَانًا فَلَمْ يَرِدْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّىٰ مَاتَ يُحَالُ بِمَوْتِهِ عَلَى الْجِرَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبُّ الظَّاهِرُ، =

(٣٢) إِنَّ الشَّيْءَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبِيلًا ظَاهِرًا يُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ. ①

ترجمہ: جب کسی چیز کا کوئی سبب ظاہری ہو تو حکم اسی ظاہری سبب پر لگایا جائے گا۔

تشریح: اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ظاہری سبب واضح ہو اور مسبب مخفی ہو تو حکم ظاہری سبب پر لگایا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کا پانی میں گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہے تو اسی پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ جانور پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے، اگرچہ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ کسی اور سبب سے مر کر پانی میں گرا ہو، اب وقوع موت کس سے ہوئی یہ مخفی ہے، لہذا ظاہری سبب پر حکم لگائیں گے کہ جانور پانی میں گرنے کی وجہ سے مرا ہے، امر موهوم کا اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کسی شخص نے کسی کوزخم لگایا وہ اسی کی وجہ سے صاحب فراش ہو گیا حتیٰ کہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی موت اس زخم کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے کہ کسی اور سبب سے موت واقع ہوئی ہو، لیکن یہ احتمال موهوم ہے اس لئے حکم ظاہری سبب پر لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی بستی میں کوئی لاش پائی گئی تو قسامت اس اہل محلہ پر لازم ہوگی، یہی ظاہری سبب ہے، اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے کہ کسی اور علاقے والوں نے قتل کر کے لاش یہاں پھینکی ہو۔ اسی طرح اگر کسی کی گردن کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہو اور وہ شخص مردہ پڑا ہو، تو یہاں ظاہری سبب پر حکم ہوگا کہ سانپ کے ڈسنے سے مرا ہے، اگرچہ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ

= وَكَمِّيْتِ التَّوْثِ فِي عُنْقِهِ حَيَّةً فَإِنَّهُ يَحْالُ بِمَوْتِهِ عَلَى نَهْشَهَا، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ  
بِغَيْرِ الْجَرْحِ وَالنَّهْشِ؛ لَأَنَّ الْمُوْهُومَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُحَقَّقِ غَيْرُ مُعْتَبِرٍ، إِلَّا أَنَّ الْإِنْتِفَاعَ دَلِيلُ تَقَادُمِ  
الْعَهْدِ، وَأَدَنَى حَدَّ التَّقَادُمِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا يُرَى أَنَّ مَنْ دُفِنَ بِلَا صَلَاتَةٍ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ  
إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَسُخُ فِي هَذِهِ الْمُدَدَّةِ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثَةِ، وَعَدَمُ  
الْإِنْتِفَاعِ وَالْتَّفَسُخِ دَلِيلُ قُرْبِ الْعَهْدِ فَقَدَرْنَاهُ بِيَوْمٍ؛ لَأَنَّ أَقْلَى الْمَقَادِيرِ فِي بَابِ الصَّلَاتَةِ يَوْمٌ  
وَلَيْلَةٌ، فَإِنْ مَا دُوْنَهُ سَاعَاتٌ لَا يُمْكِنُ ضَطْبُهَا.

[الغاية: كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١ ص ١٠٢، ١٠٧، ١٠٦، ط: دار الفكر]

<sup>١</sup>الهداية: كتاب الطهارات، فصل في البئر، ج ١ ص ٢٣، ط: رحمانية

کسی اور سبب سے موت واقع ہوئی ہو۔ ①

## فصل فی الآسَارِ وَغَيْرِهَا

(۳۳) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مَوْلَدُهُمَا وَمَا حَدُّهُمَا وَاحِدًا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا حُكْمَ

صَاحِبِهِ. ②

ترجمہ: جب کسی شی کی جائے پیدائش اور ماذ ایک ہو تو حکم بھی دونوں کا ایک ہوگا۔

شرح: اس کا حاصل یہ ہے کہ جب دو چیزیں ایک ہی جگہ سے پیدا ہوتی ہوں تو دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے، جیسے صاحب ہدایہ نے اس کیوضاحت کی ہے کہ ہرجاندار کے پسینہ کو اس کے سور پر قیاس کیا جائے گا، یعنی جو حکم سور کا ہوگا وہی اس کے پسینہ کا ہوگا، اس لئے کہ پسینہ اور لعاب دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں اور اصول ہے کہ جب دو چیزیں ایک ہی جگہ سے پیدا ہوں تو دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر پسینہ اور لعاب کا حکم بھی یکساں ہوگا۔ ②

❶ السبب الظاهر لموت الفارة الواقعة في البشر (وهو الوقوع في الماء في حال) أى فصار الحكم وهو نجاست الماء (به) أى بالموت (عليه) أى الواقع، وإن احتمل أن يكون الميت بغیره؛ لأن السبب الموهم لا يضر في مقابلة السبب الظاهر كمن رأى إنساناً في عنقه حية ملفوقة يغلب على الظن أنها نهشته فقتلته كذا ذكره شمس الأئمة الكردري، وكمن جرح إنساناً فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فإن الموت يضاف إلى الجرح، وإن احتمل أن يكون بسبب آخر كذا في "المبسوط"، وكذلك الوجود قتيل في محل يضاف القتل إلى أهلها، وإن احتمل أنه قتل في محل آخر ثم حمل إليها.

[البنيۃ: کتاب الطهارة، فصل فی البشر، ج ۱ ص ۳۶۲، ط: دار الكتب العلمية]

وَلَأَنَّ لِلْمَوْتِ سَبَبًا ظَاهِرًا وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ فِي حَالٍ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الْإِنْفَاقَخِ فِي الْمَاءِ دَلِيلٌ قُرُبٌ الْعَهْدِ فَقَدْرَ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْإِنْفَاقَخِ دَلِيلٌ التَّقَادُمِ فَقَدْرَ بِالثَّلَاثِ إِلَّا تَرَى أَنَّ مَنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنَفَّسُ

[الجوهرة النيرة: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۹، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی الآسَارِ، ج ۱ ص ۳۳، ط: رحمانیہ

❸ لَأَنَّ السُّوْرَ مُخْتَلِطٌ بِاللَّعَابِ، وَهُوَ الْعَرَقُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الْلُّحْمِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُطْبَوَةٌ بِهِ =

(۳۴) إِنَّ مَا تَوَلَّدُ مِنْ طَاهِرٍ فَهُوَ أَيْضًا طَاهِرٌ۔ ①

ترجمہ: جو چیز کسی پاک چیز سے پیدا ہو تو وہ بھی پاک ہوا کرتی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو ایک مثال سے واضح فرمایا ہے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، جبکی ہو یا حائض، اسی طرح ان جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، جب ان کا گوشت پاک ہے تو اس سے پیدا ہونے والا لعاب بھی پاک ہو گا۔ اسی مسئلے کے ثبوت پر موصوف نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ پانی لعاب دہن ملنے کی وجہ سے جھوٹا ہوتا ہے اور لعاب پیدا ہوتا ہے گوشت سے اور ان جانوروں کا گوشت پاک ہے، اور اصول ہے کہ جو چیز کسی پاک چیز سے پیدا ہو تو وہ بھی پاک ہوا کرتی ہے، لہذا لعاب بھی پاک ہو گا اور جب لعاب پاک ہے تو جس چیز میں ان کا لعاب مخلوط ہو گا وہ چیز بھی پاک ہو گی۔ ②

= مُتَحَلَّلٌ مِنِ اللَّحْمِ فَأَخَذَ الْحَكْمَةَ.

[البحر الرائق: كتاب الطهارة، بول ما يؤكّل لرحمه، ج ۱ ص ۱۳۲، ط: دار الكتاب الإسلامي] (وَعِرْقٌ كُلُّ شَيْءٍ كَسُورٌ) أَيْ حُكْمُ الْلَّعَابِ وَالْعِرْقِ وَاحِدٌ لَأَنْ كُلُّا مِنْهُمَا مُتَوَلَّدٌ مِنِ اللَّحْمِ فَيُعْتَبِرُ عِرْقٌ كُلُّ حَيَوانٍ بِسُورٍ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً وَكَرَاهَةً.

[مجمع الأنهر: كتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۶، ط: دار إحياء التراث]

① الهدایہ: كتاب الطهارات، فصل في البشر، ج ۱ ص ۲۳، ط: زرمانیه

② (قَوْلُهُ: وَسُورُ الْأَدَمِيٌّ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكِلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ) أَمَّا الْأَدَمِيُّ فَلَأَنَّ لِعَابَهُ مُتَوَلَّدٌ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ، وَإِنَّمَا لَا يُؤْكِلُ لِكَرَامَتِهِ وَلَا فَرْقٌ بَيْنَ الْجُنُبِ وَالظَّاهِرِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْدَّكَرِ وَالْأُلَّاثَى.

[البحر الرائق: كتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: دار الكتاب الإسلامي] (فَيَكُونُ حُكْمُهُ) أَيْ الْمَاءِ (حُكْمُ لَعَابِهِ) فَإِنْ كَانَ لِعَابَهُ طَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَالْمَاءُ نَجِسٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فَالْمَاءُ مَشْكُوكٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَمَكْرُوهٌ فَيُسْتَحْبِطُ نَرْحَةً. (وَسُورُ الْأَدَمِيُّ الظَّاهِرُ الْفَمِ) سَوَاءَ كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا (وَ) سُورٌ (كُلُّ مَا يُؤْكِلُ كَذَلِكَ) أَيْ طَاهِرُ الْفَمِ (طَاهِرٌ) لَأَنَّ لِعَابَهُمْ مُتَوَلَّدٌ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ فَيَكُونُ الْمُخْلُوطُ بِهِ مُثْلَهُ.

[درر الحکام: كتاب الطهارة، ج ۱ ص ۲۷، ط: دار إحياء الكتب]

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

(۳۵) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حُكْمٌ فَمَا هُوَ دُونَهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ

بِالْأَوَّلِيٍّ ①

ترجمہ: جب کسی شی کا کوئی حکم ہو تو جو اس سے مکتر ہے وہ اس حکم میں باطریق اولی داخل ہوگا۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو حضرات احناف کے مسلک کے ثبوت پر بطور دلیل کے پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات احناف کے نزدیک اگر کتنا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو تین مرتبہ دھونا واجب ہے، اسی مسئلہ پر اصول مذکورہ کو پیش کیا (جود حقیقت امام شافعی رحمہ اللہ کوالزمی جواب ہے) کہ جس چیز کو کتے کا پیشاب لگے وہ تین بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو جس چیز کو اس کا جھوٹا لگ جائے حالانکہ وہ اس کے پیشاب سے نجاست میں مکتر ہے تو بدرجہ اولی تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گی جیسا کہ اصول میں ہے۔ کتے کے جھوٹے کو اس کے پیشاب سے کم اس لئے کہا کہ کتے کے پیشاب کی طہارت کا کوئی قائل نہیں ہے اور اس کے جھوٹے کو امام مالک رحمہ اللہ طاہر کہتے ہیں۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الطہارات، فصل فی الآسار، ج ۱ ص ۳۲، ط: رحمانیہ

❷ (وَلَأَنَّ مَا يُصِيبُهِ بَوْلَهُ يَطْهُرُ بِالثَّلَاثِ) أَيْ بِالْإِتْفَاقِ. وَقَوْلُهُ: (فَمَا يُصِيبُهُ سُؤْرُهُ وَهُوَ دُونَهُ)  
لَأَنَّ مَالِكًا يَقُولُ بِطَهَارَةِ سُؤْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِطَهَارَةِ بَوْلَهُ فَإِذَا طَهَرَ بَوْلَهُ بِالثَّلَاثِ فَلَأَنَّ يَطْهُرَ سُؤْرُهُ (أَوَّلیٰ).

[العنایہ: کتاب الطہارة، فصل فی الآسار، ج ۱ ص ۱۰۹، ط: دار الفکر]

وَلَنَا مَا رَوَاهُ الطَّحاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُغَسِّلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ الرَّاوِي لِاشْتِرَاطِ السَّبْعِ، وَعِنْدَنَا إِذَا عَمِلَ الرَّاوِي بِخَلَافِ مَا رَوَى أَوْ أَفْسَى لَا تَبَقَّى رِوَايَتُهُ حُجَّةً لَأَنَّهُ لَا يَحْلُّ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتَنَ بِخَلَافِهِ إِذْ تَسْقُطُ بِهِ عَدَالَتُهُ فَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لَأَنَّهُ كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ حِينَ كَانَ يُشَدَّدُ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ، وَيَأْمُرُ بِقَتْلِهَا قَلْعًا لَهُمْ عَنْ مُخَالَطَتِهَا، ثُمَّ تُرَكَ وَهَذَا كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَانٌ يَأْمُرُ بِكَسْرِ الْأَوَانِيِّ حِينَ كَانَ يُشَدَّدُ فِي الْخَمْرِ قَلْعًا لَهُمْ عَنْهَا وَحَسْمًا لِمَادِتِهَا لَمْ نَهَى عَنْ كَسْرِ الْأَوَانِيِّ أَوْ تُحْمَلُ السَّبْعُ عَلَى إِلَاسْتِحْبَابٍ، وَيُؤَيَّدُهُ مَا رُوِيَ الدَّارُ قُطْنِيٌّ =

(۳۶) إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ نَجِسٍ فَهُوَ أَيْضًا نَجِسٌ. ①

ترجمہ: جو چیز کسی نجس سے پیدا ہو تو وہ بھی نجس ہوتی ہے۔

تشریح: اس سے قبل صاحب ہدایہ نے ایک اصول ذکر کیا تھا کہ جو چیز کسی پاک چیز سے پیدا ہو تو وہ بھی پاک ہوا کرتی ہے لیکن یہاں سے اس کے برخلاف ایک اور اصول کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ چیز کسی نجس سے پیدا ہو تو وہ بھی نجس ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا ہے کہ حضرات احتف کے ہاں بہائیم درندوں (شیر، چیتا، بھیڑیا اور ہاتھی وغیرہ) کا جھوٹا ناپاک ہے، وجہ یہ ہے کہ درندوں کا گوشت ناپاک ہے اور لعاب اسی سے پیدا ہوتا ہے اور اصول ہے کہ جو نجس چیز سے پیدا ہو تو وہ بھی نجس ہوگی اور لعاب کے پاک اور ناپاک ہونے میں گوشت کا اعتبار ہے، یعنی اگر گوشت ناپاک ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، تو چونکہ ان درندوں کا گوشت ناپاک ہے تو ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہو گا جو ان کے گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ ②

=عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلْغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ ثَلَاثَةً أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَخَيْرٌ وَلَوْ كَانَ السَّبْعُ وَاجِبًا لِمَا خَيْرَهُ، ثُمَّ إِنَّ الشَّافِعِيَ جَعَلَ الْعَدْدَ تَعَبُّدًا فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ وَعَدَدَهُ إِلَى الْبُولِ وَإِلَى رُطْبَوَةٍ أُخْرَى مِنْ الْكَلْبِ وَإِلَى الْخِنْزِيرِ . وَالشَّيْءُ إِذَا ثَبَّتَ تَعَبُّدًا لَا يَتَعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ، وَقَدْرَهُ أَصْحَابُنَا بِالثَّلَاثِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ لِمَا رَوَيْنَاهُ وَلِحَدِيثِ الْمُسْتَيقَظِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۲، ط: دار الكتب الإسلامية]

① الہدایہ: کتاب الطهارات، فصل فی الآسار، ج ۱ ص ۳۲، ط: زرمانیہ

② (وَالثَّالِثُ نَجِسٌ، وَهُوَ سُورُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَسَبَاعُ الْبَهَائِمِ) أَمَّا الْخِنْزِيرُ فِلَأَنَّهُ نَجِسٌ الْعَيْنِ وَلَعَابُهُ يَتَوَلَّدُ مِنْ لَحْمِهِ. وَأَمَّا الْكَلْبُ فِلَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمْرٌ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثَةً، وَفِي رِوَايَةِ سَبْعًا، وَلِسَانُهُ يَلْاقِي الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ فَكَانَ أَوْلَى بِالنَّجَاسَةِ. وَأَمَّا سَبَاعُ فِلَانٍ فِيهِ لَعَابَهَا، وَأَنَّهُ نَجِسٌ لِتَوَلَّدِهِ مِنْ لَحْمِ نَجِسٍ كَالْبَنِ.

[الاختیار لتعلیل المختار: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۱۹، ط: دار الكتب العلمية]

وَأَمَّا نَجَاسَةُ سُورُ الْخِنْزِيرِ فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَأَمَّا سُورُ سَبَاعُ الْبَهَائِمِ فِلَأَنَّهُ مُتَوَلَّدٌ =

(۷۳) إِنَّ تَعَارُضَ الْأَدِلَّةِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحُرْمَةِ يُؤْرِثُ الشَّكَّ وَكَذَا

### اِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ①

ترجمہ: جب اولہ اباحت اور حرمت متعارض ہو جائیں یا صحابہ کرام کا اختلاف تو اس صورت میں حکم میں شک پیدا ہو جائے گا۔

تشریح: اصول کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کے مباح اور حرام ہونے میں دلائل متعارض ہو جائیں، یا صحابہ کے درمیان اُس مسئلہ میں اختلاف ہو تو شک پیدا ہو جاتا ہے، یقین طور پر کسی ایک جہت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ایسی صورت میں توقف کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ گدھے کے جھوٹے میں شک کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے مباح ہونے اور حرام ہونے میں دلائل مختلف ہیں، چنانچہ روایت میں ہے کہ غالب بن ابجر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے، میرے پاس ہمارے گھروالوں کو کھلانے کے لئے فربہ گدھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے، تو آپ نے فرمایا:

### أَطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينٍ حُمُرِكَ ②

ترجمہ: اپنے گھروالوں کو فربہ گدھوں کا گوشت کھلاؤ۔

یہ حدیث گدھے کے گوشت کی حلعت پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، چخر، گدھے اور چیر پھاڑ دینے والے درندوں کے گوشت سے منع فرمایا ہے:

= مِنْ لَحْمِهِ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ نَجِسٌ.

[تبیین الحقائق: کتاب الطهارة، ج ۱ ص ۳۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

① [الهدایۃ: کتاب الطهارات، فصل فی الآسار، ج ۱ ص ۲۵، ط: رحمانیہ]

② [سنن أبي داود: کتاب الأطعمة، باب فی أكل لحوم الحمر الأهلية، ج ۳ ص ۳۵۶، رقم

الحدیث: ۳۸۰۹، ط: المکتبۃ العصریۃ]

نهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. ①

یہ حدیث گدھے کے گوشت کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔

دوسری سبب یہ ہے کہ گدھے کے جھوٹے کے پاک اور ناپاک ہونے میں صحابہ کا اختلاف ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ناپاک ہونا منقول ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا پاک ہونا مروی ہے۔ تو اولہ اور صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اس میں شک آگیا، اس لئے فقہی کتب میں ”سُؤْرُ الْحَمَارِ وَالْبَغْلِ مشکوک“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ②

<sup>١</sup> السنن الكبرى للنسائي: كتاب الوليمة، تحريم لحوم الخيل، ج ٢ ص ٢٢٣، رقم الحديث:

٤٠٦، ط: مؤسسة الرسالة

<sup>٢</sup>العنابة: كتاب الطهارة، فصل في الآثار، ج ١ ص ١٥، ط: دار الفكر / البناءة: كتاب

الطهارة، فصل في الآثار، ج ١ ص ٣٩٢، ٣٩٣، ط: دار الكتب العلمية

(وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ مَشْكُوكٌ) أَيْ سُورُهُمَا مَشْكُوكٌ فِيهِ أَمَا الْحِمَارُ فَتِعَارِضُ الْأَدِيلَةُ؛ لَأَنَّهُ قَدْ ثَبَّتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمْرَ يَوْمَ خَيْرٍ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ  
وَقَالَ إِنَّهُ رِجْسٌ وَرُوَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبْنَجَرَ بْنَ غَالِبٍ حِينَ قَالَ لَهُ لَيْسَ لِي  
إِلَّا حَمِيرَاتٌ كُلُّ مِنْ سَمِينٍ مَالِكٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُلُّ مَا يَعْتَلِفُ الْقَثُ وَالْتَّبَنُ فَسُورُهُ  
طَاهِرٌ وَكَثَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهُ رِجْسٌ، وَلَأَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلْبَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولِ الْلَّحْمِ  
وَيُشْبِهُ الْهِرَّةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُرْبَطُ فِي الدُّورِ وَالْأَفْيَةِ فَتِعَارِضُ الْأَدِيلَةُ فِيهِ قَوْعَ الشَّكُ ثُمَّ قِيلَ  
الشَّكُ فِي طَهَارَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلْبَ مِنْ وَجْهٍ وَالْهِرَّةَ مِنْ وَجْهٍ وَقِيلَ فِي طَهُورِهِ  
لَأَنَّهُ يُشْبِهُ الْهِرَّةَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَيَكُونُ طَهُورًا بِاعْتِبَارِهِ، وَيُقَارِفُهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ  
الْمَضَائِقَ وَلَا يَصْعَدُ الْغُرَفَ فَكَانَ الْبُلُوَى فِيهِ دُونَهَا فِي الْهِرَّةِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا  
بِاعْتِبَارِهِ فَأَوْجَبَ الشَّكُ فِي الطَّهُورِيَّةِ وَقِيلَ الشَّكُ فِي الطَّهَارَةِ وَالْطَّهُورِيَّةِ جَمِيعًا، وَأَمَّا  
الْبَغْلُ فَهُوَ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ هَكَذَا.

[تبين الحقائق: كتاب الطهارة، ج ١ ص ٣٢، ط: دار الكتاب الإسلامي]

فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِذَا كَانَ مَشْهُورًا وَعَمِلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ يَصْحُّ بِهِ الرِّيَادَةُ (۳۸)

### علی الکتاب۔ ①

ترجمہ: جب کوئی حدیث مشہور ہو اور اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہو تو ایسی مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے امام صاحب کے مسلک کو ثابت کیا ہے، نیز یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب بھی ہے۔

مسلک کا حاصل یہ ہے کہ اگر نبیذ تمر کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے اور تمیم نہ کیا جائے، جس کی دلیل حدیث لیلۃ الجن ہے، جس میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو کیا اور فرمایا ”تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ“، اس کے برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث لیلۃ الجن آیت تمیم سے منسوخ ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حدیث لیلۃ الجن آیت تمیم سے منسوخ نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث لیلۃ الجن مشہور ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کا اس پر عمل بھی رہا ہے اور اصول ہے کہ جو حدیث مشہور ہو اور اس پر صحابہ نے عمل بھی کیا ہو تو ایسی مشہور حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا یہاں پر چونکہ یہ حدیث مشہور بھی ہے اور صحابہ کی ایک جماعت کا عمل بھی رہا ہے تو اب آیت تمیم پر حدیث سے زیادتی جائز ہے، لہذا نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہو گا۔

اس اصول کی زیادہ واضح مثال مظاہر ثلاثہ کی ہے، یہ شوہر اول کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر ثانی اس کے ساتھ خلوت صحیح یا جماع نہ کرے، یہ قید احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جو کتاب اللہ پر زیادتی ہے۔

نوٹ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں رجوع ثابت ہے، فتوی امام ابو یوسف رحمہ اللہ

فَلَا تَحْمِلُوا مَا لَا يُكْفِرُ بِهِ وَلَا يَنْعَلِمُ بِهِ وَلَا يَأْتِي مَوْلَانَا بِهِ وَلَا يَأْتِي مَوْلَانَا بِهِ

اور انہ کتاب کے قول پر ہے کہ نبیذ تحر سے وضو جائز نہیں ہے بلکہ تیم ضروری ہے۔ ①

## باب التیم

(۳۹) إِنَّ الْعَجْزَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ اغْتِبَارِهِ ②

ترجمہ: جب عجز حقیقتاً ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل عقلی کے ذکر کیا ہے کہ اگر جنپی آدمی کو یہ خوف ہو کہ غسل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا تو اس کے واسطے تیم کرنا جائز ہے، کیونکہ جنپی ایسی حالت میں غسل کرنے سے حقیقتاً عاجز ہے اور اس کا عجز درحقیقت ثابت ہے

① (وبمثله) ای بمثل هذا الحديث (بزاد على الكتاب وتمسکه) ای وتمسک هذا الحديث

مبني على الكتاب كما في المطلقة ثلاثة فإنه يراد الدخول عليه بالحديث المشهور.

[البنایہ: کتاب الطهارة، فصل فی الآسار، ج ۱ ص ۵۰۶، ط: دار الكتب العلمية]

(قَوْلُهُ وَيَقَدِّمُ التَّيْمَ عَلَى نَبِيِّ التَّمِّ) أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ فِي الْبَيْنَةِ عَنِ الْإِمَامِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ: الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ الْأُولُّ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيُسْتَحْبِطُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ التَّيْمَ. الْثَّانِيَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَسُورٌ الْحِمَارِ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَرَجَحَهُ فِي غَایَةِ الْبَیَانِ. وَالثَّالِثَةُ: التَّيْمُ فَقَطُ، وَهُوَ قَوْلُهُ الْآخِرُ، وَقَدْ رَجَعَ إِلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَئمَّةُ الْثَّالِثَةُ وَاخْتَارُهُ الطَّحاوِيُّ، وَهُوَ الْمَذَهَبُ الْمُصَحَّحُ الْمُخْتَارُ الْمُعَتمَدُ عِنْدَنَا بَحْرٌ.

[رد المختار: کتاب الطهارة، باب المياه، فصل فی البئر، ج ۱ ص ۲۷، ط: دار الفکر]

وَرَوَى أَسَدُ بْنُ نَجْمٍ وَنُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَالْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي بُوْسَفَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرُ وَأَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُمَا اللَّهُ. كَذَادِي فِي شَرِحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِإِلَمَامِ قَاضِي خَانٍ وَالْفَقْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَّهِ كَذَادِي فِي الْعَيْنِيِّ شَرِحِ الْكُنْزِ.

[الفتاوى الھندیۃ: کتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثانی، ج ۱ ص ۲۲، ط: دار الفکر]

② الھدایہ: کتاب الطھارات، باب التیم، ج ۱ ص ۳۹، ط: رحمانیہ

چاہے وہ شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، علت عجز ہے، اور اصول ہے کہ جب عجز حقیقت ثابت ہو تو اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ جنہی کے لئے عجز ثابت ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے لئے تیم کرنا جائز ہو گا۔ ①

(۲۰) إِنَّ النَّاِمَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ترجمہ: بحالت تیم سویا ہوا شخص حکما پانی پر قادر شمار ہو گا۔

تشریح: صاحب ہدایہ کا مقصود اس اصول سے یہ ہے کہ سویا ہوا شخص بھی پانی پر قادر شمار ہو گا، چنانچہ اگر کوئی مقیم سونے کی حالت میں پانی سے گزر ا تو اس کا تیم باطل ہو جائے گا، اس لئے کہ یہ حکما پانی پر قادر ہے کیونکہ یہ شخص پانی کے استعمال سے ایسے عذر (نیند) کی وجہ سے عاجز ہوا جو خود اس کی جانب سے پیدا ہوا ہے، لہذا اس کو معدود نہیں سمجھا جائے گا، اس کا تیم باطل ہو جائے گا۔ ②

❶ (أَوْ الْجُنُبُ فِي الْمِصْرِ) أَيْ تَيِّمَ الْجُنُبُ فِي الْمِصْرِ (الْخُوفُ الْبُرْدُ جَازَ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ ثَابِثٌ حَقِيقَةً فَلَا بُدُّ مِنْ اعْبَارِهِ ثُمَّ إِنْ رُحْصَةَ التَّيِّمِ بِسَبِيلِ الْبُرْدِ ثَابِتَةٌ لِلنُّوكِيدِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ السَّرَّخِيُّ.

[مجمع الأنهر: كتاب الطهارة، باب التیم، ج ۱ ص ۲۲، ط: دار إحياء التراث]

(أن العجز ثابت حقيقة) إذ الغرض خوف الهللاك مع وجود الماء ومشروعية التیم لدفع الحرج وهو شامل لهما (فلا بد من اعتباره) ولو كان نادراً في مصر إذا تحقق فلا بد أن يجب الخروج عند عهده، ولهذا لو عدم الماء في مصر يتيم ولو كان نادراً.

[البنيان: كتاب الطهارة، باب التیم، ج ۱ ص ۱۹، ۵، ط: دار الكتب العلمية]

❷ الهدایہ: كتاب الطهارات، باب التیم، ج ۱ ص ۱، ۵، ط: رحمانیہ

❸ بِأَنَّ النُّومَ فِي حَالَةِ السَّفَرِ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَشُعُرُ بِالْمَاءِ نَادِرٌ خُصُوصًا عَلَى وَجْهِهِ لَا يَتَحَلَّهُ الْقِطَطُهُ الْمُشْعِرَهُ بِالْمَاءِ فَلَمْ يُعْتَدْ نَوْمُهُ فَجَعَلَ كَالْيُقْظَانِ حُكْمًا أَوْ لَأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَاءِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ يُؤَيَّدُهُ قَوْلُ الْهَدَايَهِ وَالنَّاِمُ قَادِرٌ تَقْدِيرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

[منحة الحلق: كتاب الطهارة، باب التیم، ج ۱ ص ۲۱، ط: دار الكتاب الاسلامي] =

فَلَا بُدُّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ۔ ۱

(۳۱) إِنَّ مَا كَانَ آلَةً التَّطْهِيرِ فَلَا بُدُّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ۔ ۱

ترجمہ: جو چیز پاک کرنے کا آلہ ہو تو اس کا خود پاک ہونا بھی ضروری ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس چیز سے کیا جائے اس کا خود پاک ہونا ضروری ہے، تم کرنے والے کے لئے مٹی پاک کرنے کا آلہ ہے، لہذا جس طرح پانی پاک کرنے کا آلہ ہے اور بذاتِ خود پاک ہے، اسی طرح مٹی کا بھی بذاتِ خود پاک ہونا ضروری ہے۔ ۱

(۳۲) إِنَّ عَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ۔ ۲

ترجمہ: غالب گمان امر تحقق کی مانند ہے۔

شرح: اصول کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے ملنے کا غالب گمان ہو کہ وہ مل جائے گی تو وہ

= وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حِينَفَةَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا وَخَائِفُ السَّبِيعِ عَاجِزٌ حُكْمًا، وَالْفُرْقُ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْخَائِفِ أَنَّ النُّومَ فِي حَالَةِ السَّفَرِ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَشْعُرُ بِالْمَاءِ نَادِرٌ خُصُوصًا عَلَى وَجْهِهِ لَا يَتَحَلَّلُ الْيَقَظَةُ الْمُشْعَرَةُ بِالْمَاءِ فَلَمْ يُعْتَبِرْ نَوْمُهُ كَالْيُقْظَانِ حُكْمًا.

[الجوهرة النيرة: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۲۲، ط: المطبعة الخيرية]

۱) الہدایہ: كتاب الطهارات، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۲، ط: رحمانیہ

۲) (ولا يتيم إلا بصعيد طاهر لأن الطيب) المذكور في قوله تعالى: (صَعِيدًا طَيِّبًا) (أريد به الطاهر في النص) بالإجماع، إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعية، وعن داود: والتراب إذا تغير بالنجاسة لا يجوز التيمم به، وإن لم يتغير جاز، ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا.

[البنياۃ: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۵۰، ط: دار الكتب العلمية]

(ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر) لأن الطيب أريد به الطاهر، وأنه آلة التطهير، فلا بد من طهارتہ في نفسه كالماء.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۳۲، ط: المكتبة العلمية]

۳) الہدایہ: كتاب الطهارات، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۲، ط: رحمانیہ

ایسے ہے کہ گویا وہ چیز حقیقتاً موجود ہے۔ صاحب ہدایہ نے اسی اصول کو سمجھانے کے لئے ایک مثال ذکر کی ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو اور یہ امید ہو کہ نماز کے آخری وقت تک پانی مل جائے گا تو اس صورت میں نماز کو آخر وقت تک موخر کرنا مستحب ہے اور اگر امید نہ ہو تو خواہ مخواہ موخر نہ کرے، لیکن روایت اصول کے علاوہ میں حضرات شیخین سے مروی ہے کہ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو اس صورت میں نماز کو موخر کرنا لازم ہے، اس پر اصول کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظن غالب متحقق کی مانند ہے، اگر پانی ملنے کی امید اور غالب گمان ہو تو اس صورت میں تمیم نہ کرے بلکہ نماز کو آخر وقت تک موخر کر دے، جیسا کہ پانی کی موجودگی میں تمیم جائز نہیں، اسی طرح پانی کے ملنے کی امید کی صورت میں بھی تمیم جائز نہیں بلکہ آخری وقت تک انتظار کرے اور نماز کو موخر کرے۔ ①

(۲۳) إِنَّ الْعَجْزَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ.

ترجمہ: جب عجز حقیقتاً ثابت ہو تو اس کا حکم زائل نہیں ہوتا مگر اسی جیسے یقین کے ساتھ۔

① (وَيُسْتَحِبُ لِرَاجِي الْمَاءِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِيَقْعُ الْأَذَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ لِكُنْ لَا يُالِغُ فِي التَّأْخِيرِ لِشَلَّاتِ تَقَعُ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ. وَعَنْ الشَّيْخِينِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأَصُولِ أَنَّ التَّأْخِيرَ حَتَّمٌ؛ لِأَنَّ عَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ بِدُونِ الرَّجَاءِ لَا يُؤْخَرُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

[مجمع الأنهر: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۲۳، ط: دار إحياء التراث]

(لأن غالب الرأي كالمحقق) ولهمدا وجوب العمل بخبر الواحد، والقياس يؤيده، قال الله تعالى: (فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) علق عدم الرد إليهم بالعلم بكونهن مؤمنات، والعلم بذلك لا يكون إلا لغالب الرأي وهو كالثابت حقيقة

[البنياۃ: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۵۲، ط: دار الكتب العلمية]

② الہدایہ: کتاب الطهارات، باب التیمم، ج ۱ ص ۵۲، ط: رحمانیہ

تشریح: ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں حقیقتاً عجز ثابت ہے اور اس شخص کے لئے تیم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لہذا جب پانی نہ ملنے سے حقیقتاً ثابت ہے تو جب تک حقیقی اور یقینی طور پر پانی نہ مل جائے اس وقت تک یہ عجز ختم نہیں ہو گا، کیونکہ حقیقتاً ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ ”مَا ثَبَّتِ بِيَقِينٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ“، یعنی جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی سے ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ سے نہیں ہوتی، اس لئے صورتِ مسئلہ میں بھی جب تک یقینی طور پر پانی دستیاب ہونے کا علم نہیں ہو گا اس وقت تک تیم کا حکم باقی اور برقرار رہے گا۔

ووجه ظاہر الروایة أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. ①

(۳۳) لَا قُدْرَةَ بِدُوْنِ الْعِلْمِ. ②

ترجمہ: بغیر علم کے قدرت حاصل نہیں ہوتی۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول کو ذکر کر کے حضرات طرفین کا مسلک ثابت کیا ہے اور اسے بطور دلیل کے ذکر کیا ہے۔

طرفین کے ہاں اگر مسافر پانی کجاوے میں رکھ کر بھول گیا اور تیم کر کے نماز پڑھ لی تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ پانی پر قادر ہونا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا اور اس کو علم بھی نہیں ہے اور اصول ہے کہ بغیر علم کے قدرت حاصل نہیں ہوتی، تو جب اس کو معلوم ہی نہیں تو قدرت نہ ہوئی اور جب قدرت نہیں تو اسے پانی حاصل بھی نہیں ہوا، اور پانی حاصل نہ ہونے کی

① حاشیۃ الطھطاوی علی مراقبی الفلاح: کتاب الطھارۃ، باب التیم، ج ۱ ص ۱۲۲، ط:

[دار الكتب العلمية]

وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَبِّتَ حَقِيقَةً فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ بِدُوْنِ الرِّجَاءِ لَا يُؤْخَرُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

[مجمع الأنہر: کتاب الطھارۃ، باب التیم، ج ۱ ص ۲۳، ط: دار إحياء التراث]

② الہدایہ: کتاب الطھارات، باب التیم، ج ۱ ص ۵۳، ط: رحمانیہ

صورت میں تیمّم جائز ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی تیمّم جائز اور نماز درست ہو جائے گی۔ ①

### (۲۵) إِنَّ الضررَ مُسْقطٌ.

ترجمہ: ضرر کو ساقط کر دیا گیا ہے۔

شرح: حاصل یہ ہے کہ اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو تو حکم یہ ہے کہ تیمّم کرنے سے قبل اس سے مانگنا ضروری ہے، اگر دیدے تو فہما ورنہ تیمّم کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر رفیق سفر پانی قیمتاً دیتا ہے اور مسافر شخص پانی لینے پر قادر ہے، تو اس کی تین صورتیں ہیں:

- ۱..... وہ مثل قیمت کے عوض فروخت کرے۔

۲..... غبن یسیر کے ساتھ فروخت کرے۔

۳..... غبن فاحش کے ساتھ فروخت کرے۔

پہلی دونوں صورتوں میں تیمّم جائز نہیں کیونکہ ان دونوں صورتوں میں وہ پانی لینے پر قادر ہے۔ البتہ تیسری صورت میں تیمّم جائز ہو گا، اسی تیسری صورت کی وجہ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے ذکر کی ہے کہ غبن فاحش برداشت کرنے میں اسے ضرر لاحق ہو گا، حالانکہ اصول ہے کہ ضرر ساقط کیا گیا ہے، اس لئے کہ مسلمان کا مال اسی طرح قابل احترام ہے جیسا کہ اس کی جان قابل احترام ہے اور جان کے سلسلہ میں ضرر ساقط ہے، لہذا مال کا ضرر بھی ساقط ہو گا، تو غبن

❶ (لا قدرة بدون العلم) فلا يَكُونُ واجدًا، والنَّصُ شرط عدم الوجود وهو القدرة أشار إليه بقوله:

(وهو المراد بالوجود) أي القدرة هي التي أريدت بالوجود في القرآن والحديث لأنَّه لم يرد

بقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا) عدم الماء حقيقة، وإنما المراد به لم تقدروا على استعمال الماء

فتيمموا، ألا ترى أن المريض يتيم مع وجود الماء حقيقة؛ لأنَّه غير قادر على استعماله.

[البنياية: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۶۳، ط: دار الكتب العلمية]

وَلَهُمَا اللَّهُ لَا قُدْرَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ، وَمَاءُ الرَّحْلِ مُعَذَّلٌ لِلنَّسْرَبِ لَا لِالاستِعْمَالِ.

[مجمع الأنهر: كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ۱ ص ۲۳، ط: داء إحياء التراث]

❷ الهدایہ: كتاب الطهارات، باب التيمم، ج ۱ ص ۵۳، ط: زمانیہ

فاحش کی صورت میں تیم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ①

## باب المسح على الخفين

(۲۶) إِنَّ مَا هُوَ مَعْدُولٌ عَنِ الْقِيَاسِ يُرَاغِي جَمِيعَ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ. ②

ترجمہ: جو چیز خلاف قیاس ہو تو جس حکم کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے اس کی پوری پوری رعایت کی جائے گی۔

شرح: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موزوں کے ظاہر پر مسح کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے موزوں کے باطن پر مسح کیا یا ایڑی یا پنڈل پر تو یہ جائز نہیں ہو گا، کیونکہ موزے پر مسح کرنا خلاف

❶ (وَلَوْ أَبَى أَنْ يُعْطِيهِ إِلَّا بِشَمَنِ الْمِثْلِ) هَذِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ إِمَّا أَنْ أَعْطَاهُ بِمِثْلٍ قِيمَتِهِ فِي أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَعْزُزُ فِيهَا الْمَاءُ، أَوْ بِالْغَيْنِ الْيَسِيرِ، أَوْ بِالْغَيْنِ الْفَاحِشِ. فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ التَّيْمُ لِتَحْقِيقِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْبَدْلِ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَاءِ فَيَمْتَنِعُ جَوَازُ التَّيْمِ، كَمَا أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى ثَمَنِ الرَّوْقَبَةِ تَمْنَعُ السَّكْفِيرَ بِالصُّومِ وَفِي الْوَجْهِ الْثَالِثِ جَازَ لَهُ التَّيْمُ لِرُجُودِ الضرَرِ، فَإِنْ حُرْمَةً مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ، وَالضَّرَرُ فِي النَّفْسِ مُسْقِطٌ فَكَذَا فِي الْمَالِ.

[العنایہ: کتاب الطهارۃ، باب التیم، ج ۱ ص ۱۳۲، ط: دار الفکر]

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجَهٍ إِمَّا إِنْ أَعْطَاهُ بِمِثْلٍ قِيمَتِهِ فِي أَقْرَبِ مَوْضِعٍ مِنِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَعْزُزُ فِيهَا الْمَاءُ أَوْ بِالْغَيْنِ الْيَسِيرِ أَوْ بِالْغَيْنِ الْفَاحِشِ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَا يُجْزِئُهُ التَّيْمُ لِتَحْقِيقِ الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْبَدْلِ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَاءِ كَالْقُدْرَةَ عَلَى ثَمَنِ الرَّوْقَبَةِ فِي الْكُفَّارَةِ تَمْنَعُ الصُّومَ وَفِي الْوَجْهِ الْثَالِثِ يَجُوزُ لَهُ التَّيْمُ لِرُجُودِ الضرَرِ، فَإِنْ حُرْمَةً مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ وَالضَّرَرُ فِي النَّفْسِ مُسْقِطٌ فَكَذَا فِي الْمَالِ كَذَا فِي الْعِنَایَةِ وَنَظِيرُهُ التُّوبُ النُّجُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ، فَإِنَّهُ يُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ التُّوبِ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ.

[البحر الرائق: کتاب الطهارۃ، باب التیم، ج ۱ ص ۱۷۱، ط: دار الكتاب الاسلامی]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ج ۱ ص ۵۶، ط: رحمانیہ

قیاس ہے اور اصول ہے کہ جو چیز خلافِ قیاس ہو تو جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس کی پوری رعایت کی جائے گی، موزے پر مسح کرنا خلافِ قیاس تھا لیکن جب اس پر شریعت وارد ہوئی ہے تو اس کی پوری پوری رعایت کی جائے گی، اور شریعت کا اور وہ چونکہ موزے کے ظاہر پر ہوا ہے اس لئے ظاہر پر مسح کرنا جائز ہو گا نہ کہ باطن پر، کیونکہ خلافِ قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق

**فَقَبْهُ ضَابطٌ هُوَ "مَا ثَبَّتَ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ" ①**

(۲) **إِنَّ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِدُونِهِ.** ②

ترجمہ: سفر کی رخصت بغیر سفر کے باقی نہیں رہتی۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مسافر مقیم ہو گیا اور اس نے مدتِ اقامت پوری کر لی تو اس کے لئے موزوں کو اتنا ضروری ہے، کیونکہ اصول ہے کہ سفر کی رخصت بغیر سفر کے باقی نہیں رہتی اور اب یہ مسافرنہیں رہا تو سفر کی رخصت ختم ہو گئی، لہذا اس صورت میں موزے اتنا کر کر پیروں کو وہوئے، کیونکہ اب یہ مقیم ہو چکا ہے اور اس کا سفر ختم ہو چکا ہے اور بدونِ سفر رخصت نہیں ملتی۔ ③

❶ (لَا نَهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ) إِذ الْقِيَاسُ أَلَا يَقُومُ الْمَسْحُ الَّذِي لَا يُبَيِّلُ النَّجَاسَةَ مَقَامَ الْغَسْلِ الَّذِي يُزِيلُهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُهُ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفْ أُولَى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِ، وَلَكِنَّ رَأَيَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْخُفْفِينَ دُونَ بَاطِنِهِمَا.

وَإِنَّمَا كَانَ الرَّأْيُ ذَلِكَ لَأَنَّ الْخُفْ يَلْاقِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ طِينٍ وَتُرَابٍ وَقَدْرٍ بِبَاطِنِهِ لَا بِظَاهِرِهِ، وَإِذَا كَانَ مَعْدُولاً بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ يُرَاعِي جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

[العنایہ: کتاب الطهارة، باب التیمم، ج ۱ ص ۱۳۹، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الطهارات، باب المسح علی الخفین، ج ۱ ص ۵۸، ط: زرمانیہ

❸ (ولو أقام وهو مسافر إن استكممل مدة الإقامة نزع لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه، وإن لم يستكممل أتمها؛ لأن هذا مدة الإقامة) وهي يوم وليلة مدة الإقامة (وهو مقيم) أى والحال أنه مقيم فيتمها.

[العنایہ: کتاب الطهارة، باب المسح علی الخفین، ج ۱ ص ۲۰۳، ط: دار الكتب العلمية]

## باب الحيض والاستحاضة

(۳۸) إِنْ تَقْدِيرَ الشُّرُعِ يَمْنَعُ إِلَحَاقَ غَيْرِهِ بِهِ۔ ①

ترجمہ: شریعت کی بیان کردہ مقدار (اندازہ شرعی) اپنے ساتھ دوسرے کے الحاق سے مانع ہوتی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کے ذریعہ اقل حیض اور اکثر حیض کی مدت کی تعین کی ہے کہ ہمارے نزدیک حیض کی اقل مدت تین دن اور اکثر مدت دس دن ہے، تین دن سے کم اور دس دن سے زائد جو خون ہو گا وہ استحاضہ کہلاتے گا، اسی کی وجہ موصوف نے اس اصول سے ذکر کی ہے کہ وہ استحاضہ کا خون اس لئے کہلاتے گا کیونکہ شریعت کا کسی چیز کو مقرر کرنا اس بات سے مانع ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز لاحق کی جائے، لہذا جو خون تقدیر شرع سے کم یا زائد ہو گا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہو گا، شریعت نے حیض کی اقل اور اکثر دونوں مدت متعین کر دی ہے، لہذا شریعت کی متعین کردہ مدت سے جو چیز بھی کم یا زائد ہو گی وہ متعین بشرع سے خارج ہو گی۔ ②

= (وَلَوْ أَقَامَ مُسَافِرٌ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً نَزَعَ، وَإِلَّا يُتْمِمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً) لَأَنْ رُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَى بِدُونِهِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الطهارة، باب المصح على الخفين، ج ۱ ص ۱۵، ط: دار الكتاب الاسلامي]

① الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الحيض والاستحاضة، ج ۱ ص ۲۰، ط: رحمانیہ

② (لأن تقدیر الشرع یمنع إلحاقي غيره به) أي غير تقدیر الشرع بتقدیر الشرع لأن العقل لا ابتداء له في المقاصد، ويقال: إن الدم الزائد والناقص إما أن يكون دم حيض، أو نفاس، أو استحاضة، فانتفي الأولان فتعين الثالث.

[البنيۃ: کتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ج ۱ ص ۲۳، ط: دار الكتب العلمية]

(قَوْلُهُ: فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ أُوْرَادُ اسْتِحَاضَةً) أي ما نقص من الأقل أو زاد على الأكثَر فهو استحاضة، لأن هذا الدم إما أن يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة فانتفي الأولان فتعين الثالث ولأن تقدیر الشرع یمنع إلحاقي غيره به.

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ج ۱ ص ۲۰۲، ط: دار الكتاب الاسلامي]

## باب الأنجاس وتطهيرها

(۳۹) إِنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ. ①

ترجمہ: بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ کے ذریعے حضرات شیخین کے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے نجاست کو زائل کرنا جائز ہے اور کن سے نہیں، چنانچہ شیخین کے نزدیک پانی اور ہرالیٰ چیز کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا جائز ہے جو بتی ہو، پاک ہو اور اس کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا ممکن بھی ہو، جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی، اور ہرالیٰ چیز سے جو نپوڑنے سے نچڑ جائے۔ اس مسئلہ کے ثبوت پر اصول کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ بہنے والی چیز قلع کرنے والی ہے یعنی نجاست کو اکھاڑ کر دور کر دیتی ہے، پانی نجاست کو دور کرتا ہے، پس جب یہ علت دوسری بہنے والی چیزوں میں موجود ہے تو پانی کی طرح یہ بھی پاک کرنے والی اور مزیل نجاست ہوں گی، لہذا پانی کی طرح ہر بہنے والی چیزوں سے نجاست کا زائل کرنا جائز ہے۔ ②

(۴۰) إِنَّ الشَّيْءَ إِذَا ثَبَتَ نَجَاسَةً بِذَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ تَكُونُ مُغَلَّظَةً. ③

ترجمہ: جب کسی چیز کی نجاست دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے تو وہ نجاست مغلاظہ ہوتی ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے نجاست مغلاظہ کی حقیقت کی وضاحت فرمار ہے ہیں

① الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الأنجلس وتطهيرها، ج ۱ ص ۲۹، ط: رحمانیہ

② (وَلَهُمَا أَنَّ الْمَائِعَ قَالِعٌ) ظَاهِرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ إِلَاشْتِرَاكَ فِي الْعِلْمِ يُوجِبُهُ فِي الْمَعْلُولِ وَالْمَاءُ مُطَهِّرٌ بِعِلْمِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةِ، وَهَذِهِ الْعِلْمُ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَلٌّ وَأَشْبَاهِهِ فَتَكُونُ مُطَهِّرَةً كَالْمَاءِ.

[العنایہ: کتاب الطهارة، باب الأنجلس وتطهيرها، ج ۱ ص ۱۹۲، ط: دار الفکر]

(قَوْلُهُ: وَبِمَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ) قِيَاسًا عَلَى إِذَا تَهَا بِالْمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ مَعْلُولَةٌ بِعِلْمِ كَوْنِهِ قَالِعًا لِتُلْكَ النَّجَاسَةِ وَالْمَائِعَ قَالِعٌ فَهُوَ مُحَصَّلٌ ذَلِكَ الْمُقْصُودُ فَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ.

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، باب الأنجلس وتطهيرها، ج ۱ ص ۲۳۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

③ الہدایہ: کتاب الطهارات، باب الأنجلس وتطهيرها، ج ۱ ص ۱۷، ط: رحمانیہ

کہ نجاست مغلظہ و نجاست ہے جس کا ثبوت ایسی نص سے ہو جس کے معارض دوسری نص طہارت کو ثابت کرنے والی نہ ہو، چنانچہ پیشاب، خون، شراب، مرغی کی بیٹ، اور گدھے کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ ان چیزوں کی نجاست دلیل قطعی سے ثابت ہے، جس کے معارض کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ اور اصول ہے کہ جب کسی چیز کا نجس ہو نا دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ نجاست مغلظہ ہوا کرتی ہے، لہذا ان مذکورہ تمام چیزوں کی نجاست بھی نجاست مغلظہ ہو گی۔ ①

(۱۵) إِنَّ تَعَارُضَ النَّصِّينِ فِي نَجَاسَةِ شَيْءٍ يُوْجِبُ التَّخْفِيفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى . ②

ترجمہ: جب کسی شی کی نجاست میں دونص باہم متعارض ہو جائیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔

تشریح: ماقبل میں صاحب ہدایہ نے نجاست غلیظہ کی وضاحت کی تھی اب یہاں سے نجاست خفیفہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر دونص باہم متعارض موجود ہوں کہ ایک نص نجاست ثابت کرتی ہو اور دوسری طہارت، تو تعارض نصین کی وجہ سے اس میں تخفیف پیدا ہو جائے گی، اس وقت یہ نجاست

① (وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ) يعني الأشياء المذكورة كالدم والبول والخمر ونحوها (مغلظة) يعني موصوفة بالتلギظ (لأنها) أى لأن هذه الأشياء أى نجاستها (ثبتت بدليل مقطوع فيه) أى بنص وارد فيه بلا معارضة نص آخر كالخمر مثلاً، فإن نجاسته بنص القرآن لقوله (رجس) أى نجس ولم يعارضه نص آخر.

[البنية: كتاب الطهارة، باب الأنجلاء وتطهيرها، ج ۱ ص ۷۲، ط: دار الكتب العلمية]  
 (وَالْكُلُّ) مِنْ الطَّلَاءِ وَالْمُنَصَّفِ وَالْبَادِقِ وَالسَّكِّرِ وَالنَّقِيعِ (حرام) لِحَدِيثِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَلَعْلَهُ لِإِخْلَالِهِ بِسَلَامَةِ الْعُقْلِ (وَحُرْمَتْهَا) أَى حُرْمَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ (دون) حُرْمَةِ (الخمر) فَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظَةٌ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ كَالبُولِ لِثُبُوتِ حُرْمَتْهَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ (وَنَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُخْتَلَفٌ فِي غُلْظَتِهَا وَخِفْتِهَا) فَإِنْ نَجَاسَتْهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ.

[مجمع الأئمہ: كتاب الطهارة، باب الأنجلاء وتطهيرها، ج ۱ ص ۵۰، ط: دار إحياء التراث]

② الهدایۃ: كتاب الطهارات، باب الأنجلاء وتطهيرها، ج ۱ ص ۷۲، ط: رحمانیہ

خفیفہ کھلائے گی، چنانچہ ماکول اللحم جانوروں اور گھوڑے کا پیشاب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خفیفہ ہے، کیونکہ ماکول اللحم جانوروں کے بول اور طہارت میں نصوص مختلف ہیں، اور اصول ہے کہ جب کسی نجاست میں دونص متعارض ہو جائیں تو وہ تخفیف کو پیدا کرتی ہے، لہذا یہاں پر بھی ماکول اللحم جانوروں کے بول میں اختلاف نصوص کی وجہ سے نجاست خفیفہ ہو گی نہ کہ غلیظہ۔ البتہ لید اور گو بر نجاست مغلاظہ ہے کیونکہ اس کے نجس ہونے پر نص موجود ہے ”هذا رُكْسٌ“، اس کے علاوہ کوئی نص اس کے معارض نہیں ہے جو اس کی طہارت پر دلالت کرے، اس لئے لید میں نجاست مغلاظہ ہو گی، کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عدم تعارض نصین کی صورت میں نجاست مغلاظہ ہوتی ہے۔ ①

① وعلى هذا الأصل الاختلاف بين أبي حنيفة رضي الله عنه و أصحابيه، فإن التغليظ عند أبي حنيفة يثبته بنص، فعلى نجاسته من غير معارضة نص آخر في طهارته، والتخفيف يثبت بمعارض النصين، وعندهما التغليظ يثبت بما وقع الإجماع على نجاسته، والتخفيف بما وقع الاختلاف. وفائدة الخلاف تظهر في مثل الروث، فعنه نجس مغلظ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن، ولم يعارضه غيره وعندهما: مخفف لأنه عند مالك رحمة الله ظاهر.

[البنيان: كتاب الطهارة، باب الأنجاس وتطهيرها، ج ۱ ص ۲۸۷، ط: دار الكتب العلمية]

كتاب الصلاة

باب الأذان

(٥٢) إِنْ تَكُرَارُ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ. ①

ترجمہ: اذان کا تکرار مشروع ہے لیکن اقامت کا تکرار مشروع نہیں ہے۔

شرط: صاحب ہدایہ نے اصول کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جنی شخص اگر اذان واقامت کہے تو اشبہ بالفقہ یہ ہے کہ جنی کی اذان کا اعادہ کیا جائے اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے، یونکہ اصول یہ ہے کہ اذان کے اندر فی الجملہ تکرار مشروع ہے، جیسے جمعہ میں اذان دو مرتبہ دی جاتی ہے لیکن اقامت میں تکرار مشروع نہیں، لہذا جنی کی اذان کا اعادہ تو کیا جائے گا لیکن اقامت کا نہیں۔ ۲

(٥٣) إِنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامٍ.

ترجمہ: اذان اطلاع دینے کے لئے ہوتی ہے۔

**شرط:** صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا صحیح نہیں ہے، اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دیدی تو وقت کے اندر اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، کیونکہ اصول ہے کہ اذان سے مقصود لوگوں کو دخول وقت نماز کی خبر دینا ہوتا ہے، یعنی اذان مخصوص اطلاع کے لئے ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے اذان دینے میں لوگوں کو

<sup>١</sup>الهداية: كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١ ص ٨٩، ط: رحمانية

٢ والأشبه أن يقال: يعاد أذان الجنب ولا تعاد إقامته لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في صلاة الجمعة، فاما تكرار الإقامة، فغير مشروع أصلا.

[المحيط البرهانى: كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر، ج ١ ص ٣٢٥، ط: دار الكتب العلمية]

قوله: (ويعاد الأذان خاصة) أي يستحب أن يعاد أذان الجنب خاصة، ولا تعاد إقامته، لأن

تكرار الأذان مشروع في الجمعة كما في الجمعة، وأما تكرار الإقامة فغير مشروع أصلاً.

[منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: كتاب الصلاة، ص ٩٥، ط: وزارة الأوقاف]

<sup>٢</sup>الهداية: كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١ ص ٩٠، ط: رحمانية

جہالت میں ڈالنا ہے، وہ سمجھیں گے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، اسی لئے وقت سے پہلے اذان دینا شرعاً معتبر نہیں ہے۔ ①

(۵۲) إِنَّ الْأَذَانَ لِلْإِسْتِحْضَارِ وَالْإِقَامَةِ لِإِعْلَامِ الْإِفْتَاحِ. ②

ترجمہ: اذان (غیر موجود) لوگوں کو حاضر کرنے کے لئے ہے اور اقامت نماز شروع ہونے کی اطلاع دینے کے لئے ہوتی ہے۔

شرح: مسافر کے لئے بہتر یہ ہے کہ اذان واقامت دونوں کہے۔ اگر مسافر نے اذان اور اقامت دونوں کو چھوڑ دیا تو یہ مکروہ ہے اور اگر مسافر صرف اقامت پر اکتفاء کرے اور اذان چھوڑ دے تو یہ جائز ہے گو خلاف اولی ہے۔ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ اذان کا مقصد غالب لوگوں کو اطلاع دینا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تاکہ وہ تیار ہو کر نماز کے لئے آجائیں اور چونکہ مسافر کے ساتھ اس کے رفقاء موجود ہیں اس لئے اذان کی ضرورت نہیں، اور اقامت کا مقصد چونکہ نماز شروع ہونے کی اطلاع دینا ہے اس لئے سب اس کے محتاج ہیں۔ ③

❶ (وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَادَةٍ قَبْلَ دُخُولِ (وَقْتِهَا) لَأَنَّهُ شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِالْوَقْتِ، وَفِي ذَلِكَ تَضْلِيلٌ وَلَمْ يَعْرَضْ لِلْإِقَامَةِ لَأَنَّ مَنْعَهُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فَإِنَّهَا بَعْدُ الْأَذَانِ.

[مجمع الأنہر: کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ۱ ص ۵۷، ط: دار إحياء التراث]

ولأن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فقبل الوقت يكون الأذان تجيئاً لا إعلاماً.

[المحيط البرهانی: کتاب الصلاة، الفصل السادس عشر، ج ۱ ص ۳۳۷، ط: دار الكتب العلمية]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ۱ ص ۹۰، ط: زرمانیہ

❸ لَأَنَّ الْأَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ وَالرُّفْقَةِ حَاضِرُونَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ افْتَاحِ الصَّلَاةِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ.

[الجوهرة النیرة: کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ۱ ص ۳۵، ط: المطبعة الخيرية]

(فإن تركهما جميعاً يكره) أى فإن ترك المسافر الأذان والإقامة جميعاً يكره تركه إياهما لمخالفة السنة (ولبو اكتفى بالإقامة جاز؛ لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح) أى لافتتاح الصلاة والشروع فيها (وهم) أى الرفة بضم الراء جمع رفيق.

## باب شروط الصلاة

(٥٥) إِنَّ الرُّبُعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ. ①

ترجمہ: چوتھائی حصہ پورے کی حکایت کرتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو حضرات طرفین کے مسلک پر بطور دلیل کے ذکر کیا ہے، حضرات طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک اگر آزاد عورت نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کی چوتھائی پنڈلی کھلی تھی تو اس پر نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، اور اگر چوتھائی سے کم کھلی ہو تو پھر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ پر صاحب ہدایہ نے یہ اصول نقل کیا ہے کہ بہت سے احکام میں چوتھائی کل کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے سر کے مسح میں چوتھائی سر پورے سر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح بحالت احرام چوتھائی سر کا حلق کل کے قائم مقام ہے۔ پس جب چوتھائی کو کل کا حکم حاصل ہے تو چوتھائی پنڈلی کھلنے سے یہی کہا جائے گا کہ گویا پوری پنڈلی کھل گئی ہے اور پوری پنڈلی کھلنے سے نماز کا اعادہ بالاتفاق واجب ہے، تو چوتھائی یہ بھی واجب ہوگا۔ ②

= (إِلَيْهِ مَحْتاجُونَ) أَىٰ إِلَى إِعْلَامِ الْافْتَاحِ يَحْتاجُونَ. وَرَوْىٰ عَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَسَافِرُ  
بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَذْنَ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَلَمْ يَؤْذِنْ وَالْقَوْمُ حَاضِرُونَ فِي السَّفَرِ بِخَلَافِ الْحَضْرِ لِأَنَّ  
النَّاسَ فِي الْمَصْرِ لَتَفَرِّقُهُمْ وَاسْتَغْفَالُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَكَابِسِ وَالْحُرْفِ لَا يَعْرِفُونَ وَقْتَ الصَّلَاةِ،  
وَفِي الْإِقَامَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسَافِرِ وَالْمَقِيمِ.

[البنيان: كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢ ص ١١٥ ، ط: دار الكتب العلمية]

<sup>١</sup> الهدایة: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ١ ص ٩٣، ط: رحمانیہ

٢) (إِنَّ الرُّبَعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ) يَعْنِي أَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ أَقِيمَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ  
مِنْ الْأَخْكَامِ، وَاسْتَعْمَالُ الْكَلَامِ كَمُسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي الْإِلَاحَرَامِ.

[العنابة: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ١ ص ٢٦٠، ط: دار الفكر]

(إنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتباراً بالحلق) أي قياساً على حلق ربع الرأس، فإن فيه دماً فكذلك في تطيب ربع العضو، لأن الربع يحكي حكاية الكل.

[البنياية: كتاب الحج، باب الجنایات في الحج، ج ٢ ص ٣٢٦، ط: دار الكتب العلمية] =

فَإِنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْكُثْرَةِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقْلَ مِنْهُ۔ ①

ترجمہ: کسی چیز کو اس وقت کثرت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے جب اس کا مقابل اس سے کم ہو۔  
 تشریح: صاحب ہدایہ نے اس اصول کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مسلک پر بطور دلیل کے ذکر کیا ہے۔ ماقبل میں اصول گزر اکہ حضرات طرفین کے نزدیک اگر عورت نے نماز پڑھی اس حال میں کہ اس کی چوتھائی پنڈلی کھلی تھی تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس عورت کی پنڈلی نصف سے کم کھلی ہو تو اس پر اعادہ واجب نہیں، کیونکہ شی کثرت کے ساتھ اسی وقت منصف ہو سکتی ہے جب اس کا مقابل اس سے کمتر ہو، یعنی نصف سے کم کثیر نہیں ہے بلکہ قلیل ہے اور قلیل مقدار کے کھلنے سے نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوتا، لہذا اگر نصف سے کم کھلی ہو تو نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ ②

= (وَإِنْ قَصْ يَدًا أَوْ رِجْلًا) أَى وَإِنْ قَصَ الْمُحْرَمَ أَظَافِيرَ رِجْلٍ وَاحِدَةً (فَعَلَيْهِ دَمٌ، إِقَامَةٌ لِلرَّبِيعِ مَقَامٌ الْكُلُّ كَمَا فِي الْحَلْقِ) أَى كَمَا إِذَا حَلَقَ رَبِيعَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ، لَأَنَّ الرَّبِيعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُلِّ.

[البنيان: كتاب الحج، باب الجنایات في الحج، ج ۲ ص ۳۲۲، ط: دار الكتب العلمية]

❶ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۳، ط: رحمانیہ

❷ إِعْلَمُ أَنَّ أَصْحَابَنَا تَفَقَّوْا عَلَى أَنْ قَلِيلَ الْأُكْشَافِ مَعْفُوٌ وَكَثِيرَهُ لَيْسَ بِمَعْفُوٍ وَاحْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو حَيْفَةَ وَمُحَمَّدُ الرُّبِيعُ كَثِيرٌ وَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ۔ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا دُونَ النِّصْفِ قَلِيلٌ لَأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُوصَفُ بِالْكُثْرَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقْلَ مِنْهُ، لَأَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابِلَةِ يُرِيدُ بِهِ تَقَابُلُ التَّضَاعِيفِ، وَالِإِضَافَةُ هِيَّةٌ تَكُونُ مَاهِيَّتُهَا مَعْفُولَةً بِالْقِيَاسِ إِلَى هِيَّةٍ أُخْرَى تَكُونُ مَاهِيَّتُهَا مَعْفُولَةً بِالْقِيَاسِ إِلَى هِيَّةٍ أُولَى كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُوَّةِ،

[البنيان: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۲۲۰، ط: دار الفكر]

(وَكَشْفُ رُبِيعِ سَاقِهَا يَمْنَعُ) یعنی جواز الصلاة لأن ربع الشيء يحکی حکایة الکل کما في حلق الرأس في الإحرام حتى يصير به حلالا في أوانيه ويلزمه الدم قبله، وعند أبي يوسف يعتبر انکشاف الاکثر، لأن الشيء إنما يوصف بالکثرة إذا كان ما يقابل له أقل منه.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۶، ط: دار الكتاب الاسلامی]

(۵) إِنَّ رُبُعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ . ①

ترجمہ: شیء کا چوتھائی حصہ کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول ہذا سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس نجس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا موجود نہ ہو اور ایسی چیز بھی موجود نہیں کہ جس سے نجاست کو زائل کیا جاسکے تو اس کے لئے اس نجس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ اس وقت ہے جب چوتھائی کپڑا یا اس سے زائد پاک ہو اور اگر اس نے برہنہ ہو کر نماز پڑھی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے کہ چوتھائی کل کے مرتبہ میں ہوتا ہے، پس چوتھائی کپڑے کا پاک ہونا گویا کل کا پاک ہونا ہے اور پاک کپڑے کو چھوڑ کر برہنہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ②

(۵۸) إِنَّ تَرْكَ الشَّيْءِ إِلَى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا . ③

ترجمہ: کسی چیز کا ترک (اس طور پر کہ) اس کا غلیفہ موجود ہے تو یہ ترک نہیں ہو گا۔

تشریح: ماقبل میں یہ اصول ذکر ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس نجس کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس سے نجاست کو زائل کیا جاسکے تو وہ اسی نجس کپڑے میں نماز پڑھے، پھر اس کی دو صورتیں ذکر کیں، ایک یہ کہ اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زائد پاک ہو تو اس میں

❶ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۳، ط: رحمانیہ

❷ (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُرِيدُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِظُّهُ) هَذَا عَلَى وَجْهِينِ إِنْ كَانَ رُبُعُ الشُّوُبِ فَصَاعِدًا طَاهِرًا يُصَلِّى فِيهِ صَلَّى عُرُبَيَّا لَا تَجُوزُ صَلَاةُ لَأَنَّ رُبُعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقْلَى مِنْ الرُّبُعِ فَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ يُصَلِّى فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّى عُرُبَيَّا وَعِنْدَهُمَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّى عُرُبَيَّا أَوْ فِيهِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۷۲، ط: المطبعة الخيرية]

(وَلَوْ وَجَدَ ثُوَبًا رُبْعَةً طَاهِرًا وَصَلَّى عَارِيًّا لَا يُجْزِيهِ) لَأَنَّ رُبُعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ فَيُجْعَلُ كَانَ كُلُّهُ طَاهِرٌ فِي مَوْضِعِ الْضُّرُورَةِ فَسُفْرَاضٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِيهِ.

[مجمع الأئمہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۸۲، ط: دار إحياء التراث]

❸ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۳، ط: رحمانیہ

نماز پڑھے اس لئے کہ چوتھائی کل کے قائم مقام ہے جیسا کہ ماقبل میں ذکر ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہو، صاحب ہدایہ اسی دوسری صورت کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہو تو اس میں اختلاف ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اسی بخش کپڑے میں نماز پڑھنا واجب ہے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ بخش کپڑے میں نماز پڑھنے سے ایک فرض کو ترک کرنا لازم آتا ہے، یعنی طہارتِ ثوب کو ترک کرنا لازم آئے گا، اور اگر برہنہ ہو کر نماز پڑھے تو کئی فرضوں کا ترک کرنا لازم آئے گا، مثلاً ستر عورت کے علاوہ قیام، رکوع اور سجود وغیرہ، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایک فرض کو ترک کرنا اولی ہے بسبت چند فرائض ترک کرنے کے، اس لئے اسی بخش کپڑے میں نماز پڑھنا واجب ہے، بخلاف حضرات شیخین کے، ان کے نزدیک اس شخص کو اختیار ہے چاہے برہنہ ہو کر نماز پڑھے یا اسی کپڑے میں پڑھے، البتہ اس بخش کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس لئے کہ ستر نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں واجب ہے، جبکہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔

صاحب ہدایہ کا مقصود اصول مذکورہ سے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دینا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ برہنہ نماز پڑھنے کی صورت میں چند فرضوں کا ترک کرنا لازم آئے گا تو اس کا جواب اس اصول سے دے رہے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح چھوڑنا کہ اس کا خلیفہ موجود ہے اس کو چھوڑنا نہیں کہا جاتا اور یہاں پر یہی بات ہے، کیونکہ برہنہ ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں اگر قیام، رکوع اور سجود وغیرہ کا ترک لازم آتا ہے مگر اس کا خلیفہ یعنی اشارہ موجود ہے، لہذا جب اس کا خلیفہ موجود ہے تو یہ ترک نہیں ہوگا، برہنہ نماز پڑھنے والا اگر قیام وغیرہ کو ترک کرتا ہے تو اس کے نائب یعنی ایماء اور اشارے پر عمل کرتا ہے، اس لئے یہاں بھی صرف ایک ہی فرض کا ترک ہے نہ کہ بہت سے فرائض کا۔ ①

① (فیستویان فی حکم الصلاة) فیکون مخیرا بین الصلاة فی ذلک الشوب و بین الصلاة

عریانا (وترک الشیء إلى خلف لا يكون تركا) هذا جواب عما قاله محمد أن في =

(۵۹) إِنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسْبِ الْوُسْعِ ①

ترجمہ: حسب طاقت، ہی مکلف بنایا جاتا ہے۔

شرح: استقبال قبلہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، پھر نمازی کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرے گا یا مکہ مکرمہ سے باہر کسی دوسری جگہ نماز ادا کرے گا، پس پہلی صورت میں عین کعبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے، اور دوسری صورت میں جہت کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا نہ کہ عین کعبہ کی طرف، اس سے واضح ہوا کہ جو شخص مکہ سے باہر ہو اس کے لئے عین کعبہ کو قبلہ بنانا لازم نہیں، کیونکہ اصول ہے کہ تکلیف طاقت کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بقدر طاقت، ہی مکلف بناتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“، لہذا جو شخص مکہ سے باہر ہوا اس کے لئے سمیت قبلہ کی طرف رخ کرنا کافی ہے۔ ②

= ترك الصلاة عارياً ترك الفروض، يعني لا نسلم أن فيها ترکا لوجود الخلف وهو الإيماء.

[البنيان: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۲ ص ۱۳۶، ط: دار الكتب العلمية]

إِذَا كَتَانَ الطَّاهِرُ أَقْلَى مِنْ الرُّبُعِ يُخَيِّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِتِيَانِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَرِّ الْعُورَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي غُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِيًّا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يَلِيلُ الْأَوَّلَ فِي الْفَضْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَرِّ الْعُورَةِ الْغَلِيلَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا غُرْيَانًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَهُوَ ذُونَهُمَا فِي الْفَضْلِ.

[تبیین الحقائق: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۸، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❶ الہدایہ: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۷، ط: زرمانیہ

❷ الْوَاجِبُ فِي حَقٍّ مَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ مَكَّةَ التَّوْجِهِ إِلَى الْجِهَةِ لَأَنَّ ذَلِكَ فِي وُسْعِهِ، وَالتَّكْلِيفُ بِحَسْبِ الْوُسْعِ. وَمَعْرِفَةُ الْجِهَةِ إِمَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ بِالْتَّحْرِيِّ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْأَدِلَّةِ.

[المبسوط للسرخسی: كتاب التحری، ج ۱ ص ۱۹۰، ط: دار المعرفة]

فکل من کان بحضورۃ الکعبۃ یجب علیہإصابة عینہا، ومن کان نائیاً عنہا ففرضہ جهة الکعبۃ لا عینہا، وهذا قول الشیخ أبي الحسن الکرخی والشیخ أبي بکر الرازی رحمہم اللہ لآنہ ليس في وسعة سوى هذا، والتکلیف بحسب الوسع.

[المحيط الرهانی: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ج ۱ ص ۲۸۳، ط: دار الكتب العلمية]

(۶۰) إِنَّ الْإِسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحْرِيٍّ. ①

ترجمہ: دریافت کرنا تحری سے بڑھ کر ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہ رہے ہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوئی شخص موجود نہ ہو جس سے جہت قبلہ دریافت کیا جا سکے تو اس شخص کو اجتہاد اور تحری کرنی چاہئے، پس جس طرف جہت قبلہ ہونے کا غالب گمان ہواں طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص جہت قبلہ بتانے والا موجود ہے تو اس سے دریافت کرے، اس صورت میں اس کے لئے تحری کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے ذکر کی ہے کہ تحری اس لئے جائز نہیں کہ دلیل ظاہر پر عمل اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہ اس سے بڑھ کر دلیل موجود نہ ہو، اور دریافت کرنا تحری سے بڑھ کر ہے، لہذا جب تک دریافت کرنا ممکن ہواں وقت تک تحری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ②

(۶۱) إِنَّ الْعَمَلَ بِالْإِجْتِهَادِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدَّى قَبْلَهُ. ③

① الہدایہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۶، ط: رحمانیہ

② وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِبْلَةُ الْمُتَحَرِّي جِهَةُ قَصْدِهِ؛ وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الطَّاهِرِ وَاجِبٌ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ هَذَا إِذَا أَذَالَمْ يَكُنْ بِحَضُورِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَضُورِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَكَانِ عَالِمٌ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحْرِيٌّ؛ لَأَنَّ إِسْتِخْبَارَ فَوْقَ التَّحْرِيٍّ لِكُوْنِ الْخَبَرِ مُلْزِمًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَالْتَّحْرِي مُلْزِمٌ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْأَدْنَى مَعَ إِمْكَانِ الْأَعْلَى وَلَا يَجُوزُ التَّحْرِي مَعَ الْمَحَايِبِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۱۰۱، ط: دار الكتاب الاسلامی]  
لَوْ قَدَرَ عَلَى تَعْرِفِ الْقِبْلَةِ بِالسُّؤَالِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْقِبْلَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحْرِيٌّ لَأَنَّ إِسْتِخْبَارَ فَوْقَهُ لِكُوْنِ الْخَبَرِ مُلْزِمًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَالْتَّحْرِي مُلْزِمٌ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْأَدْنَى مَعَ إِمْكَانِ الْأَعْلَى.

[البحر الرائق: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۳۰۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ۱ ص ۹۶، ط: رحمانیہ

ترجمہ: آئندہ (حصہ نماز) میں اس شخص پر اجتہاد کی رو سے عمل کرنا واجب ہے، اس حصہ کو توڑے بغیر جسے اس نے پہلے ادا کیا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تحری کر کے نماز شروع کی اور اس کو نماز کے دوران معلوم ہوا کہ میں نے جہت قبلہ میں خطا کی ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ اسی طرح یہ حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ نماز میں اس کی رائے کسی دوسری طرف بدل گئی اور کسی دوسری سمت قبلہ ہونے پر اس کی رائے جم گئی تو اس شخص کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز میں گھوم جائے اور جو دوسری رائے بنی ہے اس کے مطابق نماز پوری کرے۔ اگر اس نے گھومنے میں عمدًا کچھ تاخیر کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی وجہ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے ذکر کی کہ اس صورت میں آئندہ نماز میں اُس پر اجتہاد کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، بغیر اس حصہ کو توڑے جس کو اس نے پہلے ادا کیا ہے۔ ①

❶ (مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدِّيِ قَبْلَهُ) لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ دَلِيلَ الْاجْتِهَادِ بِمِنْزِلَةِ دَلِيلِ النَّسْخِ، وَأَثْرُ النَّسْخِ يَظْهَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي.

[العنایہ: کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ، ج ۱ ص ۲۷۳، ط: دار الفکر]

إِذَا صَلَّى بِالْتَّحَرِّى إِلَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ بِأَنْ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى جِهَةٍ ثُمَّ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَصَلَّى رَكْعَةً إِلَيْهَا هَكَذَا جَازَ، لَانَّ هُنَاكَ لَمْ يُوجِدُ الْإِنْجِرَافَ عَنِ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ، لَانَّ الْجِهَةَ الَّتِي تَحَرَّى إِلَيْهَا مَا صَارَتْ قِبْلَةً لَهُ بِيَقِينٍ بَلْ بِطَرِيقِ الْاجْتِهَادِ، فَحِينَ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى صَارَتْ قِبْلَةً هَذِهِ الْجِهَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَمْ يُطْلُ مَا أَدْى بِالْاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ، لَانَّ مَا أَمْضَى بِالْاجْتِهَادِ لَا يُنْفَضُ بِالْاجْتِهَادِ مِثْلِهِ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاۃ، شرائط أركان الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۲۱، ط: دار الكتب العلمية]

## باب صفة الصلاة

(۲۲) إِنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ السُّنَّةِ عَلَى مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ. ①

ترجمہ: کسی چیز کو سنت کا نام دینا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہوا ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ کا مقصود اس اصول سے یہ بیان کرنا ہے کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فرائض کے علاوہ سب چیزیں سنت ہیں، حالانکہ اس میں واجبات بھی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا اور جو افعال ایک رکعت میں مکرر مشروع ہوئے ہیں ان میں ترتیب کی رعایت رکھنا بھی واجب ہے، تو موصوف اس اصول کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کسی واجب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔ ②

(۲۳) إِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ. ③

ترجمہ: عطف مغایریت کا تقاضا کرتا ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اس اصول کو احناف کے مسلک پر بطور دلیل کے ذکر کیا ہے، حضرات احناف کے نزدیک تکبیر تحریک یہ شرط ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رکن ہے۔ اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے مصنف نے اصول کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى“، اس میں نماز کا عطف ”وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ“، یعنی تکبیر تحریک پر کیا گیا ہے اور اصول ہے کہ عطف مغایریت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۹۷، ط: رحمانیہ

② وَفِي الْغَایَةِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَفِي الْمُفِيدِ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ وَتَسْمِيهَا سُنَّةً لِوُجُوبِهَا بِالسُّنَّةِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاۃ، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]  
وَإِطْلَاقُ اسْمِ السُّنَّةِ عَلَى الْوَاجِبِ جَائِزٌ لَأَنَّ السُّنَّةَ عِبَارَةٌ عَنِ الظَّرِيقَةِ الْمُرُضِيَّةِ أَوْ السِّيرَةِ الْحَسَنَةِ، وَكُلُّ وَاجِبٍ هَذَا صِفَةٌ.

[رد المحتار: کتاب الصلاۃ، باب العیدین، ج ۱ ص ۲۸۲، ط: دار الفکر]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۹۸، ط: رحمانیہ

تغایر ضروری ہے، پس اگر تکبیر تحریمہ کو رکن مانا جائے تو کل کا عطف جزء پر لازم آئے گا اور چونکہ کل اس جزء کو بھی شامل ہے اس لئے عطف اشیٰ علی نفسہ لازم آئے گا اور یہ درست نہیں، اس لئے ہم نے کہا کہ تکبیر تحریمہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے اور شرط اشیٰ علی سے خارج ہوتی ہے اس لئے تکبیر تحریمہ اور نماز کے درمیان تغایر ہو گا اور عطف درست ہو گا، پس ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے نہ کہ رکن۔ ①

### (۶۲) إِنَّ النُّفْيَ مُقَدْمٌ عَلَى الِإِثْبَاتِ.

ترجمہ: نفی اثبات پر مقدم ہوتی ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھانا چاہئے، پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے پھر تکبیر کی جائے، اس لئے کہ نمازی کے فعل میں نفی اور اس کے قول میں اثبات کے معنی ہیں، اس طور پر کہ جب یہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو غیر اللہ سے کبریائی کی نفی کرتا ہے، اور جب ”اللہ اکبر“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کبریائی ثابت کرتا ہے اور اصول ہے کہ نفی اثبات پر مقدم ہوتی ہے، جیسے کلمہ شہادت میں نفی مقدم ہے، اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں پھر تکبیر کی جائے۔ ②

### ١٤ إِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتُ التَّحْرِيمَةُ رُكْنًا لَا يَسْتَحِقُ الْمُغَايِرَةَ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاة، شرائط أركان الصلاة، ج ۱ ص ۱۱۲، ط: دار الكتب العلمية]  
(ولَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) عَطْفُ الصَّلَاةَ عَلَى الذِّكْرِ، وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَّا جَازَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُلْزِمُ عَطْفَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ، وَفِيهِ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لَا شِتْمَالُ الْكُلِّ عَلَى جُزْئِهِ (ولهذا) أَىٰ وَلَأَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ (وَلَا تَتَكَرَّرُ تَكَرُّرُ الْأَرْكَانِ) فِي كُلِّ صَلَاةٍ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

[العناية: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۸۰، ط: دار الفكر]

### ١٥ الْهَدَايَةُ: كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ صَفَةِ الصَّلَاةِ، ج ۱ ص ۹۸، ط: زَهْمَانِيَّة

١٥ لِأَنَّ الرَّفْعَ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ كَانَهُ نَبَذَ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَالْيَدُ الْيُمْنَى كَالآخِرَةِ وَالْيَسَرَى كَالدُّنْيَا، وَلَأَنَّ فِي الرَّفْعِ نَفْيَ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ، وَقَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ إِثْبَاتٍ =

● (۲۵) إِنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصْمَمِ ①

ترجمہ: ہاتھ اٹھانا بہرے آدمی کو (نماز کی) اطلاع دینے کے لئے ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک تکبیر تحریم کے وقت دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا جائے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لوکے مقابل ہو جائیں، اس کو ثابت کرنے کے لئے موصوف نے اصول کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ تکبیر تحریم کے وقت ہاتھ اٹھانا بہرے شخص کو نماز شروع ہونے کی اطلاع دینے کے لئے ہے، اور یہ اطلاع اسی طریقہ کے ساتھ ہو گی جو ذکر کی جا چکی ہے یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے ساتھ، کیونکہ جب امام کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا تو بہرہ آدمی جان لے گا کہ تکبیر کی گئی ہے، لہذا وہ خود بھی تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دے گا۔ ②

● (۲۶) إِنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لِغَةً ③

ترجمہ: تکبیر لغت میں تعظیم کا نام ہے۔

= الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ تَعَالَى وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ عَلَى الِإِثْبَاتِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۵۰، ط: المطبعة الخيرية]  
يقدم رفع اليدين على التكبير، لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرباء عن غير الله تعالى، والتکبير إثباتها له، والنفي مقدم على الإثبات

[منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: كتاب الصلاة، ص ۱۲۵، ط: وزارة الأوقاف مصرف]

① الهدایۃ: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۹۹، ط: رحمانیہ

② أَنَّ حَلْفَ الْإِمَامِ أَعْمَى وَأَصْمَمُ فَأَمَرَ بِالْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِيُسْمَعَ الْأَعْمَى وَبِرَفْعِ الْيَدَيْنِ لِيَرَى الْأَصْمَمُ فَيَعْلَمُ دُخُولَهُ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى أَذْنَيْهِ.

[المبسوط للسرخسی: كتاب الصلاة، كيفية الدخول في الصلاة، ج ۱ ص ۱۲، ط: دار المعرفة]  
وَلَأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ إِعْلَامُ الْأَصْمَمِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالرَّفْعِ فَيُرْفَعُ كَتْبِيَّةُ الْإِفْسَاحِ وَتَكْبِيرَاتُ الْقُنُوتِ بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ، لَأَنَّهُ يُؤْتَى بِهِمَا فِي حَالِ الْإِنْتِقَالِ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالرُّؤُيَّةِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى رَفْعِ الْيَدِ لِإِعْلَامِ

[بدائع الصنائع: كتاب الصلاة، صلاة العيدین، ج ۱ ص ۲۷۷، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایۃ: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۹۹، ط: رحمانیہ

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے حضراتِ طرفین رحمہما اللہ کے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں کہ طرفین کے نزدیک ہر اس لفظ سے نماز شروع کرنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرے، خواہ ”اللہ اکبر“ ہو یا ”اللہ الکبیر“ یا ”اللہ اجل“ یا ”اللہ اعظم“ یا ”الرحمٰن اکبر“ وغیرہ میں سے کسی سے شروع کیا جائے سب جائز ہے، یعنی ان تمام الفاظ سے نماز کو شروع کرنا جائز ہے کیونکہ اصول ہے کہ لغت میں تکبیر کے معنی تعظیم کے ہیں، باری تعالیٰ کا قول ہے ”وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ“ اس سے تعظیم مراد ہے، اس لئے ہر اس لفظ سے نماز شروع کرنا جائز ہے جو مشعر بالتعظیم ہو، اور تعظیم کے معنی مذکورہ بالاتمام الفاظ سے حاصل ہوتے ہیں، اس لئے ان سے اور ان جیسے دیگر مشعر بالتعظیم کلمات سے نماز شروع کرنا درست ہے۔ ①

❶ (أن التكبير هو التعظيم لغة) أى من حيث اللغة، كما في قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَيْهُ أَكْبَرُنَّهُ) أى عظمته (وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ) أى فعظم، فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشرع به، ولأن التكبير ما وجب بعينه حتى يقتصر على لغة أكبر، بل الواجب تعظيم الله تعالى بجميع البدن واللسان، فصرفناه إلى جميع الألفاظ الدالة على الثناء والتعظيم لله تعالى، والأصل في خطاب الشرع أن يكون مفهوما معلوما مقبولا، والبقية على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول، وقال تعالى: (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وذكر اسم أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن، فجاز الرحمن أعظم، كما جاز الله أكبر لأنهما في كونهما ذكر اسواء، قال تعالى: (وَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) فأى اسم من أسمائه افتح الصلاة به جاز.

[البنيان: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲ ص ۱۷۵، ط: دار الكتب العلمية]

ولا يشترط عند أبي حيفه رضي الله عنه تعين لفظة التكبير حتى لو قال: بدلًا منه الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله جاز لأن التكبير هو التعظيم لغة قال الله تعالى: فَلَمَّا رَأَيْهُ أَكْبَرُنَّهُ، أى عظمته وقال: وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ، أى فعظم والتعظيم حاصل بقوله الله أعظم ولأن الركن ذكر الله على وجه التعظيم وهو الثابت بالنص قال الله تعالى: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وإذا قال: الله أعظم فقد وجد ما هو الركن وأما لفظ التكبير فثبت في الخبر فيعمل به حتى يكره غيره لمن يحسنها ولكن الركن ما هو الثابت بالنص ثم من قال: الرحمن أكبر فقد أتى بالتكبير قال الله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ.

[الغرة المنيفة: كتاب الصلاة، ص ۳۶، ط: مؤسسة الكتب]

(۲۷) إِنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. ①

ترجمہ: عربی زبان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے جو دوسری زبان کو حاصل نہیں ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے حضرات صاحبین کے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں نماز میں تکبیر اور قرات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فارسی زبان میں نماز شروع کرنا اور نماز کے اندر فارسی میں قرات کرنا، ذیجہ پر فارسی زبان میں تسمیہ کہنا جائز ہے، خواہ عربی زبان پر قدرت ہو یا نہ ہو۔

صاحبین کے نزدیک اگر عربی زبان پر قدرت حاصل ہو تو فارسی زبان میں ادا کرنا جائز نہیں ہے، البتہ صرف ذیجہ پر ہر زبان میں تسمیہ جائز ہے۔ موصوف نے صاحبین کے مسلک کو ثابت کرنے کے لئے اصول کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے جو کسی اور زبان کو حاصل نہیں، تو اس لئے عربی پر قادر ہونے کی صورت میں غیر عربی میں تکبیر و قرات کرنا ناجائز ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں رجوع ثابت ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ②

(۲۸) إِنِّي فِي الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ. ③

❶ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۰۰، ط: رحمانیہ

❷ وَقُولُهُ: (وَيُرَوَى رُجُوعُهُ) رَوَى أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا (وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْإِجْمَاعِ).

[العنایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۲۸۲، ط: دار الفکر] وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ إِلَّا بِعُذْرٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَبِهِ يُفْتَنُ. هَكَذَا فِي شَرِحِ النُّقَايَا لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَبِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيُرَوَى رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ. هَكَذَا فِي الہدایہ وَفِي الْأَسْرَارِ هُوَ اخْتِيَارٍ وَفِي التَّحْقِيقِ هُوَ مُخْتَارٌ عَامَةُ الْمُحَقِّقِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي شَرِحِ النُّقَايَا لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ وَهُوَ الْأَصْحُ. هَكَذَا فِي مَجْمِعِ الْبَحْرَيْنِ.

[الفتاویٰ الہندیہ: کتاب الصلاۃ، الباب الرابع، ج ۱ ص ۷، ط: دار الفکر]

❸ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۰۰، ط: رحمانیہ

ترجمہ: اذان میں عرف کا اعتبار ہے۔

شرح: ماقبل میں تکبیر کا مسئلہ تھا کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہاں اذان کے مسئلہ کا ذکر ہے کہ اذان اگر فارسی زبان میں دی جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ موصوف نے اصول ذکر کیا کہ اذان میں تعارف کا اعتبار ہے، بسیط میں مذکور ہے کہ حسن بن زیاد نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اگر فارسی زبان میں اذان دی گئی اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ اذان ہے تو جائز ہے، کیونکہ اصول ہے کہ عرف اذان میں معتبر ہے، جب لوگوں کے ہاتھ میں تعارف ہے کہ یہ اذان ہے تو یہ کافی ہے، اس لئے فارسی میں اذان جائز ہے، اور اگر لوگ اس کے اذان ہونے سے واقف نہ ہوں تو جائز نہیں ہے، اس لئے کہ مقصود اذان سے لوگوں کو خبر دینا ہے اور لوگوں کے نہ جاننے کی صورت میں یہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ افضل یہی ہے کہ اذان عربی زبان میں ہو اور انہی کلمات کے ساتھ ہو جو راجح ہیں، لیکن اگر کسی جگہ غیر عربی میں اذان دینے کا رواج ہو اور لوگ غیر عربی میں ادا کئے گئے کلمات سے اذان کو سمجھ لیتے ہوں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اذان کا مقصد اعلام اور اطلاع ہے اور عرف کے اعتبار سے ہر جگہ کے اعلان میں فرق ہوتا ہے۔ ①

(۶۹) إِنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يُعْتَمَدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا.

ترجمہ: ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو تو اس میں ہاتھ باندھے، اور جس قیام میں ذکر مسنون نہ ہو تو اس میں ہاتھ نہ باندھے۔

شرح: ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو اور دورانِ قیام کچھ پڑھنا مشروع ہو تو اس

① (وَفِي الْأَذَانِ يُعْتَبَرُ التَّعَارُفُ) قِيلَ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ لِكُوْنِهَا رُكْنًا أَعْظَمُ خَطَرًا مِنِ الْأَذَانِ لِكُوْنِهِ سُنَّةً، وَالْأَذَانُ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ الْعُرَبِيِّ فَكَيْفَ جَازَتْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ؟ وَوَجْهُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ جَوَازِ الْأَذَانِ مُطْلَقاً بِلَيُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَارُفُ، فَإِنَّ الْحَسَنَ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ أَذْنَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَذَانٌ جَازَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَسْرَارِ.

[العنایة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۸۲، ط: دار الفکر]

② الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۱۰۱، ط: زرجمانیہ

میں ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اور وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون نہ ہواں میں ہاتھ کھلے چھوڑیں گے، لہذا اس اصول کے پیش نظر و تر میں دعائے قنوت کے وقت اور نماز جنازہ کی حالت میں ہاتھ باندھے جائیں گے، کیونکہ ان میں ذکر مسنون و مشروع ہے، و تر میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے اور نمازِ جنازہ میں ثناء، درود اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ قومہ اور تکبیراتِ عیدین میں چونکہ کوئی خاص ذکر مسنون نہیں ہے اس لئے ان حالتوں میں ارسال مسنون ہوگا۔ ①

(۷) إِنَّ التَّعْوُذَ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ دُونَ الشَّاءِ عِنْدَ الْطَّرَفَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

ترجمہ: حضراتِ طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک تعوذ قرات کے تابع ہے نہ کہ ثناء کے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضراتِ طرفین کے نزدیک جس شخص پر قرات واجب ہوگی اس کے لئے تعوذ پڑھنا بھی مسنون ہوگا، مثلاً مسبوق پر قرات واجب ہے تو اس کے لئے قرات سے پہلے تعوذ پڑھنا مسنون ہوگا۔ مدرک پر قرات واجب نہیں ہے اس لئے تعوذ پڑھنا بھی مسنون نہیں ہے۔ ②

❶ أَنْ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَالسُّنْنَةُ فِيهِ الْأَعْيَادُ كَمَا فِي حَالَةِ الشَّاءِ وَالْقُنُوتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَكُلُّ قِيَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَالسُّنْنَةُ فِيهِ الْإِرْسَالُ فِي رِسْلِ فِي الْقَوْمَةِ عَنِ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ، وَبِهِ كَانَ يُقْتَى شَمْسُ الْأَئمَّةِ السَّرَّاحِيُّ وَبُرْهَانُ الْأَئمَّةِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ.

[العنایہ: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۸۸، ط: دار الفکر]

والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا، هو الصحيح؛ فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيران الأعياد.

[اللباب في شرح الكتاب: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ص ۲۷، ط: المكتبة العلمية]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۱۰۲، ط: رحمائیہ

❸ (فَيَأْتِيَ بِهِ الْمَسْبُوقُ عِنْدَ قَضَاءِ مَا سَبَقَ) لَأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي تَعْوُذٍ (لَا الْمُقْتَدِي) أَى لَا يَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي لَأَنَّهُ يُشْنِي، وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يَتَعْوُذُ.

[مجمع الأنہر: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۹۵، ط: دار إحياء التراث]

ثُمَّ التَّعْوُذُ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ دُونَ الشَّاءِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ إِذَا قَامَ إِلَى الْقَضَاءِ دُونَ الْمُقْتَدِي.

[الفتاوی الہندیہ: کتاب الصلاة، الباب الرابع، ج ۱ ص ۷۳، ط: دار الفکر]

فَلَمَّا نَبَأَهُمْ بِهِمْ أَرَادُوا أَنْ يُؤْكِلُوهُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنْ رَبِّهِمْ مَا فَرِضَ لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لِنَفْسٍ لِيُؤْكِلُوهُمْ وَلَمْ يَرَوْهُمْ يَعْمَلُونَ

(۱۷) إِنَّ الرِّيَادَةَ عَلَى الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يُجُوزُ لِكُنْهِ يُوجِبُ الْعَمَلَ ①

ترجمہ: قرآن کریم پر خبر واحد کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے لیکن خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے اس مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نماز میں قراتِ قرآن کی کتنی مقدار فرض اور رکن ہے، احناف کے نزدیک مطلقاً قراتِ قرآن فرض ہے، لہذا کسی ایک آیت کو پڑھنے سے بھی رکن ادا ہو جائے گا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کاملاً نیا دونوں احناف کے نزدیک واجبات میں سے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں فاتحہ اور سورت ملانا دونوں رکن ہیں۔

امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ نے مسئلہ مذکورہ پر دلیل کے طور پر جو روایات پیش کی ہے (جو کتاب میں موجود ہیں) موصوف اس اصول سے ان دونوں حضرات کی پیش کردہ روایات کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ روایات اخبار آحاد ہیں اور اخبار آحاد ظنی ہوتی ہیں اور اصول فقہ میں یہ بات مذکور ہے کہ رکن دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ دلیل ظنی سے، البتہ دلیل ظنی عمل کو واجب کرتی ہے اس لئے احناف کے ہاں یہ دونوں واجب ہیں۔ اگر کوئی عمدًا چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا اور سہوا چھوٹ جائیں تو سجدہ سہولازم ہوگا۔ چونکہ اصول ہے کہ خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے اس لئے ان حضرات کی پیش کردہ روایات اور احادیث سے کتاب اللہ "فَاقْرُوْ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ②

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۰۳، ط: زمانیہ

② (لکنہ یوجب العمل) ای لکن الحدیث المذکور یوجب العمل به و بین ذلك بقوله: (فقلنا بوجوبهما) ای قلنا بوجوب قراءۃ الفاتحة وضم السورة حتى یأتم تارکهما إذا عمد ويلزم به سجود السهو إذا سها، والحاصل أنما نحن عملنا بالعدل باستعمالنا بالقرآن والحدیث، وأثبتنا فريضة مطلق القواء بالنص ووجوبية قراءۃ الفاتحة وضم السورة بالحدیث، وهذا هو العدل في باب إعمال الأخبار، وليس من العدل أن يعمل بأحد هما ويهمل الآخر.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۲ ص ۲۱۳، ط: دار الكتب العلمیة]

(٧٢) إِنَّ مَبْنَى الدُّعَاءِ عَلَى الْإِخْفَاءِ. ①

ترجمہ: دُ عالمیں اصل اختفاء ہے۔

**تشریح:** صاحب ہدایہ اس اصول سے احناف کے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک امام، مقتدی اور مسبوق سب کے لئے آہستہ آمین کہنا مسنون ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آمین بالجھر مسنون ہے۔ آمین ”اُسْتَجِبْ“ کے معنی میں دعا ہے، اور ضابطہ ہے کہ دعا میں اصل اخفاء ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ”أَذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً“، لہذا آمین میں اخفاء مسنون ہوگا۔ ۲

(٢٧) إِنَّ الصَّلَاةَ مَا وُضِعَتْ لِلْأُسْتِرَاحَةِ.

ترجمہ: نماز استراحت کے لئے وضع نہیں کی گئی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا اطمینان سجدہ کر لے کر اہونے کے لئے تکبیر کہے، اور سجدہ ثانیہ سے فراغت کے بعد اپنے پنجوں کے = ومِثْلُ هَذِهِ الرِّيَاضَةِ لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا بِالْقِيَاسِ، لَأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالنَّصْ فَإِمَامُ الْوُجُوبِ فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ وَلَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ، وَالرُّكْنِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِمَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ فَأَصْلُ الطَّوَافِ رُكْنٌ ثَابِثٌ بِالنَّصْ، وَالظَّهَارَةُ فِيهِ تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيُكُونُ مُوجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ فَلَمْ تَصِرِّ الظَّهَارَةُ رُكْنًا، وَلَكِنَّهَا واجبة.

[المبسوط للسرخسي: كتاب المناسك، باب الطواف، ج ٢ ص ٣٨، ط: دار المعرفة]

١ الهدایة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١ ص ٥٠١ ، ط: رحمانیہ

٢ وَلَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الدُّعَاءِ لَا نَمْعَنَاهُ اللَّهُمَّ أَجِبْ أَوْ لِيَكُنْ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَدُّجِبَتْ ذُغُوتُكُمَا) وَمُوسَى كَانَ يَدْعُو وَهَارُونَ كَانَ يُؤْمِنُ، وَالسُّسْتَةُ فِي الدُّعَاءِ الْإِخْفَاءِ.

[بدائع الصنائع: كتاب الصلاة، فصل بيان حكم التكبير أيام التشريق، ج ١ ص ٢٠٧، ط: دار

الكتب العلمية

لأن الأصل في الأذكار والدعاء هو الاحفاء.

[فتاوی قاضی خان: کتاب الصوم، فصل في الوتر، ج ۱ ص ۱۲۰، ط: رحمانہ]

الهداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١ ص ١١٠

بل سیدھا کھڑا ہو جائے، نہ بیٹھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے، کیونکہ یہ بیٹھنا استراحت کے لئے ہوتا ہے اور نماز استراحت اور آرام کے لئے وضع نہیں کی گئی جیسا کہ اصول میں مذکور ہے۔ البتہ عذر کی حالت اور معذور کی حالت اس سے مستثنی ہے۔ ①

(۷۲) إِنَّ مَا كَانَ عَلَى الْبَدَنِ أَشَقُّ أَوْلَى.

ترجمہ: جو بدن پر زیادہ شاق ہو وہ افضل ہوتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصلیٰ قعدہ اخیرہ میں کس ہیئت پر بیٹھے؟ تو فرمایا کہ مصلیٰ جس ہیئت پر قعدہ اولیٰ میں بیٹھا تھا اُسی ہیئت پر قعدہ ثانیہ میں بیٹھے یعنی باکیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دامیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اس ہیئت کے ساتھ بیٹھنا بدن پر زیادہ شاق ہے اور عبادات میں نفس پر جو زیادہ شاق ہو وہ افضل ہے، اس لئے اس ہیئت کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے۔ ②

① وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِلِسُ بَعْدَهَا جِلْسَةً خَفِيقَةً وَتُسَمَّى جِلْسَةُ الْاسْتِرَاحَةِ، وَيَقُومُ مُعْتَمِدًا، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ كَذَا، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَنْهَاضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صَدْرِ قَدَمِيهِ وَلَاَنَّ الصَّلَاةَ مَا وُضِعَتْ لِلْاسْتِرَاحَةِ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْضُّعْفِ وَالْكِبَرِ.

[مجمع الأنہر: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۹۹، ط: دار إحياء التراث]

② الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۱۱۲، ط: رحمانیہ

③ وَلَنَا حَدِيثٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا وَصَفتُ قُعُودَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَعَدَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَنْصُبُ الْيُمْنَى نَصَبًا وَمَا رُوِيَ بِخَلَافِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ لِلْكِبَرِ وَلَاَنَّ الْقُعُودَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَبْيَأُ أَشَقَّ عَلَى الْبَدَنِ.

[المبسوط للسرخسی: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۵، ط: دار المعرفة]

وَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجَّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرُوِيَّةِ وَمَا قُدِّمَ إِحْرَامَهُ بِالْحَجَّ فَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارَ الْمُسَارَعَةِ وَالرُّغْبَةِ فِي الْعِبَادَةِ، وَلَاَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ.

[المبسوط للسرخسی: کتاب المناسک، ج ۲ ص ۳۲، ط: دار المعرفة]

وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ إِفْطَارِ يَوْمِ فَهُوَ مُسْتَحِبٌ، وَهُوَ صَوْمُ سَيِّدِنَا دَاؤِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَاَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصوم، فصل أنواع الصيام، ج ۲ ص ۷۹، ط: دار الكتب العلمية]

۷۵) إِنَّ مَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ يَشْبُهُ كَلَامَ النَّاسِ وَيَسْتَحِيلُ لِيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ۔ ①

ترجمہ: جس چیز کا مانگنا بندوں سے محال نہ ہو تو یہ کلام الناس کے مشابہ ہے، اور جس چیز کا مانگنا بندوں سے محال ہو تو یہ کلام الناس کے مشابہ نہیں ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس بات کی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ کن الفاظ میں دعا کرنی چاہئے اور کن میں نہیں؟ تو فرمایا کہ درود کے بعد ایسے الفاظ کے ساتھ دعائے کی جائے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو، پھر کون تسلی دعا کلام الناس سے مشابہت رکھتی ہے اور کون سی نہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جن چیزوں کا بندوں سے مانگنا محال نہ ہو جیسے "اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً" (اے اللہ! فلاں عورت سے میری شادی کر ادیجئے) مجھے نوکری دلا دیجئے وغیرہ، اور اس طرح کے سوالات چونکہ بندوں سے کئے جاسکتے ہیں اس لئے یہ کلام الناس کے مشابہ ہوں گے اور ان کلمات کے ذریعے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے، البتہ وہ سوالات جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، جیسے اے اللہ! میری مغفرت فرمادیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرمادیجئے، یہ اور اس طرح کی دعاؤں کا قبول کرنا چونکہ بندوں کی طرف سے محال ہے، اس لئے یہ کلامِ خداوندی کے مشابہ ہوں گے اور ان کے ذریعے دعا کرنا بھی صحیح ہو گا۔ ②

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۱۵، ط: رحمانیہ

② مَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ هُوَ مَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ أَعْطِنِي كَذَا أَوْ زَوْجِنِي امْرَأَةً، وَمَا لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ هُوَ مَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَنَحْوِي ذَلِكَ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاۃ، فصل بیان من يجب عليه تکبیر التشریق، ج ۱ ص ۲۱۳، ط: دار

الكتب العلمية]

وَفَسْرُوهُ بِمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنَ الْعِبَادِ نَحْوَ أَعْطِنِي كَذَا وَزَوْجِنِي امْرَأَةً وَمَا لَا يُشْبِهُ كَلَامَهُمْ مَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنْهُمْ نَحْوَ اغْفِرْ لِي، لِأَنَّهُ يَخْتَصُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ).

[البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۳۵۰، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## (۶) إِنَّ الْخُطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِينَ. ①

ترجمہ: خطاب حاضرین کا حصہ ہے۔

تشریح: اس اصول سے صاحب ہدایہ اس بات کی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ مصلحتی تشهد، درود اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے، پہلے دائیں جانب پھر باعیں جانب، اور پہلا سلام پھیرتے ہوئے ان لوگوں کی نیت کرے جو اس کے دائیں جانب ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں، اور ملائکہ حفظہ کی نیت کرے، اور اسی طرح باعیں جانب سلام پھیرتے وقت ان لوگوں کی نیت کرے جو اس کی باعیں طرف ہیں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کی نیت نہ کرے کیونکہ اس زمانہ میں عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا باجماع متاخرین متذوق ہے، اور جو مسلمان نماز میں شریک نہیں ان کی بھی نیت نہ کرے، اس لئے کہ ”السلام عليکم“ میں جو خطاب ہے وہ حاضرین کے لئے ہے، اور اصول ہے کہ خطاب حاضرین کا حصہ ہے، اس لئے جو لوگ نماز میں شریک ہیں ان کو سلام شامل ہو گا اور جو لوگ شریک نہیں ان کو یہ شامل نہیں ہو گا۔ ②

## (۷) إِنَّ التَّخِيَرَ يُنَافِي الْفَرِضِيَّةَ وَالْوُجُوبَ. ③

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۱۶، ط: رحمانیہ

② (لأن الخطاب حظ الحاضرين) هذا التعليل يتأنى في النساء لأنهن منعن عن الحضور في هذا الزمان، ولا يتأنى فيمن لا شركه له في الصلاة، لأن عدم الشركه في الصلاة لا يستلزم الغيبة.

[البنيان: کتاب الصلاۃ، صفة الصلاۃ، ج ۲ ص ۲۸۶، ط: دار الكتب العلمية]

وَأَمَّا النِّيَّةُ فَيُنُوِّى بِكُلِّ تَسْلِيمٍ مِّنْ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالسَّاءِ وَالْحَفَظَةِ الْحَاضِرِينَ الَّذِينَ لَهُمْ شَرِكَةٌ فِي صَلَاةٍ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْيَدَيْتِ وَهُوَ لَمَّا اشْتَغَلَ بِمُنَاجَاهَةِ رَبِّهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْهُمْ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ التَّحَلُّ، لِأَنَّهُ صَارَ حَاضِرًا وَقَالُوا لَا يَنْتُوِي النِّسَاءُ فِي زَمَانِنَا لِعَدَمِ حُضُورِهِنَّ الْجَمَاعَةَ وَلِكَاهِيَّتِهِ وَإِنَّمَا خُصُّ الْحَاضِرُونَ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ خِطَابًا لِلْغَائِبِينَ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاۃ، صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۲۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۱۷، ط: رحمانیہ

ترجمہ: کسی چیز کا اختیار دینا یہ فرضیت اور واجب کے منافی ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے حضرات احناف کے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک مصلحتی جب سلام پھیرتا ہے تو اُسے لفظ "السلام علیکم"، ادا کرنا واجب ہے فرض نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ سلام کہنا رکن اور فرض ہے نہ کہ واجب، وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشهید کی تعلیم دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومْ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدْ فَاقْعُدْ"، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے نماز پوری ہونے کا حکم لگایا ہے اور اس کو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان اختیار دیا ہے اور اصول ہے کہ اختیار دینا کسی چیز کے فرض اور واجب ہونے کے منافی ہے، لہذا مقدار تشهید کے بعد سلام وغیرہ کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ ہم نے وجوب کو اختیاراً اس حدیث کی وجہ سے ثابت کیا ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بطور دلیل ذکر کیا ہے، یعنی "تَحْرِيِمُهَا التَّكْبِيرُ" تو یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد سے وجوب تو ثابت ہو جاتا ہے مگر فرضیت ثابت نہیں ہوتی، اس لئے کہ ثبوت فرضیت کے لئے قطعی الدلالت نص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ①

❶ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عَلِمَهُ التَّشَهِيدُ قَالَ اللَّهُ: إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومْ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدْ فَاقْعُدْ. وَجْهُ التَّمَسْكِ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَكْمٌ بِتَمَامِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّلَامِ وَخَيْرٌ بَيْنَ الْقُعُودِ وَالْقِيَامِ، وَهَذَا يُنَافِي فَرِضِيَّةَ أَمْرِ آخرٍ وَوُجُوبِهِ، إِلَّا أَنَّا أَبْتَسَأْنَا الْمُؤْجُوبَ بِمَا رَوَاهُ احْتِيَاطًا دُونَ الْفَرِضِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ وَاحِدٌ، وَبِمُثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الْفَرِضِيَّةُ.

[العنایة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۳۲۲، ط: دار الفکر]

## فصل في القراءة

(۸) إِنَّ مَا كَانَ مُكَمِّلًا لِشَيْءٍ فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ. ①

ترجمہ: جو چیز کسی دوسری چیز کو مکمل کرنے والی ہو وہ اس کے تابع ہوتی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ دن کے نفل میں اختفاء واجب ہے اور رات کے نفل میں اختیار ہے جہر کرے یا اختفاء کرے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نفل پڑھنے والے کو قیاس کیا گیا ہے تنہ فرض ادا کرنے والے پر، یعنی جیسے فرض میں منفرد شخص کو حکم ہے کہ دن کے فرائض میں وجوہ اختفاء کرے گا اور رات کی نمازوں میں اس کو اختیار ہے چاہے جہر کرے یا اختفاء کرے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نفل فرض کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے، اور اصول ہے کہ جو چیز کسی چیز کو مکمل کرنے والی ہو وہ اس کے تابع ہوتی ہے، لہذا نفل بھی فرض کے تابع ہو گا، اور رات کے فرائض میں منفرد کو اختیار ہے کہ جہر کرے یا اختفاء، اسی طرح رات کی نفلوں میں بھی اختیار ہے، چونکہ دن کے فرائض میں اختفاء متعین ہے لہذا دن کی نفلوں میں بھی اختفاء متعین ہو گا۔ ②

(۹) إِنَّ الْجَهْرَ يَخْتَصُّ إِمَّا بِالْجَمَاعَةِ حَتَّمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ

علیٰ وجہ التّحییر. ③

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، فصل في القراءة، ج ۱ ص ۱۱۸، ط: رحمانیہ

② (فيكون تبعا له) أي إذا كان التطوع مكملا للفرض، فيكون التطوع تبعا للفرض، والتبعية تستدعي أن يكون الحكم في النابع كالحكم في المتبع فيما يصلح تبعا له، كالجندى يصير مقيما في المفارزة لإقامة إمامه في المصر، وإنما قيدنا بقولنا فيما يصلح تبعا له احترازا عن حكم الجواز والفساد، فإنه إذا صلى الأربع قبل الظهر ثم شرع في الظهر وأفسدها لا يرى ذلك إلى فساد السنة قبلها، وإن كانت شرعايتها لتكميل الفرض أيضا لما كان لكل واحدة منها تحريمة مبتدأة غير مبنية أحدهما على الأخرى. وقولنا غير مبنية احترازا عن صلاة المقتدى حيث تفسد بفساد صلاة الإمام وإن كانت لصلاة كل واحد منها تحريمة مبتدأة.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، فصل في القراءة، ج ۲ ص ۲۹۲، ط: دار الكتب العلمیة]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، فصل في القراءة، ج ۱ ص ۱۱۸، ط: رحمانیہ

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

ترجمہ: جہر یا تو جماعت کے ساتھ واجب ہے، یا منفرد کے حق میں بطور خیر واجب ہے۔

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی نمازوں کی طرف ہوئی، تو اس نے اس نمازوں کو آفتاب طلوع ہونے کے بعد قضا کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو با جماعت قضا کرے گا اپنہا، اگر جماعت کے ساتھ قضا کی ہے تو جہر کرے، لیکن اگر مذکورہ قضائی نمازوں پڑھے تو اخفا واجب ہے اور اس کو جہر اور اخفا کے درمیان اختیار نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہر کرنا دو صورتوں میں مختص ہے، ایک یہ کہ نماز با جماعت ہو، دوم یہ کہ نمازوں کے اندر ہو، پہلی صورت میں جہر واجب ہے، اور دوسری صورت میں منفرد کے حق میں بطور اختیار کے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جہر اور اخفا شرعی تو قیف پر موقوف ہے، اور شریعت میں جہر و طریقوں سے پایا جاتا ہے، ایک تو جہر واجب ہے، یہ اس وقت ہے کہ جماعت سے جہری نمازوں پڑھی جائے خواہ ادا ہو یا قضا ہو، اور دوم جہر مخیّر، یہ اس وقت ہے جب کہ منفرد وقت کے اندر جہری نمازوں پڑھے، اور چونکہ یہاں جب کہ منفرد طلوع آفتاب کے بعد جہری نمازوں پڑھتا ہے تو دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی، یعنی نہ جماعت ہے اور نہ وقت، اس لئے اس صورت میں نہ جہر واجب ہو گا اور نہ جہر مخیّر، بلکہ اخفا واجب ہو گا۔ ①

① وَمَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طَلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْ فِيهَا جَهَرٌ وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتْ حَتَّمًا وَلَا يَتَخَيَّرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَأَنَّ الْجَهَرَ يَخْتَصُ إِمَامًا بِالْجَمَاعَةِ حَتَّمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۷۵، ط: المطبعة الخيرية]

(لأن الجهر يختص إماما بالجماعة حتماً) أي لأن الجهر بالقراءة مخصوص إماما في الصلاة بالجماعة على سبيل الحتم أي الوجوب (أو بالوقت) أي وإنما أن يختص بوقت الصلاة (في حق المنفرد وعلى وجه التخيير) بين الجهر والإخفاء (ولم يوجد أحدهما) أي أحد المذكورين وهو ما أدى الجماعة والوقت في حق المنفرد وحاصله أن سبب الجهر إمام الجماعة وذلك حتم، وإنما الوقت وذلك فيه خيار للمنفرد بين الأمرين الجهر والمخافلة، والمنفرد القاضي لا يوجد في حقه لا الجماعة ولا الوقت فلا يجهر.

[البنياية: كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ۲ ص ۲۹۷، ط: دار الكتب العلمية]

فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِدَلِيلٍ ①

(۸۰) إِنَّ الْوَاجِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِدَلِيلٍ ①

ترجمہ: واجب جب اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو بغیر دلیل کے اس کی قضائیں کی جاتی۔

تشریح: مذکورہ اصول کا سمجھنا موقوف ہے ایک مسئلہ پر، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عشاء کی پہلی دور کعٹ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو یہ شخص آخری دور کعٹوں میں سورہ فاتحہ کی قضائیں کرے گا۔ اور اگر پہلی دور کعٹوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور نہیں پڑھا تو آخری دور کعٹوں میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا، اور دونوں کے ساتھ جھر کرے، یہ حضرات طرفین کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورت دونوں میں سے کسی کی قضاۓ نہ کرے، بلکہ علیٰ حال نماز پڑھے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت ان دونوں میں سے ہر ایک واجب ہے، اور اصول ہے کہ واجب جب اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو اس کی قضائیں کی جاتی لا یہ کہ کوئی دلیل قضاء پائی جائے، اور یہاں پر دلیل قضاء موجود نہیں، اس لئے ان دونوں کی قضاء بھی نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مسلک کو ثابت کیا ہے۔ ②

(۸۱) إِنَّ الْمُخَافَةَ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَالْجَهَرُ أَنْ يُسْمَعَ غَيْرُهُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي

❶ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۱۱۸، ط: رحمانیہ

❷ (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَقْضِي وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبٌ، وَلِهَذَا لَوْ تَرَكَ إِحْدَاهُمَا سَاهِيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهُوِ وَقَضَاهَا فِي الشَّفْعِ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَقْضِ، وَالْوَاجِبُ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ لَا يُقْضَى إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُوْجُودٍ لَأَنَّ الدَّلِيلَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالَهُ مَشْرُوعًا لِيُصْرَفَ إِلَى مَا عَلَيْهِ، وَالسُّورَةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ.

[العنایہ: کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۳۲۹، ط: دار الفکر]

وقال أبو يوسف لا تقضى السورة أصلا لأن الواجب إذا فات عن محله لا يقضى إلا بدليل وهو مفقود هنا قوله: وهو الأشبہ، لأن السورة شرعت مرتبة على الفاتحة دون العكس.

[حاشیة الطحطاوى على مراقى الفلاح: کتاب الصلاۃ، فصل فی بیان واجب الصلاۃ،

جَعْفَرُ الْهِنْدُوَانِيٌّ وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ أَذْنَى الْجَهْرُ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَأَذْنَى الْمُخَافَةِ

### تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ . ①

ترجمہ: اخفاء یہ ہے کہ مصلی اپنے آپ کو سنائے اور جھری ہے کہ دوسرا کو سنائے، یعنی تعریف فقیہ ابو جعفر الہندواني کے نزدیک ہے، اور امام کرخی کے نزدیک جھر کی ادنی مقدار یہ ہے کہ قاری اپنے آپ کو سنائے، اور مخفافت کی ادنی مقدار حروف کی صحیح ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ پر فقہی مسئلہ کی تفریق کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ”انت طالق“ یا غلام سے ”انت حُر“ کہا اور کہنے والے نے بذات خود نہیں سنا، تو امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق اور عتق واقع ہو جائیں گے، اور امام ابو جعفر ہندواني رحمہ اللہ کے نزدیک واقع نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ان دونوں کے ساتھ جھر کیا اور استثناء کا ایسے طور پر اخفاء کیا کہ خود بھی نہیں سن سکا تو امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق اور عتق واقع نہیں ہوں گے اور استثناء معتبر ہوگا، اور امام ابو جعفر ہندواني رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں فی الحال واقع ہو جائیں گے اور استثناء معتبر نہیں ہوگا، اور اسی اختلاف پر ذیجہ پر تسمیہ پڑھنا اور وجوب

سجدہ تلاوت ہے۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۱۱۹، ط: رحمانیہ

❷ وَلَمْ يَبَيِّنُ الْمُصَنَّفُ حَدَّ الْجَهْرِ وَالْأَخْفَاءِ لِلَاخِتِلَافِ مَعَ اخْتِلَافِ التَّصْحِيحِ فَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّ أَذْنَى الْجَهْرِ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ وَأَذْنَى الْمُخَافَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ، وَفِي الْبَدَائِعِ: مَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ، وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِمُحَمَّدٍ إِشَارَةً إِلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، وَأَكْثَرُ الْمَشَايخِ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْجَهْرَ أَنْ يُسْمَعَ غَيْرَهُ وَالْمُخَافَةَ أَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْهِنْدُوَانِيِّ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْنُّطُقِ كَالْتَسْمِيَةِ عَلَى الذِّيْحَةِ وَوُجُوبِ السُّجْدَةِ بِالْتَّلَاوَةِ وَالْعَتَاقِ وَالْطَّلاقِ وَالْإِسْتِشَاءِ حَتَّى لَوْ طَلَقَ وَلَمْ يُسْمَعْ نَفْسَهُ لَا يَقُعُ، وَإِنْ صَحَّ الْحُرُوفُ، وَفِي الْخَلَاصَةِ إِلَيْهِ إِنَّمَا إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَةِ بِحَيْثُ سَمِعَ رَجُلٌ أَوْ رَجَلًا لَا يَكُونُ جَهَرًا وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمَعَ الْكُلُّ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۳۵۶، ط: دار الكتاب الاسلامی]

## باب الإمامة

(۸۲) إِنَّ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ لَا يَجُوزُ . ①

ترجمہ: مفترض کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتا رہے ہیں کہ بالغ حضرات کا پچ کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے وہ نفل ادا کرنے والا ہے، اور اصول ہے کہ فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں۔ ②

(۸۳) إِنَّ الْقُوَّى لَا يَبْنِي عَلَى الْضَّعِيفِ . ③

ترجمہ: قوی کی ضعیف پر بنائے نہیں ہوتی۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتا رہے ہیں کہ بالغ مرد کا پچ کی اقتداء کرنا کسی بھی نماز میں جائز نہیں ہے، خواہ نفل مطلق ہو یا موقت ہو، وجہ یہ ہے کہ پچ کی نفل نماز بالغ کی نفل سے کمتر اور ادنیٰ ہے، کیونکہ بالاتفاق اگر پچ نفل نماز شروع کر کے فاسد کر دے تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، اور اگر بالغ نماز فاسد کر دے تو اس کے ذمہ قضاء کرنا واجب ہے۔ اصول یہ ہے کہ ضعیف پر قوی کی بنادرست نہیں ہے، پچ کی نماز بالغوں کی نماز کے مقابلے میں ضعیف ہے اس لئے بنادرست نہیں ہے۔ ④

① الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۶، ط: رحمانیہ

② اقتداءُ الْبَالِغِينَ بِالصَّبِيَّانِ فِي الْقَرَائِضِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا، لِأَنَّ الْفَعْلَ مِنْ الصَّبِيِّ لَا يَقْعُدُ فَرْضًا فَكَانَ اقتداءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاة، فصل شرائط أركان الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: دار الكتب العلمية]  
فلا تجوز إمامۃ الصبی فی صلاۃ الفرض، وقال الشافعی: تجوز؛ لأن العمل يصح من الصبی  
نفلاً لا فرضاً، واقتداء المفترض بالمتخلف لا يجوز عندنا.

[المحيط البرهانی: کتاب الصلاة، الفصل السادس عشر، ج ۱ ص ۳۰۲، ط: دار الكتب العلمية]

③ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۷، ط: رحمانیہ

④ إمامۃُ الصَّبِيِّ فِي التَّرَاوِیحِ وَالسُّنَنِ الْمُطْلَقَةِ جَوَزَهُ مَشَایخُ بَلْخٍ وَلَمْ يُجَوَّزْهُ مَشَایخُ خَنَاءٍ؛ لِأَنَّ

(۸۳) إِنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ. ①

ترجمہ: کوئی بھی چیز اپنے اور پر کی چیز کے لئے ضامن نہیں ہو سکتی۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول کی روشنی میں ایک فقہی مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاک اور تدرست آدمی معدود شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور نہ پاک عورت مستحاضہ عورت کے پیچھے پڑھے، وجہ یہ ہے کہ مقتدی چونکہ پاک او غیر معدود ہے اور امام معدود ہے، تو مقتدی کی نماز کا حال امام کی نماز سے اقویٰ اور ارفع ہے اور امام کی نماز کا حال کمتر اور ادنیٰ ہے اور اصول ہے کہ کمتر اور اضعف اقویٰ کو متضمن نہیں ہوتا، تو اب امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن نہیں ہوگی، حالانکہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہوتی ہے، اسی لئے پاک اور غیر معدود مرد کا معدود کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح پاک عورت کی نماز مستحاضہ کے پیچھے درست نہیں ہے، کیونکہ مستحاضہ کی نماز کا حال مقتدی عورت کی نماز کے حال سے ناقص ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے سے کم تر چیز کی ضامن ہو سکتی ہے، لیکن اپنے سے بلند تر کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاری اور پڑھے ہوئے شخص کے لئے اُمیٰ اور ان پڑھ کی اقتداء کرنا اور کپڑا پہننے والے کے لئے برہنہ شخص کی اقتداء

درست نہیں ہے۔ ②

نَفْلَ الصَّبِّىِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْفُسَادِ بِالْجَمَاعِ وَلَا يُبَيِّنُ الْقُوَى عَلَى الْضَّعِيفِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، ج ۱ ص ۹۹، ط: المطبعة الخيرية]

وَلَمْ يُجَوِّزْ مَشَايِخُ بُخَارَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لَأَنَّ نَفْلَ الصَّبِّىِّ دُونَ نَفْلِ الْبَالِغِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْفُسَادِ وَلَا يُبَيِّنُ الْقُوَى عَلَى الْضَّعِيفِ.

[تبیین الحقائق: كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۰، ط: دار الكتاب الإسلامي]

① الهدایۃ: كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۸، ط: رحمانیہ

وَفَسَدَ اقْتِدَاءُ طَاهِرٍ بِصَاحِبِ الْعُذْرِ الْمُفَوَّتِ لِلطَّهَارَةِ، لَأَنَّ الصَّحِيقَ أَقْوَى حَالًا مِنَ الْمَعْذُورِ وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَالإِمَامُ ضَامِنٌ بِمَعْنَى تَضُمَّنُ صَلَاتُهُ صَلَاةً الْمُقْتَدِيِّ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۳۸۱، ط: دار الكتاب الإسلامي]

(وَقَارِئٍ بِأَمْمٍ) لَأَنَّ القَارِئَ أَقْوَى حَالًا مِنْهُ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ أَمْمٍ بِأَخْرَسَ، لَأَنَّ الْأُمَّةَ =

۸۵) إِنَّ التَّيْمَمَ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ عِنْدَ الشَّيْخِينَ رَحْمَهُمَا اللَّهُ وَطَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ عِنْدَ

مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهُ ①

ترجمہ: حضرات شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک تیم طہارت مطلقہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے۔

تشریح: حضرات شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک متوضی تیم کی اقتداء کر سکتا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتا۔ امام محمد رحمہ اللہ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ تیم طہارت ضروریہ ہے اور طہارت بالماء طہارت اصلیہ ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص طہارت اصلیہ پر مشتمل ہے اس کا حال قوی ہے بہ نسبت اس کے حال کے جو طہارت ضروریہ پر مشتمل ہے، پس معلوم ہوا کہ مقتدری کا حال امام کے حال سے قوی ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ ادنیٰ حال والا شخص اقویٰ اور ارفع حال والے کی امامت نہیں کر سکتا، لہذا تیم کے لئے متوضیین کی امامت کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ تیم طہارت مطلقہ ہے، یہی وجہ ہے کہ تیم بقدر حاجت و ضرورت کے ساتھ مقدرنہیں بلکہ دس سال تک اگر پانی دستیاب نہ ہو یا اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیم مشرع رہے گا، پس جب تیم طہارت مطلقہ ہے تو تیم اور متوضی دونوں کا حال یکساں ہے، لہذا

=أَقْوَى حَالًا مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّحْرِيمَةِ (وَمُكَسِّ بِعَارٍ وَغَيْرُ مُومِي بِمُومِي) لِقُوَّةِ حَالِهِمَا  
وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۱، ط: دار الكتاب الإسلامي]

(وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤْجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ) فَإِنْ آجَرَهُ فَعَطَبَ ضَمِّنَ، لَأَنَّ الْإِعَارَةَ دُونَ الْإِجَارَةِ  
وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا فَوْقَهُ وَلَأَنَّ مُقْتَضَى الْعَارِيَةِ الرُّجُوعُ وَتَعْلُقُ الْمُسْتَأْجِرِ بِهَا يَمْنَعُ ذَلِكَ  
فَلِهَذَا الْمِنْ يَجُزُ فَإِنْ آجَرَهَا ضَمِّنَ حِينَ سَلَمَهَا، وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمِّنَ الْمُسْتَأْجِرُ، لِأَنَّهُ قَبَضَهَا  
بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ.

[الجوهرة النيرة: کتاب العارية، ج ۱ ص ۳۵، ط: المطبعة الخيرية]

① الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۹، ط: رحمانیہ

ایک دوسرے کی امامت بھی کر سکتے ہیں۔ ①

②) إِنَّ الْاقِتِداءَ شِرْكَةً وَمُوافَقَةً.

ترجمہ: اقتداء شرکت اور موافقہ کا نام ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنے والا دوسرا فرض ادا کرنے والے کی اقتداء نہ کرے، مثلاً ظہر کی نماز پڑھنے والے کی اقتداء عصر کی نماز پڑھنے والے کے پیچے جائز نہیں، قاعدہ ہے کہ اقتداء نام ہے تحریمہ کے اندر شرکت اور افعال بدنیہ کے اندر موافقہ کا، اور شرکت میں موافقہ اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ دونوں کی تحریمہ اور افعال میں اتحاد ہو، اور چونکہ مذکورہ صورت میں اتحاد نہیں اس لئے اقتداء بھی درست نہیں ہے۔ ②

❶ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَوْمَ الْمُتَيَّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا، لَأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُّطْلَقَةٌ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ بِخَلَافِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضِيَّةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ، لَأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَيْهَا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ.

[الجوهرة الیرة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۲، ط: المطبعة الخيرية]

(لَا اقتداء متوتضی بمتیم) اُی لایفسد اقتداء متوتضی بمتیم و قال محمد یفسد، لآنها طهارۃ ضروریۃ بالماء اصلیۃ فیکوں بناء القوی علی الضعیف فلا یجُوز. ولهمما ما روی ان عمرو بن العاص صلی باصحابه و هو متیم عن الجنابة و هم متوضئون فعلم النبی صلی الله علیہ وسلم ولم یأمرهم بالاعادۃ ولأنها طهارۃ مطلقة ولهذا لا تستقدر بقدر الحاجۃ عندنا.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۳۰، ط: رحمانیہ

❸ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ) لَأَنَّ الْاقِداءَ شِرْكَةً وَمُوافَقَةً فَلَا بُدَّ مِنِ الاتِّحادِ وَسَوَاءَ تَغَيِّرَ الْفَرْضَانِ اسْمًا أَوْ صَفَةً كُمَصَّلِي ظُهُورٍ أَمْ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي ظُهُورٍ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.

[الجوهرة الیرة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۲، ط: المطبعة الخیریۃ]

لَا یجُوز اقتداء مفترض بمفتوض فرض آخر ..... وحاصلہ ان اتحاد الصالیین شرط لصححة الاقتداء، لآن الاقتداء شرکة و موافقہ فلا یکوں ذلک إلا بالاتحاد وذلک یا ان یمکنه =

## باب الحدث في الصلاة

(۸۷) إِنَّ الْإِنْصِرَافَ عَلَىٰ قَصْدِ الإِصْلَاحِ لَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَالْإِنْصِرَافَ عَلَىٰ

قَصْدِ الرَّفْضِ وَالْتُّرُكِ يَمْنَعُهُ. ①

ترجمہ: اگر (قبلہ کی طرف سے) پھر نماز کی اصلاح کے ارادے سے ہو تو یہ مانع بنائیں ہے، اور اگر نماز کو چھوڑنے اور ترک کے ارادے سے ہو تو پھر بنا کرنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو حالت نماز میں یہ گمان ہوا کہ اس کو حدث ہو گیا، پس وہ اپنی نماز کی جگہ سے پھر گیا، پھر اس کو معلوم ہوا کہ حدث نہیں ہوا تھا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا قبلہ کی طرف سے پھر نماز کی اصلاح کے ارادے سے تھا یا نماز کو چھوڑنے کے ارادے سے تھا، اگر ثانی ہے تو اس کا بناء کرنا جائز نہیں ہے، خواہ مسجد سے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، اور اگر اول ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، مسجد سے خروج پایا گیا ہو یا نہیں، اگر مسجد سے نکلنا پایا گیا تو اس وقت از سرنو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مسجد سے نہیں نکلا تو وہ اپنی باقی نماز پوری کرے از سرنو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص اصلاح نماز کے ارادے سے پھر اتحاد لئے پھر نامفسد نماز نہیں ہو گا، چنانچہ اگر وہ متحقق ہو جاتا جو اس نے تو ہم کیا تھا یعنی واقعی حدث ہوتا تو وہ اپنی نماز کی بناء کرتا، پس اصلاح کے ارادے کو محقق اصلاح کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر اس نے گمان کیا کہ اس نے بغیر وضو نماز شروع کی ہے پھر وضو کے ارادے سے اس نے رخ پھیرا پھر معلوم ہوا کہ وہ باوضو ہے اور گمان غلط تھا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گی، اگر چہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو، کیونکہ یہ پھر نابطہ رفض ہے یعنی نماز کو چھوڑنے کے طور پر ہے نہ کہ اصلاح نماز کے لئے، چنانچہ اگر اس کا بے وضو ہونا متحقق ہو جاتا تو یہ از سرنو نماز پڑھتا۔

= الدُّخُولُ فِي صَلَاتِهِ بِنِيَّةِ صَلَاتِ الْإِمَامِ فَتَكُونُ صَلَاتُ الْإِمَامِ مُتَضَمِّنَةً لِصَلَاتِ الْمُقْتَدِيِّ وَهُوَ الْمُرَادُ

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَامِنٌ أَيُّ تَضَمَّنُ صَلَاتُهُ صَلَاتَ الْمُقْتَدِيِّ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۳۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

① الهدایۃ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۲، ط: رحمانیہ

پس ضابطہ اور اصل یہ ہی ہے کہ اگر انصراف بقصد اصلاح ہو تو نماز فاسد نہیں ہو گی بشرطیکہ خروج من المسجد نہ پایا گیا ہو، اور اگر انصراف اعراض اور رفض کے ارادے سے ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ①

(۸۸) إِنَّ مَا يَنْدُرُ وُجُودُهُ لَا يَكُونُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ. ②

ترجمہ: جن عوارض کا پیش آنا نادر ہے وہ ماورد بہ النص کے معنی میں نہیں ہوں گے۔

شرح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر مصلحتی دوران نماز مجنون ہو گیا، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، یا بحالت نماز سو گیا اور احتلام ہو گیا، یا اس پر بیہوٹی طاری ہو گئی، تو وہ از سرنو نماز پڑھے گا، اس لئے کہ نماز میں ان عوارض کا پیش آنا نادر ہے، لہذا یہ عوارض ان عوارض کے معنی میں نہیں ہوں گے جن پر نص وارد ہوئی یعنی ”مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلَيُنْصِرِّفْ وَلَيَبْرُأْ“ ③

❶ وَالْقِيَاسُ فَسَادُهَا بِالاُنْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ مُطْلَقاً لِمَا ذَكَرْنَا لَكُمْ اسْتَحْسَنُوا بِقَاءَهَا عِنْدَ عَدَمِ الْخُرُوجِ، لِأَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْإِاصْلَاحِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْدَ عَلَى صَلَاتِهِ فَالْحَقِّ قَصْدُ الْإِاصْلَاحِ بِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِالْخُرُوجِ..... لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ افْسَحَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ كَثَانَ مَاسِحًا عَلَى الْخُفَيْنِ فَظَنَّ أَنَّ مُدَّةَ مَسْحِهِ قَدْ انْقَضَتْ أَوْ كَانَ مُتَيمِّمًا فَرَأَى سَرَابًا فَظَنَّهُ مَاءً أَوْ رَأَى حُمُرَةً فِي ثُوبِهِ فَظَنَّ أَنَّهَا نَجَاسَةٌ فَانْصَرَفَ حَيْثُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْاُنْصَرَافَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ، وَلِهَذَا لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۳۹۲، ط: دار الكتاب الإسلامي / تبیین

الحقائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۲۸، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۲، ط: رحمانیہ

❸ (یندر وجود هذه العوارض) أى الجنون والاحتلام والإغماء (فلم يكن) أى هذه العوارض (في معنی ما ورد به النص) وهو قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ :من قاء أو رعف في صلاته. ومعنی ما ورد به النص هو القاء والرعناف فإذا لم يكن في معنی ما ورد به النص بقیت على أصل القياس. أما الجنون والإغماء فإن الشخص يبقى على حاله بعد حدوثهما فيصير مؤديا جزءاً من الصلاة مع الحدث فتفسد.

[البنيان: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۲ ص ۳۸۸، ط دار الكتب العلمية]

فَلَمْ يَرَهُ . فَلَمْ يَرَهُ .

(۸۹) إِنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّيِّ فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ لَيْسَ

بِفَرْضٍ عِنْدَهُمَا.

ترجمہ: امام ابوحنیفہ کے نزدیک مصلی کا اختیاری فعل کے ساتھ نماز سے نکنا فرض ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک فرض نہیں ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ پر متفرع ان بارہ مسائل کا ذکر کیا ہے جو تشهد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پیش آئیں:

۱..... تیم کرنے والے مصلی نے مقدار تشهد بیٹھنے کے بعد پانی دیکھا۔

۲..... موزوں پرسح کرنے والے کے مقدار تشهد بیٹھنے کے بعد مدت مسح پوری ہوگئی۔

۳..... مقدار تشهد کے بعد عمل قلیل کے ساتھ دونوں موزے نکالے، یادوں موزوں میں سے کوئی ایک نکالا۔

۴..... مصلی اُمی تھا پھر تشهد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس نے کوئی قرآن کی سورت سیکھ لی۔

۵..... مصلی برہنہ تھا اس نے مقدار تشهد کے بعد کپڑا پالیا۔

۶..... مصلی اشارے سے رکوع اور سجده کرنے والا تھا پھر وہ مقدار تشهد کے بعد رکوع اور سجده پر قادر ہو گیا۔

۷..... مصلی کو مقدار تشهد کے بعضقضاء نماز یاد آگئی جو اس پر اس نماز سے پہلے واجب القضاء ہے۔

۸..... مقدار تشهد کے بعد امام قاری کو حدث ہوا اس نے اُمی کو خلیفہ بنایا۔

۹..... مقدار تشهد کے بعد فجر کی نماز میں آفتاب طلوع ہو گیا۔

= وَأَمَّا فَسَادُهَا بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْأَخْتِلَامِ فَلَأَنَّهُ يُنْدُرُ وُجُودَ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ مِنْ الْقُرْآنِ وَالرُّعَافِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۳۹۵، ط: دار الكتب الإسلامية]

● الهدایہ: كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: رحمانیہ

۱۰..... مقدارِ تشهید کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا حالانکہ یہ شخص نمازِ جمعہ میں ہے۔

۱۱..... مصلی جبیرہ پر مسح کئے ہوئے تھا پس مقدارِ تشهید کے بعد زخم ٹھیک ہونے کی وجہ سے پڑی گرگئی۔

۱۲..... مصلی معذور تھا لیکن مقدارِ تشهید کے بعد اس کا اذرنختم ہو گیا، جیسے مستحاضہ عورت اور اس کے معنی کے دیگر معذورین مثلاً سلسل البول وغیرہ۔

ان بارہ مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے اور حضراتِ صاحبین کے نزدیک تمام صورتوں میں نماز پوری ہو جاتی ہے، ان تمام مسائل میں ضابطہ اور اصل یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز سے باہر ہونا مصلی کے اختیاری فعل سے فرض ہے، اور صاحبین کے نزدیک فرض نہیں، پس اسی اصل کے پیش نظر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قعدہ اخیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا جو ہر مسئلہ میں الگ الگ مذکور ہوئے ہیں ایسا ہے جیسا درمیان نماز میں پیش آنا اور چونکہ درمیان نماز میں ان عوارض کا پیش آنا مفسد نماز ہے، اس لئے قعدہ اخیرہ کے بعد اگر یہ عوارض پیش آگئے تو نماز باطل ہو جائے گی۔

اور حضراتِ صاحبین کے نزدیک قعدہ اخیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد پیش آنا، اور ظاہر ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی عارض نماز کو فاسد نہیں کرتا، اس لئے قعدہ اخیرہ کے بعد ان عوارض کے پیش آنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ①

(۹۰) إِنَّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْفَرْضِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا.

ترجمہ: ہر وہ چیز جس کے بغیر فرض تک رسائی نہ ہو وہ فرض ہوتی ہے۔

شرح: صاحب ہدایہ نے اصول مذکورہ کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر بطور دلیل کے

۱) هذه المسائل تبني على أصل وهو أن الخروج من الصلاة بصنع المصلى فرض عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما ليس بفرض.

[المحيط البرهانی: كتاب الطهارة، الفصل الخامس، ج ۱ ص ۱۵۲، ط: دار الكتب العلمية]

۲) الهدایۃ: كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۳، ط: رحمانیہ

ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دوسری نماز اُس کے وقت میں ادا کرنا فرض ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک اس موجودہ نماز سے نکلیں، پس اس موجودہ نماز سے نکلنا دوسری فرض نماز ادا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی دوسری فرض نماز ادا کرنا اس موجودہ نماز سے نکلنے پر موقوف ہے، اور چونکہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے، اس لئے موجودہ نماز سے نکلنا بھی فرض ہوگا، یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خرون بصنعت فرض ہے۔ اس کی نظریہ ہے کہ ایک شخص پر نفقہ لازم ہے اور وہ بغیر کمائی کے حاصل نہیں ہو سکتا تو اس پر کمائی بھی لازم ہوگی۔ سجدہ فرض ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ رکوع سے منتقل نہ ہو، پس یہ انتقال بھی فرض ہوگا، اس لئے کہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔ ①

(۹) إِنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ. ②

ترجمہ: فاسد پر بنا کرنا بھی فاسد ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امام نے مکمل نماز پڑھائی اور تشهد کی مقدار بھی بیٹھ گیا، پھر اس نے قبھہ مارا، یا عمداً حدث لاحق ہوا، تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی، وجہ یہ ہے کہ امام کی نماز میں سے جس جزء

❶ وصورة هذا التوسل أنه إذا حرم للظاهر مثلاً فلم يخرج منها حتى دخل وقت العصر لزمه أداء العصر مثلاً ولا عليه أداؤها إلا بعد الخروج عن تحريمية الظاهر، لأن العصر لا يتأنى بهذه التحريمية، فيكون الخروج عن تحريمية الظاهر سبباً يتوصل به إلى أداء العصر وأداء العصر فرض، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً كالانتقال من ركن إلى ركن، في باب الصلاة عدم من الأركان، وإن لم يكن ركناً في نفسه كذا هذا، لأنه لم يبق الأولى على الصحة لا يمكنه أداء الثانية لأن الترتيب عندنا فرض، ولا يخرج عن الأولى على وجه يبقى صحيحاً إلا بصنع يوجد منه فكان فرضاً، وهذه النكتة منقوله عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رَحْمَةُ اللَّهِ.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب الحدث فی الصلاۃ، ج ۲ ص ۳۹۵، ط: دار الكتب العلمیة]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب الحدث فی الصلاۃ، ج ۱ ص ۱۳۵، ط: رحمانیہ

سے متصل قہقہہ واقع ہوا اس جزء کو اس نے فاسد کر دیا، لہذا اس جزء کے مثل مسبوق کی نماز بھی فاسد ہو گی، کیونکہ مقتدی کی نماز امام کی نماز پر مبنی ہوتی ہے، اور جب مسبوق کی نماز کا ایک جزء فاسد ہو گیا تو اب باقی نماز کی اس پر بناء نہیں کر سکتا کیونکہ اصول ہے کہ فاسد جزء پر بناء کرنا فاسد ہوتا ہے۔ برخلاف امام اور مدرک مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہو گی اس لئے کہ قعدہ آخرہ میں مقدارِ تشهد بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نماز کمکمل ہو گئی۔ ①

### (۹۲) إِنَّ تَمَامَ الرُّكْنِ بِالْأَنْتِقَالِ ②

ترجمہ: ایک رکن کا انتام دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ اس اصول سے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی کورکوع یا سجدہ کی حالت میں حدث ہوا، خواہ وہ منفرد ہو یا امام یا مقتدی، تو اس کو چاہئے کہ وضو کر کے بناء کرے اور جس رکن میں حدث پیش آیا ہے اس کوشarnہ کرے، کیونکہ اصول ہے کہ ایک رکن اس وقت کمکمل ہوتا ہے جب کہ اس سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جائے اور یہ انتقال فرض ہے اور حدث کے ساتھ انتقال متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ منتقل الیہ (جس کی طرف منتقل ہو گا) نماز کا ایک جزء ہے اور حدث پیش آنے

❶ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ فَصَلَاةُ الِإِمَامِ وَمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ تَامَّةٌ وَأَمَّا صَلَاةُ الْمَسْبُوقِينَ فَفَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ، لَأَنَّ الْقَهْقَهَةَ مُفْسِدَةٌ لِلْجُزْءِ الَّذِي تُلَاقِيهِ مِنْ صَلَاةِ الِإِمَامِ فَيَفْسُدُ مِثْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقْتَدِيِّ غَيْرَ أَنَّ الِإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ.

[الجوهرة الیبرة: کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۵، ط: المطبعة الخیریۃ]

أَنَّ الْقَهْقَهَةَ وَالْحَدَثُ الْعَمْدُ مُفْسِدَانِ لِلْجُزْءِ الَّذِي يُلَاقِيَهُ مِنْ صَلَاةِ الِإِمَامِ فَيَفْسُدُ مِثْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَأْمُورِ غَيْرَ أَنَّ الِإِمَامَ وَالْمُدْرِكَ لَا يَحْتَاجَانِ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ وَمَنْ حَالَهُ مِثْلُ حَالِهِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۱ ص ۱۵۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الحدث فی الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۵، ط: رحمانیہ

کے بعد نماز کا ایک جزء ادا کرنا بھی مفسد ہے اس لئے اس رکن کا اعادہ ضروری ہوگا، مثلاً اگر رکوع میں حدث ہوا تھا تو وضو کے بعد آکر رکوع کرے گا پھر بقیہ نماز ادا کرے گا۔ ①

(۹۳) إِنَّ اسْتِخْلَافَ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلِّإِمَامِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ. ②

ترجمہ: ایسے شخص کو خلیفہ بنانا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔

تشریح: صاحب ہدایہ اصول مذکورہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے اور امام کے پیچھے نابالغ بچہ یا عورت کے علاوہ کوئی اور نہ ہو اور اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا تو اس صورت میں امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جو امامت کا اہل نہیں، اور ضابطہ ہے کہ جو امامت کا اہل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا امام کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ③

① (قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَدَثَ فِي رُكُوعِهِ أُو سُجُودِهِ تَوْضِأَ وَبَنَى وَأَعَادُهُمَا) لَأَنَّ إِتْمَامَ الرُّكْنِ بِالْأَنْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدُّ مِنِ الْإِعَادَةِ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]  
(وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي رُكُوعٍ أُو سُجُودٍ أَعَادُهُمَا) بعْدَ التَّوَضُؤِ (حتَّمًا) إِنْ بَنَى لَأَنَّ تَمَامَ الرُّكْنِ بِالْأَنْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدُّ مِنِ الْإِعَادَةِ.

[مجمع الأئمہ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۷۱، ط: دار إحياء التراث]

② الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۱۳۵، ط: رحمانیہ  
(لَا سْتِخْلَافٌ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلِّإِمَامَةِ) حُكْمًا فِإِنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ لِلِّإِمَامَةِ كَانَ الْإِمَامُ مُقْتَدِيًّا بِهِ، وَمَنْ اقْتَدَى بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلِّإِمَامَةِ فَسَدَّ ثَلَاثَةَ صَلَاتٍ.

[العنایہ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۳۹۲، ط: دار الفكر]

وَجْهُ فَسَادِ صَلَاتِ الْإِمَامِ اسْتِخْلَافُهُ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلِّإِمَامَةِ وَعِلْمُهُ فَسَادِ صَلَاتِ الْمَأْمُومِ خُلُوُّ مَكَانِ الْإِمَامَةِ عَنِ الْإِمَامِ.

[مجمع الأئمہ: کتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ۱ ص ۷۱، ط: دار إحياء التراث]

## **باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها**

(٩٣) إِنَّ مَا يَدْلُلُ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ. ①

ترجمہ: یقیناً ہر وہ فعل جو خشوع کی زیادتی پر دلالت کرے نماز کو باطل نہیں کرتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہر وہ کام جو خشوع میں اضافے پر دلالت کرے تو اس فعل سے نماز بطل نہیں ہوگی۔

اگر کوئی آدمی نماز میں آہ کرتا ہے یا نماز میں بلند آواز میں روتا ہے تو اب اگر اس شخص کا رونا جنت یا جہنم کے تذکرہ کی وجہ سے ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جنت یا جہنم کے تذکرہ سے رونایہ اور زیادہ خشوع فی الصلاۃ پر دلالت کرتا ہے اور نماز میں مقصود بھی خشوع ہے، لہذا مذکورہ اصول کی رو سے اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ۲

(٩٥) إِنَّ مَا فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ وَالنَّاسُفِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. ۚ

ترجمہ: بلاشبہ ہر وہ فعل جس میں جزع اور افسوس کا اظہار ہو تو یہ کلامِ الناس کے قبیل سے ہوگا۔

**تشریح:** مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام نماز میں جو کلام الناس کے مشابہ ہو تو ایسے کلام سے نماز باطل ہو جاتی ہے، مذکورہ اصول کو صاحب ہدایہ ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں آہ کرتا ہے یا بلند آواز سے روتا ہے اور اس کا یہ رونا دردیا

<sup>١١</sup> الهدایة: کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يکوه فيها، ج ۱ ص ۷۱۳، ط: رحمانیہ

٢) وَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ لَا تُفْسِدُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ يَدْلُلُ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ بِمَعْنَى التَّسْبِيحِ أَوِ الدُّعَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَئِنَّ وَالثَّاوِهِ وَالْبُكَاءَ قَدْ يُنْشَأُ مِنْ مَعْرِفَةِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ وَغَنَاهُ عَنْ خَلْقِهِ وَكَبُرِيَّاتِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْوَجَاءِ وَالرَّغْبَةِ فَيَكُونُ كَالْتَّقْدِيسِ وَالدُّعَاءِ.

[تبين الحقائق: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكوه فيها، ج ١ ص ١٥٦، ط: دار

كتاب إسلامي

<sup>٢</sup> الهدایة: کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يکوه فيها، ج ۱ ص ۷۱۳، ط: رحمانیہ

تکلیف یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے ہو تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، وجہ یہ کہ جب اس کا رونا درد وغیرہ کی وجہ سے ہے تو یہ کلام الناس میں سے ہوا، اور کلام الناس فی الصلاۃ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا اس قسم کے روئے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ ①

(۹۶) إِنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِدَتَانِ أَوْ إِحْدَاهُمَا لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَتَا أَصَلِّيَتِينِ تَفْسُدُ عِنْدَ أَبِيهِ يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: کلمہ جب دو حروف پر مشتمل ہو اور وہ دونوں زائد ہوں، یا ان میں سے ایک زائد ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر وہ دونوں اصلی ہوں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ دو حروف پر مشتمل ہو اور وہ دونوں حرف زائد میں سے ہوں، یا ان میں سے ایک حرف زائد میں سے ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور اگر دونوں حروف اصلی ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام عرب کی بنیاد تین

❶ فَإِنْ أَنْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَأْوِهَ أَوْ بَكَّى فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ أَىٰ حَصَلَ بِهِ حُرُوفٌ إِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَمْ يَضُرُّهُ، لِأَنَّهُ يَدْلُلُ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى التَّسْبِيحِ، وَالْبُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَوْفِ اللَّهِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَدَحَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ (وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ) أَنِّي يَخْرُونَ سُجُودًا عَلَى الْوُجُوهِ يَكُونُ وَالْمَرَادُ بِالْأَذْقَانِ الْوُجُوهُ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَيُسَمِّعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَازِيزٌ الْمِرْجَلٌ مِنْ الْبُكَاءِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ أَصْلَى خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّيً وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ سَمِعْتُ نَشِيجَهُ وَأَنَا آخِرُ الصُّفُوفِ، الْأَزِيزُ غَلَيَانُ الْقِدْرِ وَالْمِرْجَلُ الْقِدْرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجْعٍ أَوْ مُصِبَّةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ، لِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ وَالتَّأْسِفِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ۔

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۱ ص ۲۵، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فيها، ج ۱ ص ۱۳۷، ط: رحمانیہ

حرفوں پر ہوتی ہے، کیونکہ ایک حرف کی ضرورت تو اس لئے پیش آئے گی کہ اس سے ابتداء کی جائے اور دوسرے حرف کی ضرورت اس لئے پیش آئے گی کہ اس پر وقف کیا جائے اور ایک حرف ان دونوں کے درمیان فصل کے لئے ہوگا، پس حرف واحد تو اقل جملہ ہے، اس پر لفظ کلمہ یا کلام کا اطلاق نہیں ہوتا اور اگر دو حروف میں سے ایک زائد ہو اور ایک اصلی ہو تو حرف اصلی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بنا بھی ایک ہی حرف پر رہ گئی اور اگر دو حروف اصلی ہیں تو تین حروف میں سے اکثر پائے گئے اور اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا دو اصلی حروف پر مشتمل کلمہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مذکورہ اصول کو صاحب ہدایہ ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے نماز میں آہ کہا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کلمہ (آہ) دو حروف پر مشتمل ہے اور دونوں زوائد میں سے ہیں، اور اگر کسی آدمی نے نماز میں ”اوہ“ کہا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، پس مذکورہ کا ماحصل یہ ہے کہ اگر کلمہ تین حروف سے کم پر مشتمل ہو تو یہ مفسد صلاة نہیں ہوگا اور اگر تین یا تین سے زائد پر مشتمل ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۷۹) إِنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِيْ مُتَفَاهِمِ الْعُرُوفِ يَتَبَعُ وُجُودُ حُرُوفِ الْهَجَاءِ

وَإِفْهَامَ الْمَعْنَى . ۲

❶ الْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حَرْفَيْنِ وَهُمَا زَائِدَتَانِ أَوْ إِحْدَاهُمَا لَا تُفْسِدُ، وَإِنَّ كَانَتَا أَصْلِيَتَيْنِ تُفْسِدُ، وَهَذَا، لِأَنَّ أَصْلَ كَلَامَ الْعَرَبِ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ لَا خُتْيَاجِهِ إِلَى حَرْفٍ يُبَتَّدَأُ بِهِ وَحَرْفٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ وَحَرْفٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، فَالْحَرْفُ الْوَاحِدُ أَقْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يُطْلُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَلَامِ، وَالْحَرْفَانِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ الزَّوَائِدِ كَذِلِكَ، لِأَنَّهُ نَظَرٌ إِلَى الْأَصْلِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتَا أَصْلِيَتَيْنِ فَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ، وَالْحُرُوفُ الزَّوَائِدُ عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلُّ زَائِدٍ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مِنْهَا لَا عُكْسَهُ جَمَعُوهَا فِي قَوْلِهِمُ الْيَوْمَ تَسَاهَ، وَعَلَى هَذَا قَوْلِهِ: آهٌ لَا تُفْسِدُ، لَأَنَّهُمَا مِنْ الزَّوَائِدِ، وَأَوْهٌ تُفْسِدُ، لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى حَرْفَيْنِ فِي الزَّوَائِدِ عَلَى حَرْفَيْنِ لَا يُنْظَرُ إِلَى الْأَصَالَةِ وَالزِّيَادَةِ.

[العنایة: کاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، ج ۱ ص ۳۹۷، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیها، ج ۱ ص ۱۳۷، ط: زمانیہ

تَرْجِمَةٌ: بے شک کلام الناس ہونا عرف کی اصطلاح میں تابع ہوتا ہے حروفِ ہجاء کے پائے

جانے اور معنی سمجھانے کے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں کلام الناس ہونا دو باتوں کے تابع ہے:

۱..... اول یہ کہ حروفِ ہجاء پائے جائیں۔

۲..... دوم یہ کہ حروفِ ہجاء مفید معنی بھی ہوں۔

مذکورہ اصول کو صاحبِ ہدایہ ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مصلیٰ کی آواز میں حروفِ ہجاء ہی نہ ہو تو بالاتفاق یہ مفسد صلاۃ نہیں ہوگا اور اگر مصلیٰ کی آواز میں حروفِ ہجاء تو ہوں لیکن وہ مفید معنی نہ ہوں تب بھی یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ ①

(۹۸) إِنَّ مَا يَجْرِيُ فِي مُخَاطَبَاتِ النَّاسِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِمْ. ②

ترجمہ: ہروہ کلام جو لوگوں کے خطابات میں جاری ہوتا ہے تو وہ کلام الناس کے قبیل سے ہوگا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہروہ کلام جو لوگوں کے خطابات میں جاری ہو یعنی لوگوں کی بول چال میں جاری ہو تو وہ کلام الناس کے قبیل سے ہوگا۔

مذکورہ اصول کو صاحبِ ہدایہ ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو چھینک آئی اور دوسرا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اُس نے چھینکنے والے کے جواب میں "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کہا، تو اس قائل کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کلام الناس کے قبیل سے ہے اور کلام الناس مفسد صلاۃ ہے، لہذا یہ بھی مفسد صلاۃ ہوگا۔ اور "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کلام الناس کے قبیل سے اس لئے ہے کہ اس میں کاف خطاب کا ہے اور لوگوں میں یہ بول چال جاری بھی ہے، لہذا مذکورہ اصول کی بنیاد پر "يَرْحَمُكَ اللَّهُ" کلام

① وَقُولُ أَبِي يُوسُفَ لَا يَقُولَ لَأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهِمِهِمْ أَنِّي أَهْلُ الْعُرْفِ يَتَّبِعُ وُجُودَ

حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَإِفْهَامِ الْمَعْنَى وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفِ كُلُّهَا زَوَانِدُ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج ۲ ص ۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

② الهدایہ: کاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ۱ ص ۱۳۷، ط: زمانیہ

الناس کے قبیل سے ہوا۔ ①

(۹۹) إِنَّ مَا فِيهِ تَعْلِيمٌ وَتَعْلُمٌ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. ②

ترجمہ: ہر وہ کلام جس میں تعلیم و تعلم ہو یعنی سیکھنا سکھانا ہو پس وہ کلام الناس کے قبیل سے ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا کلام کرنا جس سے تعلیم یا تعلم حاصل ہوتا ہو تو وہ کلام، کلام الناس کے قبیل سے ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اگر مصلی نے اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کو نماز میں لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے امام کو لقمہ دینا تو ضرورت کی بنابر ہے اور غیر امام کو لقمہ دینا اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا غیر امام کو لقمہ دینا یہ تعلیم و تعلم ہے، تو مذکورہ قاعدے کی بنیاد پر یہ کلام الناس کے قبیل سے ہوا اور کلام الناس مفسد صلاة ہے، لہذا یہ لقمہ دینا بھی غیر امام کو مفسد صلاة ہو گا۔ ③

(۱۰۰) إِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أَخْرَجَ مُخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُوَ يُحْتَمِلُ يُجْعَلُ جَوَابًا. ④

ترجمہ: جب کلام جواب کے طور پر استعمال کیا جائے اور وہ کلام جواب کا اختصار بھی رکھتا ہو تو اس کو جواب قرار دیا جائے گا۔

❶ (وَجَوَابُ عَاطِسٍ بِيرْحَمَكَ اللَّهُ) لَأَنَّهُ يَجْرِي فِي مُخَاطَبَاتِ التَّائِسِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءً كَفَكَانَ مِنْ كَلَامِهِمْ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج ۱ ص ۱۵۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يکرہ فيها، ج ۱ ص ۱۳۷

❸ (قَوْلُهُ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ) أَى يُفْسِدُهَا لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعْلُمٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ قَيْدٌ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ فَلَا فَسَادٌ لِأَنَّهُ تَعْلَقٌ بِهِ إِصْلَاحٌ صَالِيَهُ.

[البحر الرائق: کاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج ۲ ص ۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

(وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ) لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعْلُمٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ التَّائِسِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج ۱ ص ۱۵۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❹ الہدایہ: کاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يکرہ فيها، ج ۱ ص ۱۳۸، ط: زمانیہ

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا کلام جو بطور جواب کے استعمال کیا جائے

اور وہ کلام جواب بننے کا اختیال بھی رکھتا ہو تو اس کلام کو جواب قرار دیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے مصلی سے کہا ”هَلْ مِنْ إِلَهٖ غَيْرُ اللَّهِ“ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو اس مصلی نے جواب میں کہا ”لَا إِلَهٔ إِلَّا اللَّهُ“ تو عند الطرفین اس مصلی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ”لَا إِلَهٔ إِلَّا اللَّهُ“ یہ ایسا کلام ہے جو، جواب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور حمد باری تعالیٰ کے لئے بھی، لیکن جب مصلی نے اس کو جواب کے طور پر استعمال کیا تو اس کا ایک معنی متعین کر دیا، لہذا مصلی کے اس کلام کو جواب قرار دیا جائے گا اور مذکورہ اصول کی بنیاد پر یہ کلام مفسد صلاة ہو گا، لہذا مصلی کی نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ ①

## (۱۰) إِنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ.

❶ (قُولُهُ وَالْجَوَابُ بِلَا إِلَهٔ إِلَّا اللَّهُ) أَىٰ يُفْسِدُهَا عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ بِصِيفَتِهِ فَلَا يَتَغَيِّرُ بِعَزِيزِهِ وَلَهُمَا أَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ فَيُجْعَلُ جَوَابًا كَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُصَنْفَ خُصُوصَ الْجَوَابِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بَلْ كُلُّ كَلِمَةٍ هِيَ ذُكْرٌ أَوْ قُرْآنٌ قَصَدَ بِهَا الْجَوَابَ فَهِيَ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ يَسِّرُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ بِأَمْرٍ عَجِيبٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ نَصَّ الْمَشَايِخُ عَلَى أَشْيَاءَ مُوْجِبَةٍ لِلْفَسَادِ بِالْفَاقِهِمْ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ كِابٌ مَوْضُوعٌ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ اسْمُهُ يَحْيَى فَقَالَ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ) أَوْ رَجُلٌ اسْمُهُ مُوسَى وَبِيَدِهِ عَصَافِقَ لَهُ (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) أَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ وَابْنُهُ خَارِجُهَا فَقَالَ (يَا بْنَى ارْكُبْ مَعَنَا) أَوْ طُرِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ أَوْ نُودِيَ مِنْ خَارِجِهِ فَقَالَ (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) وَأَرَادَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخِطَابَ لِأَنَّهُ لَا يُشْكِلُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ لَا قَارِئٌ وَهِيَ مُؤَيَّدَةٌ لِمَا قَالَاهُ.

[البحر الرائق: کاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، ج ۲ ص ۷، ط: دار الكتاب الاسلامی]

❷ الہدایہ: کاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، فصل، ج ۱ ص ۱۳۶، ط: رحمانیہ

ترجمہ: مسجد کی چھت کے لئے مسجد کا حکم ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم مسجد کا ہے وہی حکم مسجد کی چھت کا بھی ہے، یعنی جو کام مسجد میں جائز ہے وہی مسجد کی چھت پر جائز ہے، اور جو کام مسجد میں جائز نہیں ہے وہ کام مسجد کی چھت پر کرنا بھی منوع ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کی چھت پر ہمبستری کرنا اور اسی طرح مسجد کی چھت پر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کام مسجد میں جائز نہیں ہے اور چونکہ مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے لہذا مذکورہ اصول کی بنیاد پر مسجد کی چھت پر بھی یہ کام منوع ہیں، اور مذکورہ اصول ہی کی بنیاد پر اگر امام مسجد کے اندر ہو اور مقتدی نے چھت سے چھت سے اس امام کی اقتداء کی تو یہ اقتداء جائز ہے، اسی طرح اگر معتکف مسجد کی چھت پر چڑھاتا تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اسی طرح جبکی آدمی کو مسجد کی چھت پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ①

❶ قال محمد رحمه الله: وتكره المجامعة والبول فوق المسجد، لأن لسطح المسجد حكم المسجد، وهذا المأثور أن حكم المسجد ثابت في الهواء والعرصه جميعاً، ولهذا قلنا: من قام على سطح المسجد مقتدياً بإمام في المسجد، وهو خلف الإمام يجوز، والممعتكف إذا صعد سطح المسجد لا ينتقض اعتكافه، ولا يحل للجنب والحائض والنفساء صعود سطح المسجد، فعلم أن لسطح المسجد حكم المسجد، ثم لا تجوز المجامعة والبول في المسجد، فكذا فوقه.

[المحيط البرهانی: كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل الخامس، ج ۵ ص ۷۱، ط: دار

الكتب العلمية]

(قُولُهُ وَالبُوَاطِنُ فَوْقَهُ وَالبُولُ وَالتَّخَلِّي) أَنِّي وَكُرْهَ الْوَاطِنُ فَوْقَ الْمَسْجِدِ وَكَذَا الْبُولُ وَالْتَّغُوطُ لَأَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَصْحَّ الْإِقْتِدَاءُ مِنْهُ بِمَنْ تَحْتَهُ وَلَا يَنْهَا الْإِعْتِكَافُ بِالصُّعُودِ إِلَيْهِ وَلَا يَحُلُّ لِلْجُنُبِ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيرِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج ۲ ص ۷۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## باب صلاة الوتر

(۱۰۲) إِنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ ①

ترجمہ: امر (مطلق) وجوب کے لئے آتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ امر مطلق یعنی جو قرآن سے خالی ہو تو وہ وجوب کے لئے آتا ہے۔

صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک و ترواجب ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَةً، وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَةِ الْفَجْرِ ②

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، وہ نمازنماز و تر ہے، پس تم اس کو عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان پڑھو۔

مذکورہ حدیث میں لفظ ”فَصَلُّوا“ امر کا صیغہ ہے اور مذکورہ اصول کی بنیاد پر امر و وجوب کے لئے آتا ہے، لہذا یہاں بھی ”فَصَلُّوا“، وجوب کے لئے ہے، لہذا اوتر کی نماز بھی واجب ہوئی۔ ③

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الوتر، ج ۱ ص ۱۲۸، ط: رحمانیہ

② مسنند أحمد: ج ۳۹ ص ۱۷۲، رقم الحديث: ۲۳۸۵۱، ط: مؤسسة الرسالة

③ وَالاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا اللَّهُ أَمْرَ بِهَا وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، وَالثَّانِي اللَّهُ سَمَّا هَا زِيَادَةً وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشَّيْءِ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّمَا إِذَا كَانَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قِرَاناً لَا زِيَادَةَ وَلَأَنَّ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا تُتَصَوَّرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ وَهُوَ الْفَرْضُ، فَإِنَّمَا النَّفْلُ فَلَيْسَ بِمُقَدَّرٍ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرْضِ لِكِنْ فِي الْفَعْلِ لَا فِي الْوُجُوبِ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاۃ، أنواع صلاۃ الواجبة، ج ۱ ص ۲۷، ط: دار الكتب العلمية]  
وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَلَهَذَا يَجِبُ قَضاؤُهَا بِالْجَمَاعِ، وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَ الزِّيَادَةَ إِلَى اللَّهِ لَا إِلَى نَفْسِهِ وَالسُّنْنُ تُضَافُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا، لَأَنَّهَا تُؤَدَّى فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَأَكْتَفَيْتُ بِآذانِهِ وَإِقَامَتِهِ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الصلاۃ، باب صفة الصلاۃ، ج ۱ ص ۵۷، ط: المطبعة الخيرية]

فَلَا يَنْهَا عَنِ الْمُحْكَمِ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمُبَيِّنِ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمُسْوَدِ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمُنْسُخِ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمُتَابَعَةِ فِيهِ.

(۱۰۳) إِنَّ مَا هُوَ مَنْسُوخٌ لَا مُتَابَعَةٌ فِيهِ. ①

ترجمہ: جو چیز منسوخ ہواں میں اقتداء نہیں ہوتی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم منسوخ ہو جائے تو اس منسوخ حکم میں اقتداء نہیں کی جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر شافعی المسلک امام فخر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھے تو طرفین رحمہما اللہ کے نزد یک حنفی مقتدی دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، کیونکہ فخر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ب منسوخ ہو چکا ہے، لہذا مذکورہ اصول کی بنیاد پر مقتدی پر دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت میں امام کی اقتداء کرنا درست نہیں، اس لئے کہ منسوخ چیزوں میں متابعت نہیں ہوتی، جیسے کوئی جنازہ میں پانچ تکبیرات کہے تو اس میں اقتداء نہیں ہوگی۔ ②

## باب النوافل

(۱۰۴) إِنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ. ③

ترجمہ: امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل کا حکم کرنا تکرار نہیں چاہتا، یعنی مامور پر وہ کام ایک مرتبہ واجب ہے دوبارہ کرنا واجب نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حسن بصری

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الوتر، ج ۱ ص ۱۵۰، ط: رحمانیہ

② وَلَنَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لِمَا رَوَيْنَا وَلَا مُتَابَعَةٌ فِي الْمَنْسُوخِ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَبَرَ خَمْسًا فِي الْجِنَازَةِ حَيْثُ لَا يَتَبَعُ.

[درر الحکام شرح غور الأحكام: کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، ج ۱ ص ۱۱۳، ط:

دار إحياء الكتب]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۱۵۳، ط: رحمانیہ

رَحْمَةَ اللَّهِ كَنْزٌ دُيُكٌ فِرْضٌ نَمَازٌ مِّنْ صِرَاطٍ أَيْكَ رَكْعَتٍ مِّنْ قِرَاءَتٍ وَاجِبٌ هُوَ، كَيْوَنَكَهُ قُرْآنٌ كَرِيمٌ مِّنْ

اللَّهِ تَعَالَى اِرْشَادٌ فَرِمَاتَهُ هُوَ:

**فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.** (المزمول: ۲۰)

قرآن میں جو آسان لگے اسی کو نماز میں پڑھو۔

لہذا اس آیت میں ”فَاقْرُؤُوا“ امر ہے اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، تو مذکورہ اصول کی بنیاد پر حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت میں قراءت واجب ہے۔ ائمہ احناف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ امر تکرار نہیں چاہتا تو اس کی بنیاد پر صرف ایک ہی رکعت میں قراءت واجب ہے لیکن دوسری رکعت میں ہم جو وجوب قراءت کے قائل ہیں وہ اس وجہ سے کہ دوسری رکعت چونکہ پہلی رکعت کے ساتھ من کل الوجوه مشابہ ہے، تو اسی مشابہت کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ دوسری رکعت میں بھی قراءت واجب ہے۔ پس پہلی رکعت میں قراءت عبارت النص سے ثابت ہے اور دوسری رکعت میں ولالت النص سے ثابت ہے۔ ①

❶ (ولنا قُوله تَعَالَى: فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار) تقدیرہ أن الله تعالى أمرنا بالقراءة مما تيسر من القرآن وذلك في الصلاة بالإجماع والأمر بالفعل يقتضي امثاله، ولا يقتضي التكرار إعادة الشيء بعينه لا إعادة مثل الشيء فاقتضى ذلك أن تكون القراءة في ركعة واحدة كما ذهب إليه الحسن البصري. ( وإنما أوجبنا في الثانية) أي إنما أوجبنا القراءة في الركعة الثانية، وهذا جواب عما يقال إنكم قلتم إن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، وقد أوجبتم القراءة في الركعة الثانية وخالفتم ما قلتم. وتقرير الجواب أن وجوب القراءة في الثانية لا بعبارة النص حتى يلزم ما قلتم وإنما وجوبها في الثانية بدلالة النص وهو معنى قوله (استدلا لا بالأولى) يعني بالرکعة الأولى وبين ذلك بقوله: (لأنهما يتشاكلان من كل وجه) أي لأن البرکعة الأولى والثانية تتشابهان من كل وجه، فلما كان كذلك وجبت في الثانية استدلا لا بالأولى كالحكم في أحد النوعين يناسب في النوع الآخر، وأما تشاكل الثانية للأولى من كل وجه فمن حيث السقوط والوجوب والصفة والقدر فكل من وجبت عليه الأولى وجبت الثانية، وإذا سقطت سقطت. وأما المماثلة في الصفة ففي الجهر والأخير الإخفاء ، وأما المماثلة في القدر ففي ضم السورة مع الفاتحة.

(۱۰۵) إِنْ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ النَّفْلِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ۔ ①

ترجمہ: نفل کی ہر دور رکعت مستقل نماز ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز میں ہر دور رکعت علیحدہ اور مستقل نماز ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ نفل نماز کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، کیونکہ نفل نماز کی ہر دور رکعت مستقل نماز ہے اور اگر دور رکعت میں قرات کرے اور دو میں قراءت نہ کرے تو گویا کہ نماز کا قراءت سے خالی ہونا لازم آئے گا، کیونکہ دور رکعت مستقل نماز ہے اور نماز کو قراءت سے خالی کرنا جائز نہیں ہے یہی توجہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے چار رکعت نفل نماز کے لئے تحریمہ کی تو احناف کے نزدیک اب اس شخص پر اس تحریمہ کی وجہ سے صرف پہلی دور رکعت واجب ہیں، چنانچہ اگر وہ اس نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر صرف دور رکعت کی قضاء واجب ہوگی، اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفل کی ہر دور رکعت مستقل نماز ہے، تیسرا رکعت کا قیام تحریمہ جدید کی طرح ہے، اسی وجہ سے فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ تیسرا رکعت کا آغاز ثناء سے کرے۔ ②

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۱۵۳، ط: رحمانیہ

② وَأَمَّا صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا فَالْقِرَاءَةُ فِي السُّنْنِ فِي الرَّكَعَاتِ كُلُّهَا فَرْضٌ، لَأَنَّ السُّنْنَةَ تَطْوُعُ وَكُلُّ شَفْعٍ مِنْ التَّطْوُعِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ، لِمَا نَذْكُرُ فِي صَلَاةِ التَّطْوُعِ فَكَانَ كُلُّ شَفْعٍ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْقِرَاءَتِ.

[بدائع الصنائع: کتاب الصلاۃ، فصل فی القراءۃ فی سنن الصلاۃ، ج ۱ ص ۲۸۵، ط: دار

الكتب العلمية]

(قَوْلُهُ: وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ الْوُتُرِ) أَمَّا النَّفْلُ فِلَانٌ كُلُّ شَفْعٍ مِنْهُ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ وَالْقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأٍ وَلَهَدَى يَسْتَفْتَحُ فِيهَا وَيَتَعَوَّذُ وَأَمَّا الْوُتُرُ فَلِلإِحْتِيَاطِ، لَأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْفِرْضِ وَالنَّفْلِ لِوُجُودِ عَلَامَةِ الْأُمْرَيْنِ فَاحْتَاطُوا لَهُ بِإِيَاجَابِ الْقِرَاءَةِ لَا حُسْنَمَالِ أَنْ يَكُونَ نَفْلًا وَلَا يَسْتَفْتَحُ فِي الثَّالِثَةِ مِنْهُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يُكْمِلُ تَشْهِدَةَ الْأَوَّلِ لِشَهِيدِهِ بِالْفِرْضِ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الصلاۃ، باب النوافل، ج ۱ ص ۳۷، ط: المطبعة الخيرية]

١٠٦) إِنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ مَا شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ۔ ①

ترجمہ: شروع کرنا اس چیز کو لازم کرتا ہے جس کو شروع کیا ہوا اور اس کو جس کے بغیر شروع کی ہوئی چیز صحیح نہ ہو۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرنا اس چیز کے وجوب کا سبب بنتا ہے جس کو شروع کیا گیا ہو، اور اس چیز کے وجوب کا سبب بنتا ہے جس پر شروع کی ہوئی چیز موقوف ہو، مثلاً نفل نماز شروع کرتے ہی رکعت اولی واجب ہو گئی کیونکہ رکعت اولی (ما شرع فیہ) ہے، اور رکعت اولی کی صحت موقوف ہے رکعت ثانیہ پر، لہذا شروع کرنے سے رکعت ثانیہ بھی واجب ہو گئی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے چار رکعت نفل نماز کی نیت کر لی اور تحریمہ باندھ لی تو اس تحریمہ اولی سے صرف اس شخص پر دو رکعت واجب ہوں گی، اب اگر اس شخص نے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہونے سے پہلے شفع اول فاسد کر دیا تو اب اس شخص پر طرفین کے نزدیک صرف دور رکعت کی قضا واجب ہو گئی نہ کہ چار رکعت کی، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چار رکعت کی قضا واجب ہے۔ طرفین کی دلیل یہ اصول ہے کہ شروع کرنا اس چیز کے وجوب کا سبب ہوتا ہے جس کو شروع کیا ہوا اور اس چیز کے وجوب کا سبب ہوتا ہے جس پر شروع کی ہوئی کی صحت موقوف ہو، تو اسی اصول کی بنیاد پر طرفین فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت تو اس لئے واجب ہو گئی کہ وہ ما شرع فیہ تھی اور دوسری رکعت اس لئے واجب ہو گئی کہ رکعت اولی کی صحت رکعت ثانیہ پر موقوف ہے، رہی بات شفع ثانی (یعنی آخری دو رکعتیں) تو وہ نہ ما شرع فیہ ہے اور نہ اس پر ما شرع فیہ کی صحت موقوف ہے، لہذا شفع اول کو شروع کرنے سے شفع ثانی واجب نہیں ہو گا۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب النوافل، فصل فی القراءۃ، ج ۱ ص ۱۵۵، ط: رحمانیہ

❷ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ مَا شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ إِلَّا بِهِ وَلَا تَعْلُقٌ لِأَحَدٍ الشَّفَعِيُّونَ بِالْآخِرِ وَهَذَا لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الشُّرُوعُ وَلَمْ يُوجَدُ الشُّرُوعُ فِي الشَّفَعِ الثَّانِي مَا لَمْ يُقْمِدْ إِلَى الشَّالِشَةِ فَلَمْ تَقْتَرِنِ النِّيَّةُ بِالسَّبَبِ وَإِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ وَهِيَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْإِيجَابِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، ج ۱ ص ۷۸۱، ط: دار الكتاب الاسلامی]

(۷۰) إِنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ تَرُكُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَىٰ إِنَّمَا يُوْجِبُ  
بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَرُكُ الْقِرَاءَةِ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا يُوْجِبُ  
بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَإِنَّمَا يُوْجِبُ فَسَادَ الْأَدَاءِ وَعِنْدَ أَبِي حَيْنَفَةَ تَرُكُ الْقِرَاءَةِ فِي  
الْأُولَىٰ إِنَّمَا يُوْجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ وَفِي إِحْدَاهُمَا لَا يُوْجِبُ. ①

ترجمہ: امام محمد کے نزدیک پہلی دور رکعتوں میں یا دونوں میں سے ایک رکعت میں قراءت کو ترک کرنا یہ تحریمہ کے بطلان کو ثابت کرتا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک شفیع اول میں قراءت کو ترک کرنا یہ تحریمہ کے بطلان کو ثابت نہیں کرتا، یہ فساد اداء ہی کو ثابت کرتا ہے، امام ابو حینفہ کے نزدیک پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کو ترک کرنا تحریمہ کو باطل کر دیتا ہے اور دونوں میں سے ایک کو ترک کرنا تحریمہ کے بطلان کو ثابت نہیں کرتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کسی آدمی نے شفیع اول کی دونوں رکعتوں میں یا دونوں میں سے ایک رکعت میں قراءت نہ کی تو اس شخص کی تحریمہ باطل ہو جائے گی، لہذا شفیع ثانی کی بنا کرنا شفیع اول پر درست نہیں ہے۔

اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایک آدمی شفیع اول کی دونوں رکعتوں میں قراءت نہ کرے پھر بھی تحریمہ باقی رہے گی البتہ اداء فاسد ہو جائے گی، لہذا اسی شفیع اول پر شفیع ثانی کی بناء کرنا درست ہے۔

اور امام ابو حینفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر شفیع اول کی دونوں رکعتوں میں قراءت ترک کر دی تو تحریمہ باطل ہو جائے گی، البتہ اگر شفیع اول کی ایک رکعت میں قرات ترک کی تو اس سے تحریمہ باطل نہیں ہوگی، لہذا اس پر شفیع ثانی کی بناء درست ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے چار رکعت نفل نماز شروع کی اور پھر کسی رکعت میں بھی قراءت نہیں کی تو اب طرفین کے نزدیک اس پر صرف دور رکعت کی قضا واجب ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چار رکعت

کی قضا کرے گا۔ طرفین کے نزدیک شفع اول میں ترک قراءت کی وجہ سے تحریمہ باطل ہو گئی، تو اب شفع ثانی کا شروع کرنا درست نہیں ہوا، پس گویا اس نے دور کعت کے لئے تحریمہ باندھی تھی اور اسی کو فاسد کیا تو اس پر دور کعت کی قضاء واجب ہے، چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ باطل نہیں ہوئی لہذا شفع ثانی کو شروع کرنا صحیح ہے، لیکن ترک قراءت کی وجہ سے چاروں رکعتیں فاسد ہو گئیں اس لئے چاروں کی قضاء واجب ہے۔ ①

### (۱۰۸) إِنَّ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٍ.

ترجمہ: نماز بہترین موضوع ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نماز خیر موضوع ہے یعنی بندے کے لئے یہ نیکی اس طرح مہیا کر دی گئی ہے کہ جمیع اوقات میں حاصل کر سکتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آدمی نفل کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے کیونکہ نماز خیر موضوع ہے، اور بسا اوقات انسان پر کھڑا ہونا شاق گزرتا ہے تو اب اس کے لئے قیام کو ترک کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر نفل نماز میں قیام کی شرط لگائی جائے تو یہ نفل نماز کو چھوڑنے کا باعث اور سبب ہو سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفل نماز غیر واجب ہے اور جو چیز اس انداز پر ہواں میں ایسی شرط نہیں لگائی جاتی جو اس کے

❶ (وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ جَرَدَ الْأَرْبَعَ عَنِ الْقِرَاءَةِ) أَىٰ يَقُضِى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا لَاَنَّ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ لَمَّا فَسَدَتْ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ بَطَلَتِ التَّحْرِيمَةُ لَاَنَّهَا إِنَّمَا انْعَقَدَتْ لِأَجْلِهَا فَلَمْ يَصُحْ شُرُوعُهُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَيَلْزَمُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّحْرِيمَةِ لِجَوَازِ صَلَاةِ الْأُمَّى بِلَا قِرَاءَةٍ فَيَصُحُّ شُرُوعُهُ فِي الْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ لِإِفْسَادِهَا بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ (أَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحَسْبُ) أَىٰ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا وَقَضَاءُ أَرْبَعٍ عِنْدَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ.

[مجمع الأنہر: کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۱ ص ۱۲۸، ط: دار إحياء التراث]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب النوافل، فصل فی القراءة، ج ۱ ص ۱۵۶، ط: رحمانیہ

چھوڑنے کا سبب ہو، کیونکہ جو ترکِ خیر کا سبب ہو گا وہ خیر نہیں ہو سکتا اور قیام کی شرط لگانا نفل کے چھوڑنے کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات مصلحتی پر قیام شاق ہوتا ہے، پس اگر قیام کو نفل نماز میں شرط قرار دینے کی صورت میں نفل ہی کا ترک کرنا لازم آئے گا حالانکہ نفل خیر موضوع ہے، اس لئے نفل نماز کے لئے قیام کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ①

(۱۰۹) إِنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ. ②

ترجمہ: نوافل کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کسی وقت کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ ہمه اوقات میں ادا کئے جاسکتے ہیں۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مسافر آدمی شہر سے باہر نفل نماز سواری پر پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، چاہے عذر ہو یا نہ ہو اور سواری جس جہت کی

❶ وَإِنَّمَا جَازَتِ النَّافِلَةُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، لَأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ وَرَبِّمَا يَشْتَقُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ كَمْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْ هَذَا الْخَيْرِ الْمَوْضُوعِ وَقِيدٌ بِالنَّافِلَةِ احْتِرَازًا عَنِ الْقِرْضِ وَالْوِتْرِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب النوافل، ج ۱ ص ۷۲، ط: المطبعة الخيرية]

(وَيَسْتَفْلُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً) أَمَّا الْابْتِدَاءُ فَلِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نُصْفٌ أَجْرٍ الْقَائِمِ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّفَلُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعُذْرِ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النُّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَالْفَرْضُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمْرِهِ بْنِ حُصَيْنِ صَلَّى فَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا الْحَدِيثَ، فَتَعَيَّنَ النَّفَلُ مُرَادًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَلَأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ فَرَبِّمَا يَشْتَقُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَجَازَ تَرْكُهُ كَمْ لَا يَتُرُكُهُ أَصْلًا.

[تبیین الحقائق: كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۱ ص ۷۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في القراءة، ج ۱ ص ۱۵۶، ط: رحمانیہ

طرف بھی متوجہ ہو یعنی استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اترنے اور استقبال قبلہ کی شرط لگا کیسے گے تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر جہت قبلہ ہو کرنل نماز پڑھنا شروع کرے تو اس سے قافلہ نکل جائے گا اور اگر نہ پڑھے تو اس سے نفل نماز رہ جائے گی، جبکہ نفل نماز خیر موضوع ہے۔ ①

## باب إدراك الفريضة

(۱۱۰) إِنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. ②

ترجمہ: فرض ایک وقت میں مکر نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں فرض مکر نہیں ہوتا یعنی ایک وقت میں ایک ہی فرض کو دو مرتبہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی انفرادی طور پر مثلاً ظہر کی تین رکعت پڑھ چکا تھا پھر جماعت کھڑی ہو گئی تو اب یہ شخص اپنی چار رکعت کو پورا کرے اور پھر لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اس لئے کہ یہ شخص ظہر کی اکثر نماز پڑھ چکا ہے اور اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، صرف ایک رکعت باقی ہے اسے مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو، اب امام کے ساتھ اس کی نیماز نفل ہو گئی نہ کہ فرض، کیونکہ فرض تو یہ ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے اور مذکورہ قاعدے کی بنیاد پر فرض میں تکرار جائز نہیں ہے، لہذا اس کی یہ جماعت کے ساتھ نماز نفل ہی ہو گئی نہ کہ فرض۔ برخلاف اس کے تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو دو رکعت پر سلام پھیر دے اور جماعت کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائے، اب پہلی دور کعینیں

① (وَرَأَيْتَ حَارِجَ الْمِصْرِ مُومِيَا إِلَى أَيْ جِهَةٍ تَوَجَّهُتْ ذَائِفَةُ) أَيْ وَيَتَنَفَّلُ رَأِيْكَا لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ لِكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنْ الرُّكُوعِ وَيُوْمِيِّ إِيمَاءَ وَلَأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُحْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ فَلَوْلَزَ مُنَاهَ النُّزُولَ وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ تَنْقِطُ عَنْهُ النَّافِلَةُ أَوْ يَنْقِطُ هُوَ عَنِ الْقَافِلَةِ، وَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَمُحْتَصَّةٌ بِوَقْتٍ فَلَا تَجُوزُ عَلَى الدَّائِبَةِ إِلَّا لِلْمُضْرُورَةِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۱ ص ۷۷، ط: دار الكتاب الإسلامي]

② الهدایۃ: کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۱ ص ۱۵۸، ط: رحمانیہ

نفل ہو جائیں گی، اور جماعت کے ساتھ نماز فرض ہو گی۔ ①

(۱۱) إِنَّ الْقَضَاءَ إِخْتَصَّ بِالْوَاجِبِ.

ترجمہ: قضا واجب کے ساتھ خاص ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ قضا کرنا صرف فرض اور واجب کے ساتھ خاص ہے نہ کہ نوافل کے ساتھ یعنی نوافل کی قضائیں ہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے فخر کی دور کعت سنتیں قضا ہو گئیں تو شیخین کی نزدیک اب یہ شخص نہ طلوع شمس سے پہلے ان کی قضاء کرے اور نہ طلوع شمس کے بعد، کیونکہ یہ سنت ہے اور مذکورہ اصول کی بنیاد پر قضا صلاۃ واجبہ کے ساتھ خاص ہے نہ کہ سنن اور نوافل کے ساتھ، لہذا یہ سنتوں کی قضائیہ کرے۔ قضا واجب کے ساتھ اس لئے خاص ہے کہ قضا نام ہے ”مثُلَّ مَا وَجَبَ بِالْأَمْرِ“، کو سپرد کرنے کا، سنن چونکہ واجب نہیں ہیں اس لئے مثل واجب کو سپرد کرنا کیسے تحقق ہو سکتا ہے؟ ②

❶ (قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى ثَلَاثًا يُتْمُ وَيَقْتَدِي مُتَطَوِّعًا) لِأَنَّ لِلْأُكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فَلَا يَحْتَمِلُ النَّقْضُ وَإِنَّمَا يَقْتَدِي مُتَطَوِّعًا لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ فِي الْحَاوِي الْقُدُّسِيِّ أَنَّ مَا يُؤَدَّى مَعَ الْإِمَامِ نَافِلَةً يُدْرِكُ بِهَا فَضْيَلَةُ الْجَمَاعَةِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعَصْرُ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَدِي بَعْدَهَا لِمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَلَهَذَا قَيْدٌ بِالظَّهَرِ وَقَيْدٌ بِالثَّلَاثِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْثَّالِثَةِ وَلَمْ يُقْيِدُهَا بِالسَّجْدَةِ فَإِنَّهُ يُقْطِعُهَا لِأَنَّهُ بِمَحَلِ الرَّفْضِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲ ص ۷۸، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۱ ص ۱۲۰، ط: زمانیہ

❸ (قَوْلُهُ وَلَمْ تُقْضَ إِلَّا تَبَعَا) أَيْ لَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ فَسُقْضَى تَبَعًا لِلْفَرْضِ سَوَاءْ قَضَاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ لَا تُقْضَى لَا خِصَاصٍ لِلْفَرْضِ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَلَهَذَا قَيْدٌ بِالظَّهَرِ وَقَيْدٌ بِالثَّلَاثِ فِي غَدَاءِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ فَبَقَى مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج ۲ ص ۸۰، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## باب قضاء الفوائت

(۱۱۲) إِنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ مُسْتَحْقٌ۔ ①

ترجمہ: فوت شدہ نمازوں اور وقتی فرض نماز کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا تعلق صاحب ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی صاحب ترتیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی فوت شدہ نمازوں اور وقتی فرض کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھے یعنی پہلے فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے بعد میں فرض وقت کو ادا کرے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اگر صاحب ترتیب سے مثلاً ظہر کی نمازوں کی فوت ہو گئی اور اب عصر کی نمازوں کا وقت ہے تو مذکورہ اصول کی بنیاد پر پہلے ظہر کی قضا کرے بعد میں فرض وقت یعنی عصر کو ادا کرے۔ ②

(۱۱۳) إِنَّ التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِضيقِ الْوَقْتِ وَكَذَا بِالنِّسِيَانِ وَكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ۔ ③

ترجمہ: وقت کی تنگی، نسیان اور فوت شدہ نمازوں کی کثرت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔

شرح: صاحب ترتیب شخص کی ترتیب تین اسباب سے ساقط ہو جاتی ہے:

۱..... جب وقت تنگ ہو یعنی فائتہ نماز میں مشغول ہونے سے وقتی نماز کے فوت ہونے کا

اندیشہ ہو۔

۲..... فوت شدہ نمازوں کو بھول جائے۔

۳..... فوت شدہ نمازوں کی تعداد چھ (۶) سے زیادہ ہو جائے۔

مذکورہ اصول کو صاحب ہدایہ ذکر کرنے کے بعد اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر صاحب ترتیب سے مثلاً ظہر کی نمازوں کی قضا ہو گئی اور اب عصر کا آخری وقت ہے، اگر یہ فوت شدہ نمازوں کی قضا

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، ج ۱ ص ۱۶۱، ط: رحمانہ

② أَنَّ مُرَاغَةَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَبَيْنَ فَرْضِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ إِلَّا فِي حَالَةِ النِّسِيَانِ أَوْ ضيقِ الْوَقْتِ أَوْ كُثْرَةِ الْفَوَائِتِ.

[المبسوط للسرخسی: کتاب الصلاۃ، باب نوادر الصلاۃ، ج ۲ ص ۸۷]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، ج ۱ ص ۱۶۱، ط: رحمانیہ

کرے گا تو تنگی وقت کی بنا پر اس سے وقت نماز فوت ہو جائے گی، تو اب یہ شخص وقت نماز پڑھے اور بعد میں فوت شدہ نماز کی قضا کرے، کیونکہ مذکورہ اصول کی بنیاد پر اب وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے اس سے ترتیب ساقط ہو چکی ہے، لہذا پہلے وقت نماز پڑھے اور بعد میں فوت شدہ کی قضا کرے۔ اسی طرح اگر فاسنہ نماز کو بھول جائے، یا فوت شدہ نمازوں کی کثرت ہو جائے تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اب ایسا شخص وقتیہ نماز کو پہلے ادا کرے اس لئے کہ ادا کا مقام فاسنہ یعنی قضاء سے اعلیٰ وارفع ہے۔ ①

(۱۱۲) إِنَّ الْفَرُصِيَّةَ إِذَا بَطَلَتْ بَطَلَتِ التَّحْرِيمَةُ أَصْلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الشَّيْخِينَ لَا يَبْطُلُ. ②

ترجمہ: امام محمد کے نزدیک جب فرضیت باطل ہو جائے تو اصل تحریمہ بھی باطل ہو جائے گی، اور شیخین کے نزدیک اصل تحریمہ باطل نہیں ہوگی۔

شرط: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب ترتیب شخص نے عصر کی نماز کو آخری وقت سے پہلے ادا کیا تو اس صورت میں اس کی عصر کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ذمے ظہر کی قضا واجب ہے، لہذا ترتیب فوت ہونے کی وجہ اس کی نماز عصر فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس نے عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں ادا کی تو اس کی یہ نماز درست ہے کیونکہ تنگی وقت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گئی ہے۔ اب پہلی صورت میں جو عصر کی نماز فاسد ہو گئی تو کیا یہ فساد و صفت تک محدود ہو گایا اصل صلاۃ بھی اس کی زد میں آئے گی؟ چنانچہ شیخین کے نزدیک یہ فساد و صفت صلاۃ تک محدود ہو گا اصل صلاۃ میں اس پر کوئی اثر نہیں ہو گا، لہذا اس وصف (فرض ہونا) تو باطل

❶ (قُولُهُ: وَقَدَمَهَا عَلَى صَلَاتِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ صَلَاتِ الْوَقْتِ عَلَى الْفَاتِيَّةِ ثُمَّ يَقْضِيهَا) التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا شَرْطٌ مُسْتَحْقٌ وَيُسْقَطُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ ضِيقُ الْوَقْتِ وَالنُّسُيَانُ وَدُخُولُ الْفَوَائِتِ فِي حَيْزِ التَّكْرَارِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائد، ج ۱ ص ۲۷، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائد، ج ۱ ص ۱۶۳، ط: رحمانیہ

ہو جائے گا، البتہ اصل نماز اس کے حق میں نفل اور تطوع ہوگی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وصف اور اصل صلاۃ دونوں باطل ہوں گی۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے، اگر کسی شخص نے تنگستی اور غربت کی وجہ سے کفارہ بیمین کے اندر تین روزے رکھنا شروع کئے، ایک دو روزے کے بعد وہ مالدار ہو گیا تو اب اس کے لئے غلام آزاد کرنا یا اطعمام یا کسوہ سے کفارہ دینا ضروری ہوگا، ان تینوں پر عدم قدرت کی صورت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، پس جب اس نے تنگستی کی وجہ سے روزے کے ساتھ کفارہ ادا کرنا شروع کیا لیکن اس دوران مالدار ہو گیا تو اس روزے کا وصف وقوع کفارہ باطل ہو جائے گا، لیکن اصل روزہ باطل نہیں ہوگا، اور یہ روزہ نفل شمار ہوگا، اسی طرح صورتِ مسئول میں مصلحی کا وصف ”فرض ہونا“ باطل ہوگا اور اصل نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل شمار ہوگی۔ ①

❶ (وَبِطْلَانِ الْفَرُصِيَّةِ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ) عِنْدَ الشَّيْخِينَ (خَلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لَأَنَّ التَّحْرِيمَةَ عُقِدَتْ لِلْفَرْضِ فَإِذَا بَطَلَتِ الْفَرُصِيَّةُ بَطَلَتْ أَصْلًا وَلَهُمَا أَنَّهَا عُقِدَتْ لِأَصْلِ الصَّلَاةِ بِوَضْفِ الْفَرُصِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ بُطْلَانِ الْوَضْفِ بُطْلَانُ الْأَصْلِ.

[مجمع الأئمہ: کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، ج ۱ ص ۱۲۵، ط: المطبعة الخیریۃ]

(لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ) حَتَّى لَوْ قَهْقَةَ بَعْدَ التَّذَكُّرِ لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ بُطْلَانِ الْوَضْفِ بُطْلَانُ الْأَصْلِ) یعنی لَيْسَ الْمَوْجُودُ مِمَّا يَبْطُلُ أَصْلَ الصَّلَاةِ كَالْحَدَثِ بَلْ وَضْفُ الْفَرُصِيَّةِ. وَلَا تَلَازُمُ بَيْنَ بُطْلَانِ الْوَضْفِ وَبُطْلَانِ الْأَصْلِ كَالْمُكَفَّرِ بِالصَّوْمِ إِذَا أَيْسَرَ فِي خَلَالِ الْيَوْمِ لَا يَبْطُلُ صُومُهُ فَيَصِيرُ مُفْطِرًا بَلْ يَبْطُلُ وَضْفُ وَقُوَّعَهُ كَفَارَةً.

[فتح القدير: کتاب الصلاۃ، باب قضاء الفوائت، ج ۱ ص ۳۹۶، ط: دار الفکر]

## باب سجود السهو

(۱۱۵) إِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ. ①

ترجمہ: سجدہ سہوان چیزوں میں سے ہے جو مکر نہیں ہوتے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشیاء ایسی ہیں جن میں تکرار نہیں ہوتا اور سجدہ سہوان بھی ان اشیاء میں سے ہے یعنی سجدہ سہو میں بھی تکرار نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک چاہے نماز میں زیادتی ہو جائے یا کمی، ایک ہی سجدہ سلام کے بعد واجب ہوتا ہے نہ کہ سلام سے پہلے، دراصل یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے احتراز ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں کمی کی صورت میں سلام سے پہلے سجدہ کرے اور زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا اولی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک دونوں صورتوں میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اگر سلام سے پہلے سجدہ کرے تو اس صورت میں تکرار آئے گا، جبکہ مذکورہ اصول کی رو سے سجدہ سہو میں تکرار نہیں ہے۔ اس لئے کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنے میں تکرار کا امکان ہے باس طور کہ سلام سے پہلے سجدہ کر لیا پھر جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اس کوشک ہو گیا کہ تین رکعتیں ہوئیں یا چار ہوئیں، اسی سوچ میں پڑا رہا یہاں تک کہ سلام میں تاخیر ہوئی پھر یاد آیا کہ چار رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب تاخیر سلام کی وجہ سے اس پر دوبارہ سجدہ سہو واجب ہوا، اب یہ شخص دوبارہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں، دو ہی صورتیں ہیں، اگر اس نے دوبارہ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز میں ایسا نقص باقی رہ گیا جس کی تلافی نہیں کی گئی ہے اور اگر دوبارہ سجدہ ہو گیا تو سجدہ سہو مکر ہو جائے گا، حالانکہ یہ بالاجماع غیر مشرع ہے، اس لئے مناسب یہ ہے کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے تاکہ تمام سہووں کی تلافی ممکن ہو۔ ②

① الہدایہ: کاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۲۳، ط: رجمانیہ

② (وَلَأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ) ذَلِيلٌ مَعْقُولٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ التَّاخِرِ، وَبِيَانِهِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ كَانَ يَنْبَغِي أَلَا يَتَأَخَّرَ عَنْ زَمَانٍ وُجُودِ الْعِلْمِ وَهِيَ السَّهْوُ إِلَّا أَنَّهُ تَأَخَّرَ لِضَرُورَةٍ أَلَا يَتَكَرَّرُ، لَأَنَّهُ =

(۱۱۶) إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ. ①

ترجمہ: دعا کا مقام نماز کا آخری حصہ ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا محل نماز کا آخر ہے، یعنی نماز کے آخر میں دعا ہوتی ہے نہ کہ درمیان میں۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سہو کے قعدے میں درود اور دعا پڑھی جائے گی (قعدہ سہو سے مراد سجدہ کے بعد کا قعدہ ہے) کیونکہ دعا کا محل آخر صلاة ہے، لہذا مذکورہ اصول کی بنیاد پر درود اور دعا بھی سہو کے قعدے کے بعد پڑھی جائے کیونکہ یہ نماز کا آخر ہے۔ ②

(۷۱) إِنَّ سَجْدَةَ السَّهُوِ لَا تَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ تَأْخِيرٍ

رُكْنٌ سَاهِيًّا. ③

= إِذَا سَجَدَ زَمَانَ سَهُوٍ وَمُمْكِنٌ أَنْ يَسْهُوَ بَعْدَهُ فَإِنْ سَهَا فَإِمَّا أَنْ يَسْجُدَ ثَانِيًّا أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَقِيَ نَفْصُلُ لَازِمٌ لَا جَبَرُ لَهُ، وَإِنْ سَجَدَ تَكَرَّرُ السَّجْدَةُ وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِالْجَمَاعِ فَلَزِمَ التَّأْخِيرُ.

[العنایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۵۰۰، ط: دار الفکر]

وَلَا خِلَافٌ فِي الْجَوَازِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدُهُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِمَا وَالتَّرْجِيحُ لِمَا قُلْنَا مِنْ جَهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ السَّلَامَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَيُقْدَمُ عَلَى سُجُودِ السَّهُوِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، وَلَأَنَّ سُجُودَ السَّهُوِ مِمَّا لَا يَتَكَرَّرُ فَيُؤْخَرُ عَنِ السَّلَامِ حَتَّى لَوْ سَهَا عَنِ السَّلَامِ يَتَجَبِرُ بِهِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۹۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۲۳، ط: زرمانیہ

② أَنَّهُ يَاتِي بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهُوِ لَاَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۰۱، ط: دار الكتاب الاسلامی]

وَيَاتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهُوِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَاَنَّ مَوْضِعَهُمَا آخِرُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۹۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۲۵، ط: زرمانیہ

تَرْجِمَة: سُهُو واجب نہیں ہوتا مگر واجب کے ترک کرنے پر یا واجب میں تاخیر کرنے پر یا

بھول کر رکن میں تاخیر کرنے پر۔

**تشریح:** مذکورہ اصول میں ان امور کا ذکر ہے جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور وہ امور

یہ ہیں:

۱..... واجب کے ترک کرنے پر۔

۲..... واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرنے پر۔

۳..... کسی رکن کی ادائیگی میں تاخیر کرنے پر۔

کسی رکن کو عدم اترک کرنے سے نماز فاسد اور واجب الاعداد ہو گی سجدہ سہو کافی نہ ہو گا۔ اسی طرح نماز میں سنت یا مستحب کے ترک کرنے پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی مصلحتی نے نماز میں ایسے فعل کا اضافہ کیا جو جنس صلاۃ میں سے ہو مگر نماز کا جز نہ ہو، مثلًا دو سجدہ کے بجائے تین یا چار سجدہ کر لئے، تو اس صورت میں مصلحتی پر سجدہ سہو واجب ہو گا، وجہ یہ ہے کہ یہ اضافہ کرنا تاخیر رکن یا تاخیر واجب سے خالی نہیں۔ پہلی رکعت میں دو سجدوں کے بجائے تین یا چار سجدہ کرنے تو اب اس صورت میں رکن میں تاخیر ہوئی کیونکہ دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا رکن ہے۔ اسی طرح سلام سے پہلے سوچنے لگا کہ میں نے دور کعت پڑھی ہے یا تین تو اس صورت میں واجب یعنی سلام میں تاخیر ہوگئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سجدہ سہو یا تو بھول کر کسی واجب (مثلًا قعدہ اولی وغیرہ) کو ترک کرنے سے واجب ہو گا، یا کسی واجب کو موخر کرنے (مثلًا دور کعت والی نماز میں بھول کر قعدہ آخرہ کے بعد کھڑا ہونے) سے واجب ہو گا، کیونکہ اس صورت میں سلام میں تاخیر ہوئی ہے، یا بھول کر کسی رکن کو موخر کرنے سے واجب ہو گا، مثلًا ایک رکعت میں تین سجدے کر لئے تو قیام جو رکن ہے اس میں کھڑے ہونے میں تاخیر ہوئی۔ ①

① (قَوْلُهُ: وَالسَّهُوُ يَلْزَمُهُ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا) فِي قَوْلِهِ يَلْزَمُهُ تَضْرِيغٌ

بِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَأَنَّهُ شُرِعَ لِجَبِرِ النُّقْصَانِ فَكَانَ وَاجِبًا كَالدَّمَاءِ فِي الْحَجَّ وَإِذَا =

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

①) إِنَّ النُّقْصَانَ الْمُتَمَكِّنَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ مُتَمَكِّنٌ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ.

ترجمہ: وہ نقصان جو امام کی نماز میں ثابت ہو جائے تو وہ مقتدیوں کی نماز میں بھی ثابت ہو گا۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ کمی بیشی مقتدیوں کی نماز میں بھی ثابت ہو گی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کی غلطی مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب کرتی ہے، یعنی اگر امام سے نماز میں ایسا سہو ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس صورت میں مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہو گا امام کی اقتداء کی وجہ سے۔ ②

②) إِنَّ تَقْرُرَ السَّبِبِ الْمُوْجِبِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ تَقْرُرُ فِي حَقِّ تَابِعِهِ.

ترجمہ: اصل کے حق میں سببِ موجب کا ثابت ہونا یہ اس کے تابع کے حق میں ثابت ہونا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو سببِ موجب اصل کے حق میں ثابت ہوتا ہے تو وہ سببِ اصل کے تابع کے حق میں بھی ثابت ہو گا کیونکہ تابع اصل کا نائب ہے، جیسے مذکورہ بالا اصول میں امام کی غلطی سے مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس پر تفریغ کر رہے ہیں کہ امام کی نیت

= كَتَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ بِتَأْخِيرِ رُكُنٍ سَاهِيًّا، وَقَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا أُحْتَرِزَ عَنْ غَيْرِ جِنْسِهَا كَتَقْلِيبِ الْحَجَرِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا أَوْ مُفْسِدًا.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۲۷، ط: المطبعة الخيرية]

① الهدایۃ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۲۵، ط: زرمانیہ

② (وسهو الإمام يوجب على المؤتمم السجود) السجود منصوب لأنّه مفعول يوجب (التقرّر السبب الموجب في حق الأصل) أراد بالسببية السهو، وبالاصل الإمام، فلما وجب عليه وجب على من خلفه، لأنّ النقصان المتمكن في صلاته متمكن في صلاة القوم، لأنّ صلاتهم متعلقة بصلاته صحة وفسادا، فوجب عليهم السجود.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۲ ص ۲۱۶، ط: دار الكتاب العلمیہ]

③ الهدایۃ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۲۵، ط: زرمانیہ

اقامت سے مقتدى پر بھی اقامت کا حکم لازم ہوتا ہے، یعنی اگر مسافر امام نے دورانِ نماز اقامت کی نیت کر لی اب امام پر دو کے بجائے چار رکعت لازم ہوئی، تو اس امام کی نیت اقامت سے مقتدى بھی مقیم شمار ہو گا اور مقتدى کی بھی شائی نماز رباعی ہو جائے گی، اگرچہ مقتدى نے اقامت کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ مذکورہ اصول کی بنیاد پر مقتدى کے حق میں بھی سببِ وجہ ثابت ہو گا۔ ①

(۱۲۰) إِنَّ مَا يَقْرُبُ مِنِ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ. ②

ترجمہ: جو کسی شئ سے قریب ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کا حکم لے لیتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شئ اور قریب شئ کا حکم ایک ہوتا ہے، یعنی جو چیز کسی چیز کے قریب ہو تو اس شئ مقرب کا وہی حکم ہوتا ہے جو مقرب منہ کا ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مصلحت بھولے سے قعدہ اولی سے کھڑا ہو گیا اب اگر وہ اقرب الی القعود ہو یعنی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو تو دوبارہ بیٹھ جائے اور قعدہ کرے اور تشهد پڑھے اور سلام پھیر دے، کیونکہ جب مصلحت ایسی حالت پر تھا جو اقرب الی القعود تھی تو مذکورہ اصول کی بنیاد پر یہ قعود کے حکم میں ہو گا گویا کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، اس لئے اس پر بحده سہولازم نہیں ہو گا۔ ③

(۱۲۱) إِنَّ سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ السَّهُوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلَاةِ أَصْلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ،

① ولأجل تقرر السبب الموجب في حق الأصل (يلزم) أي يلزم المؤتم (حكم الإقامة بنية الإمام) يعني إذا نوى الإمام في وسط صلاته الإقامة بصير فرضهم أربعا، وإن لم يوجد من القوم النية.

[البنياۃ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۲ ص ۱۱۶، ط: دار الكتب العلمية]

② الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۱۲۶، ط: زرمانیہ

③ (وَمَنْ سَهَا عَنِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَدَكَّرَ وَهُوَ إِلَى الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ وَتَشَهَّدَ) لَأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنِ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهُو هُوَ الصَّحِيحُ كَانَهُ لَمْ يَقُمْ.

[الاختیار لتعلیل المختار: کتاب الصلاۃ، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۷۷، ط: مطبعة الحلبي]

وَعِنْدَ الشَّيْخِينَ يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوْقُفِ. ①

ترجمہ: اس آدمی کا سلام پھیرنا جس پر سجدہ ہے واجب ہو تو امام محمد کے نزدیک یہ سلام اس کو نماز سے بالکل نہیں نکالتا اور شیخین کے نزدیک توقف کے طور پر نکالتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پر سجدہ ہے وہ باقی تھا بھی تک اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تھا کہ سلام پھیر دیا، اب یہ سلام پھیرنا اس آدمی کو نماز سے نکال دیتا ہے یا نہیں؟ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سلام بالکل مصلی کو نماز سے نہیں نکالتا، گویا کہ وہ اب بھی نماز میں ہے، جبکہ شیخین کے نزدیک یہ سلام موقوفاً اس کو نکالتا ہے، یعنی اگر سجدہ ہے وہ کرے تو یہ داخل فی الصلاۃ شمار ہو گا ورنہ خارج عن الصلاۃ ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے سلام پھیر دیا جبکہ اس مصلی پر سہو کے دو سجدے باقی تھے دوسرا شخص اس کے ساتھ نماز میں داخل ہو گیا تو اب اس شخص کی اقتداء درست ہو گی یا نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک اگر امام نے سہو کا سجدہ کر لیا تو اقتداء درست ہو گی ورنہ نہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً اقتداء درست ہو گی چاہے امام سجدہ کرے یا نہ کرے، اور اس اختلاف کی بنیاد مذکورہ مختلف فیہ اصل ہے۔ ②

(۱۲۲) إِنَّ النِّيَّةَ إِنْ كَانَتْ مُغَيَّرَةً لِلمَشْرُوعِ تَلْغُوُ. ③

❶ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، ج ۱ ص ۱۶۷، ط: رحمانیہ

❷ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا) قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ صَحِيحٌ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ لَأَنَّ عِنْدَهُ سَلَامٌ مَنْ عَلَيْهِ السَّهُوُ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلَاةِ أَصْلًا لَأَنَّهَا وَجَبَتْ جَبَرًا لِلنُّفَصَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْرَامِ الصَّلَاةِ وَعِنْدُهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوْقُفِ لَأَنَّهُ مُحَلَّ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَذَاءِ السَّجْدَةِ فَلَا تَظَهُرُ دُونَهَا وَلَا حَاجَةُ عَلَى اعْتِباِرِ عَنْدَمِ الْعَوْدِ وَيَظْهُرُ الْاِخْتِلَافُ فِي صَحَّةِ الْاِقْتِدَاءِ وَفِي اِنْقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَهَةِ وَتَغْيِيرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الِإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، ج ۲ ص ۱۱۵، ط: دار الكتاب الاسلامی]

❸ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، ج ۱ ص ۱۶۷، ط: رحمانیہ

ترجمہ: اگر نیت مشروع کو تبدیل کرنے والی ہوتا وہ نیت لغو ہو جائے گی۔

تفسیر: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نیت کرنا جو مشروع کو تبدیل کرنے والی ہوتا وہ نیت خود لغو ہو جائے گی اور مشروع تبدیل نہیں ہو گا بلکہ مشروع ہی رہے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر مصلحی پر سجدہ سہو باقی تھا کہ اس نے سلام پھیر دیا اور اس سلام سے نماز کے ختم کا ارادہ بھی کیا تو ابھی اس مصلحی پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے اگرچہ سلام پھیر لیا ہو، اس لئے کہ یہ سلام نماز کو ختم کرنے والا نہیں ہے اور اس نے مشروع کو تبدیل کرنے کی جو نیت کی تھی وہ نیت بھی لغو ہو جائے گی اور اس نیت سے مشروع تبدیل نہیں ہو گا، کیونکہ امرِ مشروع کی تغیر بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ①

❶ (قَوْلُهُ لَأَنَّ هَذَا السَّلَامُ غَيْرُ قَاطِعٍ) لَأَنَّهُ فِي مَحَلِّهِ بَعْدَ الْقَعْدَةِ فَهُوَ مُحَلَّ مِنْهُ، وَيَتَّهَمُ تَغْيِيرُ  
الْمُشْرُوعِ وَهُوَ الْقَطْعُ لِيُرَتَبَ عَلَيْهِ تَرْكُ السُّجُودِ، وَالنِّيَّةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْعَمَلِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ  
عَلَيْهِ لَا يُؤَثِّرُ إِبْطَالُ مَا رُكِّنَهُ أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ وَهُوَ السُّجُودُ فَلَغَثُ، بِخَلَافِ نِيَّةِ الْكُفُرِ فَإِنَّهَا تُؤْثِرُ  
إِبْطَالَ الْإِيمَانِ وَالْعِيَادَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، لَأَنَّ رُكِّنَهُ عَمَلُ الْبَاطِنِ فَقَطْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَالْإِقْرَارُ إِنَّمَا  
هُوَ شَرْطٌ إِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ فَرْضٌ فِيهِ.

[فتح القدير: كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ج ۱ ص ۵۱۶، ط: دار الفكر]

## باب صلاة المريض

(۱۲۳) إِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ. ①

ترجمہ: اطاعت کرنا طاقت کے مطابق ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اطاعت کرنا اور شریعت کے احکام کی بجا آوری کرنا یہ انسان کی طاقت کے بقدر ہے، جو طاقت سے ماوراء ہے اس کا انسان مکلف نہیں ہے، کیونکہ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کر کے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر مرض نماز میں قیام سے عاجز ہو جائے، کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجده کرے، اور اگر رکوع اور سجده کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر رکوع اور سجده اشارے سے کرے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے اور اگر اس کے لئے قیام کو ضروری قرار دیں تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے اور یہ جائز نہیں، کیونکہ اطاعت بقدر طاقت ہے، لہذا مذکورہ اصول کی بنیاد پر اس شخص کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ ②

(۱۲۴) إِنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنَعٌ. ③

ترجمہ: رائے سے بدل مقرر کرنا منوع ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے کسی عبادت یا کسی رکن کا بدل مقرر کرنا جائز نہیں ہے، شریعت نے جس عبادت کا بدل یا جس رکن کا بدل مقرر کیا ہے وہی بدل رہے گا، اگر شریعت نے بدل مقرر نہیں کیا تو از خود اپنی رائے سے بدل مقرر کرنا منوع ہے۔

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المريض، ج ۱ ص ۱۲۸، ط: زمانیہ

② (قُولُهُ وَمُؤْمِيًّا إِنْ تَعَذَّرَ أَىٰ يُصَلِّي مُؤْمِيًّا وَهُوَ قَاعِدٌ إِنْ تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَلَا إِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المريض، ج ۲ ص ۱۲۱، ط: دار الكتاب الإسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المريض، ج ۱ ص ۱۲۹، ط: زمانیہ

صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر مریض کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سر کے ساتھ بھی اشارہ کرنے کی قدرت باقی نہ رہی تو اس صورت میں نماز کو موخر کر دیا جائے گا، آنکھوں اور بھنوؤں سے اشارہ کرنا کافی نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشارہ درحقیقت رکوع اور سجدے کا بدل ہے اور بدل کارائے سے مقرر کرنا منوع ہے۔ حدیث کے اندر فقط سر کے ساتھ اشارہ کا ذکر ہے، نہ کہ آنکھ وغیرہ کے ساتھ، پس اگر ان چیزوں کے ساتھ اشارہ کی اجازت دیدی جائے تو اس صورت میں بدل کا اپنی رائے سے مقرر کرنا لازم آئے گا، جبکہ مذکورہ اصول کی رو سے بدل کارائے سے مقرر کرنا منوع ہے۔ ①

(۱۲۵) إِنَّ مَنْ يَفْهَمُ مَضْمُونَ الْخُطَابِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضِيَّةُ. ②

ترجمہ: جو مضمون خطاب کو سمجھتا ہے اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کے حکم ادا کو سمجھتا ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہو گی اگرچہ با فعل مہلت دی جا چکی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا مرض اس قدر بڑھ گیا کہ وہ سر کے ساتھ اشارہ کرنے پر بھی قادر نہ رہا تو ایسے مریض کے ذمہ سے نماز ساقط نہ ہو گی بلکہ نماز ذمہ میں باقی رہے گی، صحیت یا ب ہونے پر قضا واجب ہو گی، اگرچہ یہ حالت ایک دن رات سے زائد ہو بشرطیکہ مریض اس عرصہ میں باہوش ہو، اور وہ لوگوں کی

❶ أن نصب الأبدال بالرأى ممتنع والنص ورد بالأيماء بالرأى على خلاف القياس فلا يقاس عليه.

[حاشية الطحاوى على مراقب الفلاح: كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ص ۳۳۲، ط:

دار الكتب العلمية]

بِأَنَّ الْإِيمَاءَ عِبَارَةٌ عَنِ الإِشَارَةِ، وَالإِشَارَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالرَّأْيِ، فَأَمَّا الْعَيْنُ يُسَمَّى إِنْحَاءً، وَلَا يُسَمَّى إِيمَاءً، وَبِالْقَلْبِ يُسَمَّى نِيَّةً وَعَزِيمَةً وَبِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا تَتَأَدَّى الصَّلَاةُ، وَنَصْبُ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ.

[المبسot للسرخسى: كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ص ۲۱، ط: دار المعرفة]

❷ الهدایہ: كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۱ ص ۱۴۹، ط: زمانیہ

شناخت اور ان سے بات چیت وغیرہ کرنے پر قادر ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ شخص مضمون خطاب یعنی "أَفِيمُوا الصَّلَاةَ" وغیرہ کا مفہوم سمجھ رہا ہے اور مفہوم خطاب سمجھنے والے سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا، یہی صحیح قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مریض افاقہ وہوش میں ہے تو یہ مضمون خطاب کو سمجھتا ہے اور جو مضمون خطاب کو سمجھتا ہے تو اس کے ذمہ سے نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا اس کے ذمہ سے بھی نماز ساقط نہ ہوگی۔ البتہ بالفعل مہلت دی جائے گی، اس کے برخلاف وہ شخص جو ایک دن ایک رات سے زائد بے ہوش رہا کیونکہ یہ فہم خطاب سے عاجز ہے لہذا اس کے ذمہ سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ ①

(۱۲۶) إِنْ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ إِلَى السَّجْدَةِ. ②

ترجمہ: قیام کی رکنیت بذریعہ قیام سجدہ اداء کرنے کے وسیلے کے لئے ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں قیام (کھڑا ہونا) اس لئے رکن ہے کہ یہ سجدے کی طرف وسیلہ اور ذریعہ ہے۔

❶ (قُولُهُ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ بِرَأْسِهِ أَخْرَ الصَّلَاةِ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إِذَا بَلَغَ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِذَا كَانَ مُفِيقًا وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَا نَهُ يُفْهَمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ بِخَلَافِ الْمُغْمَمِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ قَاضِي خَانٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَسْقُطُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، لَا نَهُ مَجْرِدُ الْعُقْلِ لَا يَكْفِي لِتَوْجِهِ الْخِطَابِ، لَا نَهُ مُحَمَّدًا دَكَرَ فِي النَّوَادِيرِ مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ وَقَدْمَاهُ مِنْ السَّاقَيْنِ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ فَبَثَتَ أَنَّ مَجْرِدُ الْعُقْلِ لَا يَكْفِي وَقَيْلَ إِنْ هَذِهِ الْمَسَالَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أُوْجَهٍ إِنْ دَامَ بِهِ الْمَرْضُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةً وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لَا يَقْضِي إِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ أَقْلَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةً وَهُوَ يَعْقِلُ قَضَى إِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ أَقْلَ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايخِ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ الْفَضَاءُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْبُزُودِيِّ الصَّغِيرِ وَقَاضِي خَانٌ.

[الجوهرة النيرة: کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۱ ص ۸۰، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۱ ص ۱۴۹، ط: رجمانیہ

صاحب ہدایہ نے مذکورہ اصول کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز میں قیام پر تو قادر ہے لیکن رکوع اور سجدہ پر قادر نہیں ہے تو اس پر قیام لازم نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام کا رکن ہونا چونکہ وسیلہ الی السجدہ کی وجہ سے ہے، جب یہ قیام پر قادر ہے اور سجدہ پر قادر نہیں ہے تو قیام کے بعد جب سجدہ نہیں ہے تو اس پر قیام بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ قیام تو سجدے کی طرف وسیلہ ہونے کی وجہ سے رکن تھا، جب سجدہ نہیں ہے تو قیام بھی رکن نہیں ہے۔ جب قیام کی رکنیت نہ رہی تو اب اس پر قیام لازم نہیں ہے، اور قیام کا رکن ہونا وسیلہ الی السجدہ کی وجہ سے اس لئے ہے کہ قیام کے بعد سجدہ کرنے میں غایبت تعظیم ہے۔ بہر حال اب یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ بیٹھ کر نماز کی صورت میں اس اشارے سے سجدہ کی حقیقی سجدہ کے ساتھ زیادہ مشاہدہ ہے۔ اس لئے سجدہ جھاک کر اور زمین سے لگ کر کیا جاتا ہے اور بیٹھ کر اشارہ کرنے میں بھی کھڑے ہو کر اشارہ کرنے کی بہ نسبت انخناض اور جھکا وز میں کی طرف زیادہ ہے۔ ①

(۱۲) إِنَّ الْغَالِبَ وُجُودُهُ كَالْمُتَحَقِّقِ. ②

ترجمہ: جس کا وجود غالب ہو وہ متحقق کی طرح ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا موجود ہونا غالب ہو تو متحقق کی طرح ہے، یعنی گویا کہ وہ حقیقت میں ثابت ہے اور اس غالب الوجود پر وہی حکم لگے گا جو حکم ثابت الوجود کا ہے۔

❶ أَنَّ رُكْنِيَّةَ الْقِيَامِ لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى السُّجُودَةِ فَإِنَّهُ بِدُونِهَا عَيْرُ مَشْرُوعٍ عِبَادَةً، بِخَلَافِ الْعُكُسِ فِإِذَا كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ السُّجُودُ لَا يَكُونُ رُكْنًا فِيَتَحِيرُ (وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاءُ قَاعِدًا، لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالسُّجُودِ) فَإِنَّ عِنْدَ الْإِيمَاءِ قَاعِدًا يَصِيرُ رَأْسُهُ أَقْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ الْإِيمَاءِ قَائِمًا.

[العنایة: کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲ ص ۲، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۱ ص ۰۷۱، ط: رحمانیہ

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو آدمی کشتی

میں بیٹھ کر نماز پڑھے بغیر کسی بیماری کے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک جائز ہے، البتہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی میں کھڑے ہونے میں دورانِ الراس یعنی سر چکر انا غالب ہے اور جو غالب الوجود ہو وہ تتحقق الوجود کی طرح ہے، تو جب کشتی میں دورانِ الراس سر چکر انا غالب ہے تو گویا کہ سر چکر انا ثابت ہوا، اور جس کا کشتی میں کھڑے ہونے سے سر چکراتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا یہ شخص بھی بغیر بیماری کے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھتے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ ①

① (قُولُهُ وَلُوْصَلَى فِي فُلُكٍ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ) یعنی صَلَى فَرْضًا قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ صَحَّ  
عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَقَدْ أَسَاءَ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا مِنْ عِلْمٍ لَأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا  
يُسْرِكُ وَلَهُ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا دَوَّارُ الرَّأْسِ وَهُوَ كَالْمُحَقِّقِ الْآنَ أَنَّ الْقِيَامَ أَفْضَلُ لَأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ  
شُبُهَةِ الْخِلَافِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج ۲ ص ۱۲۶، ط: دار الكتاب الإسلامي]

باب في سجدة لتلاؤة

(١٢٨) إِنَّ كَلِمَةً عَلَى لِلْإِيْجَابِ. ①

ترجمہ: کلمہ علی وجوب کے لئے آتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ”علی“ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی کلمہ ”علی“ اپنے مدخل پر اپنے مقابل کو واجب کرتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت سننے اور تلاوت کرنے والے پرواجب ہے یعنی تالی اور سامع دونوں پرواجب ہے، چاہے سامع نے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

٢. إِنَّمَا السُّجْدَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَهَا.

مذکورہ حدیث میں کلمہ ”علی“ ہے اور علی و جوب کے لئے آتا ہے، لہذا سجدہ تلاوت بھی تالی پر واجب ہوگا، مذکورہ حدیث چونکہ مطلق ہے اس میں قصد و ارادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس لئے عام ہے کہ سامع سننے کا قصد کرے پانہ کرے بہر صورت سجدہ واجب ہوگا۔ ۲۷

(١٢٩) إِنَّ تَصْرُّفَ الْمُحْجُورَ لَا حُكْمَ لَهُ.

ترجمہ: مجوز کے تصرف کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔

شرط: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مجرم عن التصرف ہو، یعنی جس آدمی کو تصرف

<sup>١</sup> الهدایة: کتاب الصلاة، باب فی سجدة التلاوة، ج ١ ص ٢٧٠، ط: رحمانیہ

<sup>٢</sup> مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلاة، من قال السجدة على من جلس لها، ج ١ ص ٣٦٨

رقم الحديث: ٣٢٢٥، ط: مكتبة الرشد

(وهي كلمة إيجاب) أي لفظه على كلمة إيجاب، يعني يدل على الوجوب (وهو) أي الحديث المذكور (غير مقيد بالقصد) يعني أن الإيجاب مطلق عن قيد القصد يجب على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن.

[البنيان: كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ٢ ص ٢٢٢، ط: دار الكتب العلمية]

<sup>٢</sup> الهدایة: کتاب الصلاة، باب في سجدة التلاوة، ج ١ ص ٧٠، ط: رحمانیہ

سے روکا گیا ہوا اگر وہ تصرف کرے گا تو اس کے اس تصرف پر کوئی حکم عائد نہیں ہو گا، اور اس کا یہ تصرف معدوم شمار ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ شخین کے نزدیک اگر نماز میں مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو اُس سے نہ امام پر سجدہ واجب ہو گا اور نہ مقتدی پر، کیونکہ مقتدی کو قراءت سے روکا گیا ہے اور جس آدمی کو تصرف سے روکا گیا ہے اس کے اس تصرف پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا، اور اس کا تصرف معدوم کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس مقتدی کے تصرف یعنی آیت سجدہ تلاوت کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہ ہو گا اور یہ معدوم شمار ہو گا، لہذا نہ امام پر سجدہ واجب ہو گا اور نہ مقتدی پر، نہ نماز میں اور نماز کے باہر۔ ①

(۱۳۰) إِنَّ النَّاقِصَ لَا يَتَّأْدِي بِهِ الْكَامِلُ. ②

ترجمہ: ناقص سے کامل اداء نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو شیء کامل واجب ہوتی ہے وہ ناقص ادائیگی سے اداء نہیں ہو گی، بلکہ وہ کامل ادائیگی سے ہی اداء ہو گی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں آیت سجدہ سن لی جبکہ تلاوت کرنے والا خارج عن الصلاۃ تھا، یعنی وہ ان کے ساتھ نماز میں نہیں تھا، تو اس صورت میں یہ سامعین جو کہ نماز میں ہیں یہ نماز میں سجدہ نہ کریں، اگر انہوں نے نماز میں سجدہ کر لیا تو یہ سجدہ اداء نہ ہو گا، کیونکہ یہ ناقص ہے اور سجدہ خارجیہ کامل ہے، اب اگر یہ نماز میں سجدہ کریں تو اس صورت میں کامل کو ناقص طور پر اداء کرنا لازم آئے گا جبکہ شیء کامل ناقص

❶ لَأَنَّ الْمَحْجُورَ هُوَ الْمَمْنُوعُ عَنِ التَّصْرُفِ عَلَى وَجْهٍ يَظْهُرُ نَفَادُ دَلِكَ التَّصْرُفِ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ وَالْمُقْتَدِي بِهِذِهِ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةُ تَنْفَدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ وَكُلُّ مَنْ هُوَ مَحْجُورٌ لَا حُكْمُ لِتَصْرُفِهِ، وَوُجُوبُ السَّجْدَةِ حُكْمُ تَصْرُفِهِ الَّذِي هُوَ الْقِرَاءَةُ فَلَا يُبْثُثُ.

[العنایہ: کتاب الصلاۃ، باب سجود التلاوة، ج ۲ ص ۱۵، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب فی سجدة التلاوة، ج ۱ ص ۱۷، ط: رحمانیہ

ادا نیگی سے اداء نہیں ہوتی لہذا یہ بھی اداء نہیں ہوگا۔ یہ سجدہ اس لئے ناقص ہے کہ شریعت نے نماز کے اندر ہر اس چیز کو داخل کرنے سے منع کیا ہے جو نماز کے افعال میں سے نہ ہو، اب نماز میں اس کی ادا نیگی ناقص ہے حالانکہ سماع کی وجہ سے یہ کامل واجب ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ واجب کامل ناقص طور پر اداء کرنے سے اداء نہیں ہوتا۔ ①

(۱۳۱) إِنَّ مَبْنَى السَّجْدَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ. ②

ترجمہ: سجدہ کی بنیاد تداخل پر ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ سجدوں میں آپس میں تداخل ہوتا ہے، یعنی کئی سجدوں کے بجائے ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک ہی مجلس میں سجدے کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، یعنی ایک ہی سجدہ کفایت کرے گا اگرچہ اس نے وہ آیت سجدہ کی مرتبہ پڑھی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدوں میں تداخل ہوتا ہے، لہذا جس نے ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھی تو ان میں بھی آپس میں تداخل ہو کر ایک سجدہ کافی ہوگا۔ اس لئے کہ سجدوں کے مکرر ہونے سے لوگوں کو حرج ہوتا، کیونکہ مسلمان قرآن کی تعلیم و تعلم کے محتاج ہیں اور تعلیم و تعلم بغیر تکرار کے حاصل نہیں ہوگا، پس ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے اگر تکرار سجدہ لازم کیا گیا تو مفضی الی الحرج ہوگا، حالانکہ شریعت میں حرج مرفوع ہے، اس لئے کہا گیا کہ اس صورت میں

❶ (وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آيَةً سَجْدَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ) وَلَوْ مَصْلِيًّا (لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ) لَأَنَّهَا لَيْسَ بِصَلَاةٍ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (وَسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ) لَتَحْقِيقِ سَبِيلِها (إِنْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَجْزُهُمْ) لَأَنَّهُ ناقض لِمَكَانِ النَّهْيِ فَلَا يَتَأْدِي بِهِ الْكَامِلُ، وَتَجْبِ إِعَادَتِهَا لِتَقْرُرِ سَبِيلِها، (وَلَمْ تَفْسُدِ الصَّلَاةِ) لِأَنَّ مَجْرِدَ السَّجْدَةِ لَا يَنَافِي إِحْرَامَ الصَّلَاةِ.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۱ ص ۱۰۲، ط: المكتبة العلمية]

❷ الہدایہ: كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۱ ص ۱۷۲، ط: زرمانیہ

ایک ہی سجدہ واجب ہو گا۔ ①

## باب صلاة المسافر

(۱۳۲) إِنَّ الْوَطَنَ الْأَصْلِيَ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ وَطَنُ الْإِقَامَةِ يَبْطُلُ

بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِيِّ. ②

ترجمہ: وطنِ اصلی باطل ہوتا ہے اپنے مثل (وطنِ اصلی سے) نہ کہ سفر سے اور وطنِ اقامت باطل ہوتا ہے وطنِ اقامت اور سفر سے۔

تشریح: صاحب ہدایہ نے اصول نقل کیا ہے کہ کوئی بھی چیز یا تو اپنے سے اعلیٰ اور ارفع چیز سے باطل ہوتی ہے، یا اپنے مساوی سے، یا اپنی ضد اور نقیض سے، البتہ اپنے سے کم ترشی سے کوئی چیز باطل نہیں ہوتی۔

وطن کی دو قسمیں ہیں، (۱) وطنِ اصلی (۲) وطنِ اقامت۔

وطنِ اصلی انسان کی اپنی جائے پیدائش یادہ جگہ جہاں انسان کے اہل و عیال رہتے ہیں۔

وطنِ اقامت وہ جگہ کہلاتی ہے جس میں مسافر پندرہ دن یا اس سے زائد ٹھہرنا کی نیت کر لے۔

اصول یہ ہے کہ وطنِ اصلی وطنِ اصلی سے باطل ہوتا ہے نہ کہ سفر و اقامت سے۔ اس لئے کہ شی اپنے سے اعلیٰ چیز سے باطل ہوتی ہے یا مساوی درجہ کی چیز سے، یہ بات مسلم ہے کہ وطنِ اصلی

❶ (قَوْلُهُ: وَمَنْ كَرَرَ تَلَاوَةً سَجَدَةً وَاحِدَةً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْرَاهُ سَجَدَةٌ وَاحِدَةٌ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَبْنَى السَّجْدَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَإِذَا تَلَّا آيَةً سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ تِلْكَ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِرَارًا يَكْفِيهِ تِلْكَ السَّجَدَةُ عَنِ التَّلَاوَاتِ الْمُؤْجُودَةِ بَعْدَ السَّجَدَةِ وَقَوْلُهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ احْتِرَازٌ عَمَّا إِذَا تَبَدَّلَ الْمَجْلِسُ وَالْبَعْدِيلُ يَكُونُ حَقِيقَةً وَيَكُونُ حُكْمًا فَالْحَقِيقَةُ ظَاهِرٌ وَالْحُكْمُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ بَيْعٍ فَانْتَقَلَ إِلَى مَجْلِسٍ نِكَاحٍ أَوْ أَكْلَ كَثِيرًا أَوْ شَرَبَ كَثِيرًا أَوْ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَوْ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا أَوْ امْتَشَطَتْ أَوْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ أَوْ عَمِلَ عَمَالًا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَاطِعٌ لِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ حُكْمَ الْمَجْلِسِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج ۱ ص ۸۳، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۱ ص ۲۷۱، ط: رحمانیہ

سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وطنِ اصلی اپنے مساوی وطنِ اصلی سے باطل ہوگا۔ اس کے برخلاف وطنِ اقامت وطنِ اصلی، وطنِ اقامت اور سفر تینوں سے باطل ہوگا، وطنِ اصلی سے اس لئے ہوگا کہ وطنِ اصلی وطنِ اقامت سے برتر اور بلند ہے، اور شیء اپنے سے مافق سے باطل ہوتی ہے۔ وطنِ اقامت سے بطلان کی وجہ مساوات ہے، سفر سے باطل ہونے کی وجہ نقيض وضد ہے

”والشیء یبطل بضده“ قاعدة ہے کہ شیء اپنی ضد سے باطل ہوتی ہے۔ ①

(۱۳۳) إِنِ إِقَامَةَ الْمُرْءِ مُضَافَةً إِلَى مَبِيتِهِ. ②

ترجمہ: انسان کی اقامت اس کے مقام شب گزاری کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو بتالا رہے ہیں کہ اگر مسافرنے ایسے دو مقامات میں پندرہ دن ٹھہر نے کی نیت کی جن میں سے ایک مستقل نہیں ہے، مثلاً مکہ اور منی میں اقامت کی نیت کی تو یہ مقیم نہ ہوگا بلکہ مسافر ہے گا اور نماز قصر پڑھے گا، کیونکہ دو مقامات پر نیت کا معتبر ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ دو سے زائد مقامات میں بھی نیت معتبر ہو ورنہ ترجیح بلا مرنج لازم آئے گا۔ حالانکہ مسافر کا بہت سے مقامات پر قیام کی نیت کرنا ممتنع ہے، کیونکہ سفر متعدد مقامات پر قیام کرنے سے خالی نہیں ہوتا، دورانِ سفر انسان جگہ جگہ رکتا ہے، اب اگر ہر جگہ ہم اس کی طرف سے

❶ عِبَارَةُ عَامَّةِ الْمَسَايِّخِ أَنَّ الْأَوْطَانَ ثَلَاثَةٌ: وَطَنٌ أَصْلَىٰ وَهُوَ مَوْلُدُ الرَّجُلِ أَوْ الْبَلْدُ الَّذِي تَأَهَّلَ بِهِ، وَوَطَنُ سَفَرٍ وَقَدْ سُمِّيَ وَطَنِ إِقَامَةٍ وَهُوَ الْبَلْدُ الَّذِي يَنْوِي الْمَسَافِرُ إِلِّيْقَامَةٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَوَطَنُ سُكْنَىٰ وَهُوَ الْبَلْدُ الَّذِي يَنْوِي إِلِّيْقَامَةٍ فِيهِ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعِبَارَةُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْوَطَنَ وَطَنَانِ وَطَنًا وَطَنٌ أَصْلَىٰ وَوَطَنٌ إِقَامَةٍ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا وَطَنَ السُّكْنَىٰ وَطَنًا وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَكَذَا فِي الْكِفَائِيَةِ.

وَيَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلَىٰ بِالْوَطَنِ الْأَصْلَىٰ إِذَا اتَّقَلَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَهْلِهِ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَهْلِهِ وَلِكُنَّهُ اسْتَحْدَثَ أَهْلًا بِبَلْدَةٍ أُخْرَىٰ فَلَا يَبْطُلُ وَطَنُهُ الْأَوَّلُ وَيَتَمُّ فِيهِمَا وَلَا يَبْطُلُ الْوَطَنُ الْأَصْلَىٰ بِإِنْشَاءِ السَّفَرِ وَبِالْوَطَنِ الْأَصْلَىٰ.

[الفتاوی الہندیۃ: کتاب الصلاۃ، الباب الخامس عشر، ج ۱ ص ۱۲۲، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المسافر، ج ۱ ص ۲۷۱، ط: رحمانیہ

اقامت کی نیت کو معتبر مان لیں تو پھر وہ شخص بھی بھی اور کہیں بھی مسافر ہی نہیں رہے گا، کیونکہ سفر معمولی ٹھہر نے سے خالی نہیں ہوتا، البتہ اگر صورت یہ ہے کہ دو مقام میں پندرہ یوم اقامت کی نیت کی اور ان دونوں میں سے ایک متعینہ مقام میں رات گزارنے کی نیت کی تو یہ نیت معتبر ہوگی، اور یہ شخص مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اقامت میں رات گزارنا اصل ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کاروباری شخص سے یا کسی دکان دار سے پوچھیں ”أَيْنَ تَسْكُنُ“، یعنی تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ اپنی دکان یا آفس کا نام نہیں بتائے گا، بلکہ اس علاقے کا نام بتلائے گا جہاں وہ رات میں مقیم رہتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قیام اور سکونت کے حوالے سے رات گزارنے اور مقام شب باشی کا اعتبار ہے۔ ①

(۱۳۸) إِنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ②

ترجمہ: سفر بذاتِ خود معصیت نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ سفر بذاتِ خود معصیت اور گناہ نہیں بلکہ گناہ یا نیکی کا اعتبار نیت پر ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ گنہگار اور مطیع دونوں رخصت سفر میں برابر ہیں، یعنی جس طرح مطیع کے لئے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے نمازوں میں قصر کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اگر ایک آدمی گناہ کے کام کے لئے سفر کرتا ہے تو اس عاصی کے لئے بھی یہ رخصت ہوگی، کیونکہ یہ رخصت سفر کی وجہ سے ہے اور نفس سفر میں کوئی گناہ

❶ (قَوْلُهُ لَا بِمَكْثَةٍ وَمَنِي) أَى لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكْثَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهُ لَا يُتْمِمُ الصَّلَاةَ، لَأَنَّ الْإِقَامَةَ لَا تَكُونُ فِي مَكَانَيْنِ إِذْ لَوْ جَازَتِ فِي مَكَانَيْنِ لَجَازَتِ فِي أَمَّا كِنْ فَيُؤَدَّى إِلَى أَنَّ السَّفَرَ لَا يَسْعَقُ، لَأَنَّ إِقَامَةَ الْمُسَافِرِ فِي الْمَرَاحِلِ لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ إِلَّا إِذَا نَوَى أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي أَحَدِهِمَا فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ، لَأَنَّ إِقَامَةَ الْمُرْءِ تَصَافُ إِلَى مَبِيتِهِ يُقَالُ فُلَانٌ يَسْكُنُ فِي حَارَةٍ كَذَا، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ فِي الْأَسْوَاقِ ثُمَّ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمُوْضِعِ الْآخَرِ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲ ص ۱۳۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الهدایہ: كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۱ ص ۲۷۱، ط: زمانیہ

نہیں ہے، لہذا دونوں کے لئے یہ رخصت ثابت ہوگی۔ اس لئے کہ جن نصوص سے رخصت سفر ثابت ہے وہ سب مطلق ہیں، ان میں عاصی اور مطیع کی کوئی قید نہیں ہے، نیز سفر تو قطع مسافت کا نام ہے جو معصیت سے عاری ہے، ہاں سفر کے بعد معصیت ہو سکتی ہے، تو بعد میں پیش آنے والی معصیت کا رخصت سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ①

(۱۳۵) إِنَّ الْقَضَاءَ بِحَسْبِ الْأَدَاءِ.

ترجمہ: قضاۓ (کا حکم) اداء کے اعتبار سے ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ قضاۓ اداء کے اعتبار سے ہے، یعنی جتنی رکعت اداء کرنا واجب تھی قضاۓ میں بھی ان ہی رکعتوں کا اعتبار ہو گا، مثلاً ایک آدمی پر اقامت کی وجہ سے چار رکعت اداء کرنا واجب تھی، اب اگر ان کی قضاۓ کرے تو بھی چار رکعت پڑھے گا اگرچہ اب وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر سفر کی وجہ سے دور رکعت واجب تھی اب اگر ان کی قضاۓ کرے گا تو دو رکعت قضاۓ کرے گا اگرچہ اب وہ مقیم ہی کیوں نہ ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے حالت سفر میں نماز قضاۓ ہو گئی، اب وہ شہر میں دور رکعت ہی قضاۓ کرے گا، اسی طرح اگر ایک آدمی سے شہر میں چار رکعت والی نماز قضاۓ ہو گئی، اب اگر وہ سفر میں قضاۓ کرنا چاہتا ہے تو پوری چار رکعت کی قضاۓ کرے گا، سفر یا حضر سے قضاۓ میں فرق نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قضاۓ کا وجوہ اداء ہی

❶ (ولنا اطلاق النصوص) منها قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فرض المسافر ركعتان، كل ذلك مطلقة فيقتضي ثبوت الأحكام في كل مسافر (ولأن نفس السفر ليس بمعصية) لأنه عبارة عن خروج بريدي، وهو يقوى المعصية لإمكان المفارقة بينهما ( وإنما المعصية ما يكون بعده) أي بعد ما صار مسافرا كما في قطع الطريق.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المسافر، ج ۳ ص ۳۵، ط: دار الكتب العلمیة]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المسافر، ج ۱ ص ۲۷۱، ط: زمانیہ

کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ①

## باب صلاة الجمعة

(۱۳۶) إِنَّ التَّكْلِيفَ يَدْوُرُ عَلَى التَّمَكُّنِ. ②

ترجمہ: مکلف ہونے کا دار و مدار قدرت کے مطابق ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ مکلف ہونے کا دار و مدار قدرت پر ہے، یعنی جس کی جتنی قدرت ہوگی اسی کے مطابق وہ مکلف ہوگا، تکلیف بحسب قدرت و سمعت ثابت ہوتی ہے۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتالا رہے ہیں کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی تو یہ مع الکراہت درست ہے، اس لئے کہ تکلیف بحسب قدرت ہوتی ہے، اور اس وقت کے اندر نماز کا مکلف بذاتِ خود ظہر اداء کرنے پر قادر ہے نہ کہ جمعہ کی نماز پر، کیونکہ جمعہ کی نماز ایسی شرائط پر موقوف ہے جو تنہ آدمی ادائیں کر سکتا، مثلاً امام، خطبہ، جماعت، غیرہ پر جمع کا مکلف بنانا تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہوگا، البتہ جمعہ کے دن جمعہ ادا کر کے ظہر کی نماز ساقط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پس قدرت کے باوجود جمعہ سے اعراض کر کے ظہر اداء کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہوگا۔ ③

① (قُولُهُ وَفَائِتَهُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَةِ لَفْ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ أَنِّي فَائِتَهُ السَّفَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَفَائِتَهُ الْحَضَرِ تُقْضَى أَرْبَعَةِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسْبِ الْأَذَاءِ بِخَلَافِ مَا لَوْ فَاتَتْهُ فِي الْمَرَضِ فِي حَالَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَيْثُ يَقْضِيهَا فِي الصَّحَّةِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَوْ فَاتَتْهُ فِي الصَّحَّةِ حَيْثُ يَقْضِيهَا فِي الْمَرَضِ بِالإِيمَاءِ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِلَّا أَنَّهُمَا يَسْقُطَانِ عَنْهُ بِالْعَجْزِ إِذَا قَدِرَ أَنِّي بِهِمَا بِخَلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فِإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ كَصَلَةِ الْفَجْرِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعٌ فَلَا يَغْيِرُ بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ.

[البحر الرائق: كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج ۲ ص ۱۳۸، ط: دار الكتاب الإسلامي]

② الهدایۃ: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج ۱ ص ۱۸۰، ط: رحمانیہ

③ (وعلی التمکن یدور التکلیف) لأن مدار التکلیف علی الوسع بالنص، فدل ذلك أن الظہر هو فرض الوقت، لكن علیه إسقاطه بالجمعة عند وجود شرائطها كما ذكرنا، الا ترى =

## باب العيدین

(۱۳) إِنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّنَاءِ الْإِخْفَاءِ ①

ترجمہ: شناء میں اصل اخفاء ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شناء اور تعریف میں اصل یہ ہے کہ سرآہو یعنی آہستہ آواز میں پڑھی جائے، قرآن مجید میں ہے ”أَدْعُوكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً“ (الاعراف: ۵۵) صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ جو آدمی عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جائے تو راستے میں زور سے تکبیر نہ پڑھے، اس لئے کہ تعریف وحد میں اصل اخفاء ہے۔ ②

## باب الشہید

(۱۳۸) إِنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ ③

ترجمہ: شہادت غسل میت کے وجوب سے مانع ہے رافع نہیں ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شہادت غسل میت کے وجوب سے مانع تو ہے لیکن اگر پہلے غسل واجب ہو تو اس کو رفع کرنے والی نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کر کے اس بات کو بتلار ہے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے

= أن الجمعة إذا لم تصل حتى خرج الوقت يقضى الظهر لا الجمعة، فلو لم يكن فرض الوقت الظهر لم يقض الظهر بل الجمعة.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعة، ج ۳ ص ۷۵، ط: دار الكتب العلمیة]

① الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب العیدین، ج ۱ ص ۱۸۳، ط: رحمانیہ

② (أن الأصل في الشناء الإخفاء) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، وَقَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفْيَ، وَلَا نَهَا أَقْرَبُ مِنَ الْأَدْبَرِ وَالْتَّطْوِعِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفْيَ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْنَمْ وَلَا غَائِبًا.

[البنيۃ: کتاب الصلاۃ، باب العیدین، ج ۳ ص ۱۰۳، ط: دار الكتب العلمیة]

③ الہدایہ: کتاب الصلاۃ، باب الشہید، ج ۱ ص ۱۹۸، ط: رحمانیہ

نzdیک بحالت جنابت شہادت پانے والے کو غسل دیا جائے گا، امام صاحب کی ولیل مذکورہ اصول ہے کہ شہادت غسل میت واجب ہونے سے منع ہے، یعنی موت کی وجہ سے جو غسل واجب ہوتا ہے یہ شہادت اس کے لئے منع ہے لیکن رافع نہیں ہے، یعنی اگر پہلے سے غسل واجب ہو تو اس کو رافع نہیں کرتی، یہی وجہ ہے جب حضرت خلیل اللہ عنہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا اور یہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہید جنمی کو غسل دیا جائے گا، البتہ یہ غسل، غسل جنابت ہوگا، غسل موت نہیں ہوگا۔ ①

## باب الصلاة في الكعبة

(۱۳۹) إِنَّ التَّقْدُمَ وَالتَّأْخُرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اِتَّحَادِ الْجَانِبِ. ②

ترجمہ: تقدم و تأخیر اتحاد جانب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ تقدم اور تاخیر یعنی آگے ہونا یا پیچھے ہونا اتحاد جہت کے وقت ظاہر ہوگا، یعنی جب امام اور مقتدی دونوں کی جہت متحد ہو اس وقت تقدم اور تاخیر ظاہر ہوگا اور جب جہت متحدة ہو تو تقدم اور تاخیر کا پتہ نہیں چلے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسجد حرام میں امام نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے کعبہ کا حلقة باندھا، یعنی کعبہ کے ارد گرد صفين بنائیں اور امام کی افتداء میں نماز پڑھی، تو جس جانب امام نہ ہو اور مقتدی بہ نسبت امام کے کعبہ کے زیادہ قریب ہے تو اس کی نماز جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدم اور تاخیر اتحاد جہت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور جس جانب امام نہیں ہے اس طرف تقدم و تاخیر متحقق نہ ہوگا، اس لئے اس طرف کے لوگوں کی نماز درست ہوگی،

❶ (قُولُهُ وَإِذَا أُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسْلٌ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ) وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ جُنُبًا بِقَوْلِهِ قَبْلَ الْقِتَالِ أَوْ بِقَوْلِ امْرَأَتِهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً لَا رَافِعَةً فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَابَةَ إِلَّا تَرَى اللَّهُ لَوْ كَانَ فِي ثُوبِ الشَّهِيدِ نَجَاسَةً غَيْرُ الدَّمِ تُغْسِلُ تِلْكَ النَّجَاسَةَ وَلَا يُغْسِلُ الدَّمِ لِمَا ذَكَرْنَا وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مَنْعَثٌ ذَمَّةٌ مِنْ كَوْنِهِ نَجِسًا وَلَمْ تَرْفَعْ النَّجَاسَةَ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الدَّمِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصلاة، باب الشهيد، ج ۱ ص ۱۱۱، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة، ج ۱ ص ۲۰۰، ط: رحمانیہ

البَتْهَ أَغْرِيَمُ اَوْ مُقْتَدِيُوْنَ كَمِسْتَ أَيْكَ هُوَ تَوَاسُ صُورَتَ مِنْ تَقْدِمَ عَلَى الْإِمَامَ سَمِّيَ مُقْتَدِيَ الْإِمامَ فَاسِدٌ

هُوَ جَائِيَّ كَمِ، كَيْوَنَكَهُ مُقْتَدِيَ الْإِمامَ سَمِّيَ آَجَهُ بِرَبِّهِ جَانَا اَسَ كَهُقَّ مِنْ مُفْسِدِ صَلَاتَهُ هُوَ۔ ①

(۱۲۰) إِنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ۔ ②

ترجمہ: کعبہ میدان اور آسمان کی فضاء تک کا نام ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ میدان جہاں  
عمارت کعبہ ہے وہاں سے لے کر آسمان تک پوری فضاء کا نام کعبہ ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک کعبہ کی  
چھپت پر نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اس کے سامنے سترہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قبلہ نام  
ہے کعبہ کا، اور کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ میدان جہاں عمارت کعبہ ہے اس سے لے کر آسمان کی  
فضاء تک کعبہ ہے، اور عمارت کا نام کعبہ اس لئے نہیں ہے کہ عمارت منہدم اور منتقل ہو سکتی ہے، جبکہ یہ  
چیزیں قبلہ اور کعبہ کی شان کے منافی ہیں، اس لئے صرف عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبہ سے لے  
کر آسمان تک پوری فضاء کا نام کعبہ ہے۔ اس لئے جو شخص بیت اللہ کی چھپت پر نماز پڑھے تو اس کی نماز  
جائے ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی کعبہ سے بلند جگہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے تو درست ہے، جیسے جبل ابو قیس  
پر یا آج کے دور میں ہوائی جہاز میں، البته یہ مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں ترک تعظیم ہے۔ ③

① (وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقُ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلَوَا بِصَلَاتِهِ) هَكَذَا  
تَوَارَثَ النَّاسُ الصَّلَاةَ فِيهِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا。 وَمَنْ كَانَ  
مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِهِ، لَاَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا  
عَلَيْهِ، لَاَنَّ التَّقْدِمَ وَالنَّاحِرَ إِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ اتْحَادِ الْجَانِبِ، اَمَّا عِنْدَ اخْتِلَافِهِ فَلَا.

[الاختیار لتعلیل المختار: کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الكعبۃ، ج ۱ ص ۹۰، المکتبۃ العلمیۃ]

② الہدایہ: کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الكعبۃ، ج ۱ ص ۲۰۰، ط: رحمانیہ

③ وَإِنَّمَا جَازَتْ فَوْقَهَا، لَاَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدَنَا دُونَ الْبَيْنَاءِ،  
لَاَنَّهُ يُنْقَلُ، الْأَتَرَى اَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى اَبِي قَبَیْسٍ جَازَ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا اَنَّهُ يُكَرِّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ  
تُرُكِ التَّعْظِيمِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.

[البحر الرائق: کتاب الصلاة، باب الصلاة فی الكعبۃ، ج ۲ ص ۲۱۵، ط: دار الكتاب الإسلامی]

## کتاب الزکاۃ

(۱۲۱) إِنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِالْحُرْيَةِ. ①

ترجمہ: آزادی کے ساتھ ملکیت کامل ہوتی ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت تام اور کامل اس وقت ہوگی جب آدمی آزاد ہو، کیونکہ غلام کی ملکیت ناقص ہوتی ہے، ملکیت تام اور کامل ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہو ملکیت تامہ کے ساتھ، اور ملکیت تامہ کے لئے حریت شرط ہے تو وجوب زکوٰۃ کے لئے بھی حریت شرط ہوگی، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان پر جو مقدار نصاب کا مالک ہو، ملکیت تامہ کے ساتھ اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو۔

مذکورہ شرائط میں سے ایک شرط حریت ہے، یہ شرط اس لئے لگائی کہ زکوٰۃ کے لئے ایک شرط ملکیت تامہ ہے اور ملکیت کامل ہوتی ہے آزادی سے، لہذا زکوٰۃ کے وجوب کے لئے بھی آزادی شرط ہے۔ ②

(۱۲۲) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَسْتَحْقُ مِنَ الْكَافِرِ. ③

ترجمہ: کافر سے عبادت تتحقق نہیں ہوتی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا تحقق کافر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا عبادت کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کی شرائط

① الہدایہ: کتاب الزکاۃ، ج ۱ ص ۲۰۱، ط: رحمانیہ

② (واشتراط الحریۃ) مرفوع بالابتداء وخبرہ محدوف ای اشتراط الحریۃ فی وجوب الزکاۃ (لأنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا) ای بالحریۃ إذ العبد قد يملک البیع والنصرف بالکتابة والإذن.

[البنيۃ: کتاب الزکاۃ، ج ۳ ص ۲۹۱، ط: دار الكتب العلمیة]

③ الہدایہ: کتاب الزکاۃ، ج ۱ ص ۲۰۱، ط: رحمانیہ

میں سے ایک شرط اسلام ہے اور یہ شرط اس لئے لگائی کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کافر سے متحقق نہیں ہو سکتی۔ ①

(١٢٣) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَنَادِي إِلَّا بِالْأُخْتِيَارِ. ٢

ترجمہ: عبادت اختیار کے بغیر اداء نہیں ہوتی۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی کے لئے اختیار شرط ہے یعنی مکلف کے اختیار میں ہو کہ وہ اس عبادت کو سرانجام دے سکتا ہو اور ترک بھی کر سکتا ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ نابالغ بچے اور مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت اپنے اختیار سے ادا ہوتی ہے اور ان دونوں کے لئے کوئی اختیار نہیں کیونکہ ان میں عقل معدوم ہے اور بغیر عقل کے اختیار ثابت نہیں ہو سکتا، اور عبادت کے لئے اختیار اس لئے شرط ہے کہ عبادت میں ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کے لئے بھی اختیار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مطیع اور عاصی میں امتیاز ہو سکے، چونکہ صبی اور مجنون مفقود اعقل ہوتے ہیں، ان میں اختیار کا شانہ بھی نہیں ہوتا اس لئے ان کی طرف سے عبادت تحقیق نہیں ہوگی، کیونکہ تحقیق عبادت کے لئے اختیار ضروری ہے۔

(١٣٣) إِنَّ مَا هُوَ مَشْغُولٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ يُعْتَبَرُ مَعْذُومًا.

❶ (لأن الزكاة عبادة فلا تتحقق من الكافر) لأن الأمر بأداء العبادات لينال به المؤدي الشواب في الآخرة، والكافر ليس بأهل الشواب للعبادة عقوبة له على كفره حكماً من الله تعالى. وبدون الأهلية لا يثبت وجوب الأداء ووجوب العقوبات عليهم للزجر، وهو أليق بهم.

البنياية: كتاب الزكاة، ج ٣ ص ٢٩٢، ط: دار الكتب العلمية

٢- الهدایة: کتاب الزکاہ، ج ۱ ص ۲۰، ط: رحمانیہ

٢٠ وَلَهُذَا قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُجْبِي الزَّكَةَ عَلَى الصِّبَانِ وَالْمَجَانِينَ لَأَنَّ الْأَذَاءَ لَا يَصْحُ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ عَبَادَةٌ فَلَا تَنْعَدِي بِدُونِ النِّيَّةِ وَالْإِحْتِيَارِ وَالطَّفْلِ وَالْمَجْنُونُ لَا إِحْتِيَارٌ لَّهُمَا.

تحفة الفقهاء: كتاب الزكاة، باب من يوضع فيه الصدقة، ج ١ ص ٢٩٩، ط: دار الكتب العلمية

الهدایة: کتاب الزکاۃ، ج ۱ ص ۲۰۲، ط: رحمانیہ

تَرْجِمَة: جو شیء ضرورتِ اصلیہ کے ساتھ مشغول ہو وہ معدوم شمار کی جاتی ہے۔

**تشریح:** مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو اشیاء ضرورتِ اصلیہ کے ساتھ مشغول ہوں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس آدمی پر اتنا قرضہ ہو کہ وہ اس کے مال کو گھیر لے، مثلاً پچاس ہزار روپے موجود ہیں مگر پچاس ہزار روپے قرض بھی ہے اور بندوں کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی جاری ہے، تو ایسے مقرض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی کے پاس اگرچہ مال ہے لیکن مشغول ہے حاجتِ اصلیہ کے ساتھ، اور جو حاجت اصلیہ کے ساتھ مشغول ہو وہ معدوم شمار ہوتا ہے، لہذا اس کا یہ مال بھی معدوم شمار ہو گا، گویا کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے اور جس کے پاس مال نہ ہوا س پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہو گی۔ ①

(۱۲۵) إِنَّ الدِّينَ فِي بَابِ الزَّكَاهِ يُرَادُ بِهِ دِينُ اللَّهِ مَطَالِبُ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ.

**ترجمہ:** زکوٰۃ کے باب میں دین سے مراد وہ قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو۔

**تشریح:** مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب سے جو دین مانع ہے اس سے وہ دین مراد ہے جو بندوں کا ہو اور بندوں کی جانب سے اس دین کا مطالبہ کرنے والا ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نذر اور وہیں کفارہ مانع زکوٰۃ نہیں ہیں، وہیں نذر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نذر مانے کے اگر میر افلان کام ہو گیا تو میں مثلاً جانور خرید کر ذبح کروں گا، اور وہیں کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی پھروہ حانت ہو گیا اب اس پر کفارہ بھیں ہے، تو یہ دونوں زکوٰۃ سے مانع نہیں ہیں بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ

① وَشَرَطَ فَرَاغَةُ عَنِ الدِّينِ، لَأَنَّهُ مَعَهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَاعْتَبِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَحْقِقِ بِالْعَطَشِ.

[البحر الرائق: کتاب الزکاہ، شروط وجوب الزکاہ، ج ۲ ص ۲۱۹، ط: دار الكتاب الاسلامی]

② الہدایہ: کتاب الزکاہ، ج ۱ ص ۲۰۲، ط: رحمانیہ

واجب ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مانع وہ دین ہے جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبه کرنے والا ہو، جیسے ایک آدمی کا دوسراے آدمی پر قرضہ ہو، اور دین نذر اور دین کفارہ اگرچہ دیوں ہیں لیکن مطالب من جہة العباد نہیں ہیں بلکہ یہ مطالب من جہة اللہ ہیں، یعنی بندوں کی طرف سے ان کا کوئی مطالبه کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا مطالبه کیا جاتا ہے۔ ①

(۱۲۶) إِنَّهُ لَا نَمَاءٌ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصْرُفِ. ۲

ترجمہ: بڑھوتری نہیں ہوتی مگر تصرف پر قدرت کے ساتھ۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ مال میں بڑھوتری اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس مال میں تصرف کرنے پر قادر ہو، اگر تصرف پر قادر نہ ہو تو مال میں بڑھوتری ثابت نہیں ہو سکتی۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ مال ضمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، احناف کے نزدیک مال ضمار (مال ضمار اس غائب مال کو کہتے ہیں جس کے ملنے کی توقع نہ ہو) کی کئی صورتیں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا دوسراے پر قرضہ ہو وہ مدیوں انکار کرتا ہو اور دائن یعنی قرض خواہ کے پاس گواہ نہ ہوں تو یہ بھی مال ضمار ہے۔ اب جب بعد میں یہ قرضہ وصول ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوہ کا سبب مال نامی ہے کہ مال میں بڑھوتری ہو، اور بڑھوتری مال میں تصرف پر قادر ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور مال ضمار میں بھی مالک اپنے مال میں تصرف کرنے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا مال ضمار میں گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ②

۱ ثُمَّ إِنَّمَا تُجْبِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ النَّرْكَادَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحْقًا بِدِينِ مَطَالِبِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْتَحْقًا بِهِ فَلَا تُجْبِبُ الزَّكَاةُ بِقَدْرِ الدِّينِ لَأَنَّ الْمَالَ مُسْتَحْقٌ بِالدِّينِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَسَبِبُ وَجْوبِ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالُ الْفَاضِلُ عَنِ الْحَاجَةِ الْمُعَدُّ لِلنَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ.

[تحفة الفقهاء: كتاب الزكاة، باب زكاة أموال التجارة، ج ۱ ص ۲۷۳، ط: دار الكتب العلمية]

۲ الہدایہ: كتاب الزكاة، ج ۱ ص ۲۰۲، ط: زمانیہ

۳ وَلَنَا قَوْلُ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا زَكَاهَ فِي الْمَالِ الْضَّمَارِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَاخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ بَعِيرٌ ضَامِرٌ إِذَا كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِهَرَالِهِ أَوْ مِنْ الإِضْسَارِ، وَهُوَ الْإِخْفَاءُ =

فَلَمَّا أَتَاهُمْ مَا كَانُوا يَرْجُونَ

(۱۲) إِنَّ تَفْلِيسَ الْقاضِي لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَيْيَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ. ①

ترجمہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی کا مفلس قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی کسی آدمی پر افلاس کا حکم لگادے تو قاضی کا مفلس قرار دینا درست ہو گا یا نہیں، تو امام صاحب کے نزدیک تفليس قاضی کا اعتبار نہ ہو گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہو گا اور یہ درست ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا قرضہ ایسے آدمی پر موجودین کا اقرار تو کرتا ہے لیکن مفلس ہو، یعنی قاضی نے اس کو مفلس قرار دیا ہو تو اس قرض میں بھی مالک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک تفليس قاضی درست نہیں ہے، اس لئے کہ مال آتا جاتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ قاضی کی تفليس کے بعد اسے نداشت ہو اور وہ کام کا ج میں لگ کر اپنی حالت سدھار لے، نیز کسی کے مفلس ہونے کا قطعی علم نہیں ہو سکتا، انسان مال و دولت کو عموماً مخفی رکھتا ہے، کسی کی درست حالت پر بعینہ آگاہی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا یہ صاحب نصاب شمار ہو گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہو گی کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی کا مفلس قرار دینا درست ہے۔ ②

= وَالْتَّغْيِيبُ، وَلَأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّاءِمِيُّ، وَلَا نَمَاءٌ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَلَا قُدْرَةٌ عَلَيْهِ  
وَابْنُ السَّبِيلِ قَادِرٌ بِنَائِيهِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الزکاۃ، شروط وجوبها، ج ۱ ص ۲۵۶، ط: دار الكتاب الاسلامی]

① الہدایہ: کتاب الزکاۃ، ج ۱ ص ۲۰۳، ط: رحمانیہ

② (لأن تفليس القاضي لا يصح عنده) أى عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأن المال غاد ورائح، فذمته بعد التفليس صحيحة كما هي قبله.

(عند محمد رحمة الله: لا تجب) أى الزکاۃ (لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس) أى عند تفليس القاضي، لأنه يصير بمنزلة المال الناوي، والمحجود بمنزلة ما ضاع من ماله بحيث لا يقدر عليه.

[البنيۃ: کتاب الزکاۃ، ج ۳ ص ۳۰۸، ط: دار الكتب العلمية]

(۱۲۸) إِنَّ النِّيَّةَ إِنِّي أَتَصَلُّ بِالْعَمَلِ وَإِلَّا فَلَا.

ترجمہ: نیت اگر عمل کے ساتھ متصل ہو تو درست ہے ورنہ نہیں۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت عمل سے متصل ہو تو وہ درست ہے یعنی عمل کرتے ہوئے نیت کر لے، لیکن اگر نیت عمل کے ساتھ متصل نہ ہو، یعنی پہلے عمل کرے اور پھر بعد میں نیت کرے تو اس نیت کا اعتبار نہ ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے باندی خریدی تجارت کے لئے اور پھر نیت کر لی خدمت لینے کی تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کی نیت عمل کے ساتھ متصل ہے، اس شخص نے نیت کو عمل یعنی ترک تجارت سے متصل کر دیا ہے، اور جو نیت عمل کے ساتھ متصل ہو وہ درست ہوتی ہے، لہذا مشتری کی بھی یہ نیت درست ہو گی اور اس پر زکوٰۃ نہ ہو گی۔ اور اگر مشتری نے پہلے باندی خریدی اور پھر بعد میں تجارت کی نیت کر لی تو یہ تجارت کے لئے نہ ہو گی، یہاں تک کہ اس باندی کو بچ دے اور پھر اس کے شمن میں زکوٰۃ ہو گی، کیونکہ یہاں اس نے ایک عمل یعنی تجارت کی نیت کی ہے جبکہ بوقتِ شراء تجارت کی نیت نہیں تھی، اس لئے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہو گا، اس لئے کہ مشتری کی نیت عمل کے ساتھ متصل نہیں ہے اور جو نیت عمل کے ساتھ متصل نہ ہو وہ معتبر نہیں ہوتی، لہذا مشتری کی بھی یہ نیت درست نہ ہو گی۔

❶ الہدایہ: کتاب الزکاۃ، ج ۱ ص ۲۰۳، ط: رحمانیہ

❷ (قَوْلُهُ لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِالْعَمَلِ) حَاصِلُ هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ التُّرُوكِ كَفَى فِيهِ مُجَرَّدُهَا فَالْتَّجَارَةُ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا يَكُفِي مُجَرَّدُ النِّيَّةِ بِخَلَافِ تَرْكِهَا، وَنَظِيرُهُ السَّفَرُ وَالْفِطْرُ وَالإِسْلَامُ وَالإِسَامَةُ لَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَتَثْبُتُ أَضْدَادُهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَلَا يَصِيرُ مُسَافِرًا وَلَا مُفْطِرًا وَلَا مُسْلِمًا وَلَا الدَّائِبَةُ سَائِمَةً بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَلْ بِالْعَمَلِ، وَيَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا وَالْمُفْطِرُ صَائِمًا وَالْمُسْلِمُ كَافِرًا وَالدَّائِبَةُ عَلُوفَةً بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُفْطِرِ الَّذِي لَمْ يَنْوِ صُومًا يُعَدُّ فِي وَقْتٍ تَصْحُّ فِيهِ النِّيَّةُ.

[فح القدير: کتاب الزکاۃ، ج ۲ ص ۱۶۹، ط: دار الفکر]

باب صدقة السوائم

(١٣٩) إِنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ. ①

ترجمہ: نصاب مقرر کرنے میں قباس نہیں چلتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں میں نصاب مقرر کیا ہے وہی ہو گا قیاس سے کسی چیز میں نصاب مقرر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نصاب مقرر کرنا یہ نقل پر موقوف ہے قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فصلان (اونٹ کا ایک سال سے کم عمر پچ) عجائب (گائے کا ایک سال سے کم عمر پچ) اور حملان (بکری کا ایک سال سے کم عمر پچ) میں امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ بڑے جانور نہ ہوں، یہ امام صاحب کے اقوال میں سے آخری قول ہے اور یہی امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اس آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ نصاب مقرر کرنے میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، جب شریعت نے ان میں زکوٰۃ مقرر نہیں کی تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لئے کہ مقادیر نصاب سماع پر موقوف ہیں اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، چنانچہ شریعت نے جس طرح ہمیں بتایا ہے ہم اسی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اگر کسی کے پاس نصاب پورا ہے تو وہ مذکورہ جانوروں کو زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا، جب ان کو نہیں دے سکتا تو ان حانوروں میں زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ ۲

(١٥٠) إِنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الرِّزْكَاهِ جَائِزٌ. ۝

١ الهدایة: کتاب الزکاة، فصل فی الخیل، فصل، ج ۱ ص ۲۰۸، ط: رحمانیہ

٢ وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا، لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس فيما كان هذا وصفه، وإنما طريقها التوقيف.

[شرح مختصر الطحاوى للجصاص: كتاب السرقة وقطع الطريق، ج ٢ ص ٢٩٢، ط: دار

البشائر الإسلامية

الهدایة: کتاب الزکاہ، فصل فی الخیل، فصل، ج ۱ ص ۲۰۸، ط: رحمانیہ

ترجمہ: زکوٰۃ کے باب میں قیمت لینا جائز ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پر مثلاً کوئی جانور دینا واجب ہے، اور اس کے پاس بعینہ وہ جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی پر مُسْتَحْسَنَۃ (جانوروں کا دوسالہ بچہ) واجب ہو اور اس کے پاس یہ نہ ہو تو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ اس مالک سے اعلیٰ جانور لے لے اور جو زیادتی ہے وہ مالک کو واپس کر دے، یا مالک اس سے چھوٹا جانور دیدے اور ساتھ جو زائد پیسے بنتے ہیں وہ دیدے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مالک پر جانور واجب ہے اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ اس جانور سے چھوٹے جانور کے ساتھ کچھ پیسے دیتا ہے تو یہ درست ہے کیونکہ زکوٰۃ میں شیٰ مواجب کی قیمت دینا درست ہے۔ ①

(۱۵) إِنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلَّا كَثِيرٍ ②

ترجمہ: قلیل اکثر کے تابع ہوتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو شیٰ کم ہو وہ اکثر کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو حکم اکثر کا ہو گا، ہی اس شیٰ قلیل کا بھی ہو گا۔

① وأصل ذلك ما رواه البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله أنا أبي، حدثنا ثمامة أن أنسا، حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعندك الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين .... الحديث، ثم المعتبر ما بين القيمتين في الرد والاسترداد أي شيء كان، لأن القيمة تتفاوت باختلاف الرخص من الغلاء، وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم، لأنك كان بحسب الغالب في ذلك الزمان.

[البنيان: كتاب الزكاة، فصل في الخيل، فصل، ج ۳ ص ۳۳۸، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایہ: كتاب الزکاة، فصل في الخيل، فصل، ج ۱ ص ۲۰۸، ط: رحمانیہ

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سائمه یعنی چرنے والا جانور اس کو کہیں گے جو سال کے اکثر حصے میں چرنے پر اکتفاء کرتے ہوں یعنی سال کے اکثر حصے میں چرتے ہوں، اگر اس کو آدھا سال گھر میں چارہ کھلایا ہو یا سال کے اکثر حصے میں گھر میں چارہ کھلایا ہو تو وہ سائمه نہ ہوں گے بلکہ علوفہ کھلانیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سال کے اکثر حصے میں اس کو چارہ کھلایا ہو اور کم مدت میں باہر چرتے ہوں تو اکثر کا اعتبار ہو گا اور قلیل اکثر کے تابع ہو گا، تو یہاں بھی باہر چرنے کی کم مدت اُس اکثر مدت کے جو گھر میں چارہ کھلایا ہے تابع ہو گی، گویا کہ اس کو پورے سال گھر میں چارہ کھلایا ہے اور جس کو پورے سال گھر میں چارہ کھلایا جاتا ہے وہ سائمه نہیں کھلاتا بلکہ علوفہ کھلانیں گے، اور ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو گی۔ ①

### (۱۵۲) إِنَّ الْجِبَايَةَ بِالْحِمَاءِ.

ترجمہ: ٹیکس حفاظت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حاکم اپنے ماتخواں سے زکوٰۃ لینے کا حقدار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس حاکم کی حمایت اور حفاظت میں ہوتے ہیں۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کفار سے خوارج و بُغات نے زبردستی خراج و صول کیا، پھر امام عادل مع لشکر پیش کران پر غالب آ گیا تو کیا ان سے دوبارہ خراج لیا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دوبارہ نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ امام عادل نے ان کی حفاظت نہیں کی اور محصول حفاظت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ جب خارجیوں نے خراج لے لیا تو گویا کہ حاکم نے ان کی حفاظت نہ کی اور جب حاکم نے حفاظت نہیں کی تو اب مالک پر

① (ثُمَّ السَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتُفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتَّى لَوْ عَلِفَهَا نَصْفُ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ عَلَوْفَةً، لَأَنَّ الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ) لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفووا سوائهم في البرد والثلج، فجعل الأقل تابعا للأكثر، ولا خلاف أن السائمة في جميع الحالات يجب فيها الزكاة، والعلوفة في جميع السنن لا تجب فيها الزكاة، وإنما الخلاف في الإسامة في أكثر الحالات، فعندنا وأحمد وبعض أصحاب الشافعى لو علفت في نصف السنن أو أكثر كانت علوفة.

[البنيان: كتاب الزكاة، فصل في الخيل، فصل، ج ۳ ص ۳۵۲، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایہ: كتاب الزكاة، فصل في الخيل، فصل، ج ۱ ص ۲۰۹، ط: رحمانیہ

دوبارہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جبایت تو حمایت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ①

باب فيمن يمر على العاشر

(١٥٣) **الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكَرِ مَعَ الْيَمِينِ.** ②

ترجمہ: منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔

شرط: ذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدعا کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس صورت میں منکر کے قول کا اعتبار قائم کے ساتھ ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو بتلار ہے ہیں کہ اگر مصدق (یعنی زکوہ وصول کرنے والا) عاشر (یعنی عشر دینے والے) پر گزرنا، عاشر نے کہا میں نے تو ایک مہینہ پہلے زکوہ دے دی تھی، یا کہتا ہے کہ مجھ پر قرضہ ہے اور ساتھ قسم بھی کھالی تو اس عاشر کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مصدق مدعا ہے وہ دعوی کرتا ہے کہ آپ پر زکوہ دینا واجب ہے اور عاشر اپنے اوپر وجوب زکوہ کا انکار کرتا ہے، چونکہ منکر کا قول مع ایمین معتبر ہوتا ہے، تو اس عاشر کا قول بھی مع ایمین معتبر ہو گا، لہذا عاشر کی تصدیق کی جائے گی۔ ⑦

❶ (وَلَوْ أَخَذَ الْخَرَاجَ وَالْعُشْرَ وَالزَّكَاهُ بِعَاوَهُ لَمْ تُؤْخَذْ أُخْرَى) لَأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُحْمِلْهُمْ وَالْجِبَائِيَّةُ  
بِالْحِمَاءَيَّةِ، وَقَدْ كَسَبَ عُمَرُ إِلَيْيَ عَامِلِهِ إِنْ كُنْتَ لَا تَحْمِلُهُمْ فَلَا تَجْهِيمُ.

[تبين الحقائق: كتاب الزكاة، زكاة الخيل، ج ١ ص ٢٧٣، ط: دار الكتاب الإسلامي]

**(٢) الهدایة: كتاب الزكاة، باب فيمن يمر على العاشر، ج ١ ص ٢١٣، ط: زمانية**

**(٣) فَمَنْ قَالَ لَمْ يَتَمَّ الْحَوْلُ أَوْ عَلَىٰ دِينٍ أَوْ أَدْيَتْ أَنَا أَوْ إِلَيْيَ عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صَدَقَ إِلَّا فِي السَّوَائِمِ فِي دَفْعَهِ بِنَفْسِهِ أَيْ مَنْ قَالَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لَمْ يَتَمَّ عَلَىٰ مَالِي الْحَوْلُ أَوْ عَلَىٰ دِينٍ أَوْ أَدْيَتْ أَنَا بِنَفْسِي إِلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ أَوْ إِلَى عَاشِرٍ آخَرَ وَحَلَفَ صَدَقَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَانِعَةٌ مِنِ الْلُّوْجُوبِ لِأَنَّ الْحَوْلَ وَالْفَرَاغَ مِنَ الدِّينِ شَرْطٌ لِلْجُوبِ الْزَّكَاتَةِ وَهُوَ بِدَعْوَاهُ إِيَّاهُمَا مُنْكِرٌ لِلْلُّوْجُوبِ وَالْقُولُ قَوْلُ الْمُنْكَرِ مَعَ يَمِينِهِ لَا سِيمَاهَا إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَبِدَعْوَاهُ الْأَدَاءُ إِلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ إِلَى عَاشِرٍ آخَرَ مُدَعِّي لِوَضْعِ الْأَمَانَةِ مَوْضِعَهَا فَيُصَدَّقُ إِذْ قَوْلُ الْأَمِينِ مَقْبُولٌ فَلَا يَجُبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ثَانِيًّا وَلَا يَدُعُ مِنَ الْيَمِينِ لَأَنَّهُ مُنْكَرٌ.**

[تبين الحقائق: كتاب الزكاة، باب العاشر، ج ١ ص ٢٨٣، ط: دار الكتاب الإسلامي]

١٥٣) إِنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ.

ترجمہ: بے شک خط خط کے مشابہ ہوتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ایک خط دوسرے خط کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے، اسی بناء پر کسی خط کو علامت قرار دینا درست نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو بتلار ہے ہیں کہ جن صورتوں میں مالک کی تصدیق کی جاتی ہے (یعنی جانوروں اور اموال تجارت کی زکوٰۃ دینے میں) تو مالک پر ادائیگی کی پرچی دکھانا شرط نہیں ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے، کیونکہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے، لہذا تحریر کو وصولِ زکوٰۃ پر علامت قرار دینا درست نہیں ہے۔ اس میں با آسانی جعل سازی ہوتی ہے، اس لئے تحریر کو علامت متعین کرنا پے سود ہے۔ ۲

(١٥٥) إِنَّ الْقِيمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ وَفِي ذَوَاتِ الْأُمْثَالِ

لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ. ۖ

ترجمہ: ذوات القیم میں قیمت کو عین شئ کا حکم حاصل ہے اور ذوات الامثال کے لئے عین کا حکم نہیں ہے۔

شرط: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی دو قسمیں ہیں:

ا.....ذوات القيمة: یعنی وہ اشیاء جن کا مش موجود نہ ہو (تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے)۔

۲.....ذوات الامثال: يعني وہ اشیاء جن کا مشل موجود ہو۔

اب جو چیزیں ذواتِ القیم میں سے ہیں ان کی قیمت کا وہی حکم ہے جو عینِ شیء کا حکم ہے اور

<sup>١١</sup> الهدایة: کتاب الزکاۃ، باب فیمن یمر علی العاشر، ج ۱ ص ۲۱۳، ط: رحمانیہ

٢ وأشار المصنف بالكتفاء بالحليف إلى الله لا يشترط إخراج البراءة فيما إذا أدعى الدفع إلى عاشر آخر تبعاً لجامع الصغير، لأن الخط يُشبّه الخط فلم يعتبر علامه، وهو ظاهر الرواية كما في البدائع.

[البحر الرائق: كتاب الزكاة، باب العاشر، ج ٢ ص ٢٣٩، ط: دار الكتاب الإسلامي]

<sup>٢</sup> الهدایة: کتاب الزکاة، باب فیمن یمر علی العاشر، ج ۱ ص ۲۱۵، ط: رحمانیہ

ذوات الامثال میں قیمت کا حکم عین شی کا حکم نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ذمی شراب اور خزیرے کر گزر تو شراب کا عشر لیا جائے گا اور خزیرہ کا نہیں لیا جائے گا، کیونکہ خزیرہ ذوات القيم میں سے ہے اور ذوات القيم میں قیمت کا حکم عین شی کا حکم ہوتا ہے، اب اگر خزیرہ کا عشر لیا جائے تو ایسا ہے جیسا کہ عین خزیرہ، اور خزیرہ مال نہیں ہے۔ شراب کا عشر اس لئے لیا جائے گا کہ شراب ذوات الامثال میں سے ہے اور ذوات الامثال میں قیمت کا حکم عین شی کا حکم نہیں ہوتا، تو قیمت کا لینا شراب کا لینا ہوگا۔ ①

## باب فی المعادن والرکاز

(۱۵۶) إِنَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ وَجَدَتُهُ أَيْدِيهِنَا يَكُونُ غَيْرِمَةً۔ ②

ترجمہ: یہ (معادن) کفار کے قبضے میں تھیں اور ہم غلبہ سے ان پر قابض ہوئے تو یہ ہمارے لئے غنیمت ہوں گی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کفار کے قبضے میں ہو پھر مسلمان اس پر قابض ہو جائیں تو وہ شی مال غنیمت شمار ہوگی اور اس پر غنائم کے احکام جاری ہوں گے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ سونے کی کان یا چاندی کی کان یا لو ہے کی کان یا سیسے کی کان یا پیٹل کی کان کسی زمین میں پائی گئی چاہے وہ زمین عشری ہو یا خراجی ہو، ان مذکورہ اشیاء میں خمس واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین پہلے ماضی میں کفار کے قبضے

❶ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ لَهَا حُكْمُ الْعِينِ، وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَا، وَفِي ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ، وَالْخَمْرُ مِنْهَا وَلَأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ مِنْهَا لِلْحِمَاءِ وَالْمُسْلِمِ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ لِلتَّخْلِيلِ فَكَذَا يَحْمِيَهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يَحْمِي خِنْزِيرٌ نَفْسَهُ بَلْ يَجِبُ تَسْيِيهُ بِالإِسْلَامِ فَكَذَا لَا يَحْمِيَهَا عَلَى غَيْرِهِ۔

[البحر الرائق: كتاب الزكاة، باب العاشر، ج ۲ ص ۲۵، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الهدایۃ: کتاب الزکاة، باب فی المعادن والرکاز، ج ۱ ص ۲۱۶، ط: رحمانیہ

میں تھی بعد میں مسلمان اس پر قابض ہوئے ہیں، اور جو چیز پہلے کفار کے قبضہ میں ہو بعد میں مسلمان قابض ہو جائیں وہ غنیمت ہوتی ہے، لہذا مذکورہ اشیاء بھی مال غنیمت ہوں گی اور مال غنیمت میں خمس واجب ہوتا ہے، لہذا مذکورہ اشیاء میں بھی خمس واجب ہوگا۔ ①

(۱۵) إِنَّ الْجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ. ②

ترجمہ: جزء کل کے مخالف نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جزء اپنے کل کے مخالف نہیں ہوتا بلکہ کل کے موافق ہوتا ہے، جو حکم کل یعنی تمام اجزاء کا ہوتا ہے وہی اُس ایک جزء کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ تمام اجزاء میں یہ ایک جزء بھی داخل ہے لہذا یہ کل کے موافق ہوگا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کر کر کے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں معدن پایا تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ گھر کی معدن گھر کی زمین کا ایک جزء ہوتی ہے، اور گھر میں اجزاء میں خمس وغیرہ واجب نہیں ہوتا، اور نہ ہی دیگر کوئی معونت اور ٹیکس واجب ہوتا ہے، لہذا گھر میں نکلنے والی کان میں خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کی معدن اجزاء گھر میں سے ایک جزء ہے اور جب کل میں کوئی چیز واجب نہیں ہے تو جزء میں بھی واجب نہیں ہوگی، اس لئے کہ جزء کل کے مخالف نہیں ہوتا، برخلاف کنز اور دفینہ کے وہ از خود دفن کیا جاتا ہے اس

❶ (قُولُهُ خُمُسُ مَعْدِنٍ نَقْدٍ وَنَحْوِ حَدِيدٍ فِي أَرْضٍ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَهُوَ مِنْ الرِّكْزِ فَأَنْطَلَقَ عَلَى الْمَعْدِنِ وَلَأَنَّهُ كَانَ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَحَوْتُهُ أَيْدِينَا غَلَبَةً فَكَانَ عَنِيمَةً، وَفِي الْغَيْمَةِ الْخُمُسُ إِلَّا أَنَّ الْمُغَانِمِينَ يَدَا حُكْمِيَّةً لِبُوتوَهَا عَلَى الظَّاهِرِ وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلِلُواجِدِ فَأَعْبَرُنَا الْحُكْمِيَّةَ فِي حَقِّ الْخُمُسِ وَالْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ حَتَّىٰ كَانَ لِلْوَاجِدِ، وَالنَّقْدُ الدَّهْبُ وَالْفِضَّةُ وَنَحْوُ الْحَدِيدِ كُلُّ جَامِدٍ يَنْطَبِعُ بِالنَّارِ كَالرَّصَاصِ وَالنَّحَاسِ وَالصُّفْرِ.

[البحر الرائق: كتاب الزكاة، باب الركاز، ج ۲ ص ۲۵۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: كتاب الزكاة، باب في المعادن والركاز، ج ۱ ص ۲۱۶، ط: رحمانیہ

فَلَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِهِ

لئے وہ پیدائشی طور پر زمین کے اجزاء میں سے نہیں ہے، اس لئے اس پر خمس واجب ہوگا۔ ①

(۱۵۸) إِنَّ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ لَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِهِ。 ②

ترجمہ: جس چیز پر زبردستی واقع نہ ہوا سے لی ہوئی چیز غیمت نہ ہوگی۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس زمین پر زبردستی قبضہ نہ ہوا ہو یعنی مسلمانوں نے کفار سے زبردستی نہ لی ہو تو اس زمین سے لی ہوئی چیزیں مال غیمت نہ ہوں گی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ طرفین کے نزدیک موتی اور عنبر میں خمس واجب نہیں ہے، اس لئے کہ خمس اس مال میں واجب ہوتا ہے جو پہلے کفار کے قبضہ میں ہوا اور پھر مسلمان حملہ آور ہو کر اس پر غلبہ پا گئے، عنبر ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے قبضہ میں نہیں تھا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سونا اور چاندی جو دریا کے اندر ہوں اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں کو سمندر سے لیا جاتا ہے اور سمندروں کی زمین پر مسلمان زبردستی قابض نہیں ہوئے اور جس زمین پر زبردستی قبضہ نہ ہوا سے ماخوذ چیزیں غیمت نہیں ہوتیں، لہذا موتی اور عنبر میں خمس نہیں ہوگا۔ ③

① أَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ مُرَكَّبٌ فِيهَا، وَلَا مُؤْنَةٌ فِي سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فَكَذَّا فِي هَذَا الْجُزْءِ، لَأَنَّ الْجُزْءَ لَا يُخَالِفُ الْجُمْلَةِ بِخَلَافِ الْكُتُرِ فِإِنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ فِيهَا.

[البحر الرائق: كتاب الزكاة، باب الركاز، ج ۲ ص ۲۵۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

② الهدایہ: كتاب الزکاة، باب فی المعادن والرکاز، ج ۱ ص ۷۱، ط: رحمانیہ

③ أَنَّ مَحَلَّ الْخُمُسِ الْغَيْرِيَّةِ وَالْغَيْمَةِ مَا كَانَتْ لِلْكُفَّارِ ثُمَّ تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبةِ وَبِأَطْنَانِ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ قَهْرٌ فَلَمْ يَكُنْ غَيْمَةً.

[رد المحتار: كتاب الزکاة، باب زکاة الرکاز، ج ۲ ص ۳۲۲، ط: دار الفكر]

وَكَذَّا لَا شَيْءَ فِيمَا أُسْتُخْرِجَ مِنْ الْبَحْرِ، وَلَوْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، لَأَنَّ قَعْدَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلَا يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرِيَّةً فَلَا يَكُونُ فِيهِ الْخُمُسُ.

[مجمع الأنهر: كتاب الزکاة، باب الرکاز، ج ۱ ص ۲۱۲، ط: دار إحياء التراث]

## باب زکاة الزروع والشمار

(۱۵۹) إِنَّ الْخَرَاجَ أَلِيقٌ بِحَالِ الْكَافِرِ. ①

ترجمہ: خراج لینا کافر کے حال کے زیادہ لائق ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ خراجی زمین میں خراج لینا کافر کی حالت کے زیادہ مناسب ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک زمین مسلمان کے پاس تھی وہ عشرہ دا کرتا تھا، پھر اس نے کسی نصرانی پر بیچ دی اور نصرانی نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس نصرانی سے خراج لیا جائے گا، اس لئے کہ خراج ہی اس کی حالت کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ عشرہ میں عبادت کا مفہوم ہے اور کافر اداۓ عبادت کا اہل نہیں ہے، لہذا اس پر خراج واجب کرنا زیادہ مناسب ہے تا کہ یہ اس کے لئے عبرت اور سزا ہو۔ ②

(۱۶۰) إِنَّ الْخَرَاجَ يَتَعَلَّقُ بِالْتَّمَكُنِ مِنَ النَّرَاعَةِ. ③

ترجمہ: خراج کا تعلق کھیتی باڑی پر قدرت کے ساتھ ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو خراج ہوتا ہے یہ بالفعل پیداوار کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق بالوقت پیداوار کے ساتھ ہے، یعنی اگر زمین کھیتی باڑی کی صلاحیت رکھتی ہو تو اس صورت میں خراج لیا جائے گا، اگرچہ اس میں اب بالفعل کچھ بھی نہ ہوا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ خراجی زمین میں اگر پیداوار کی صلاحیت ہو تو اس صورت میں خراج لیا جائے گا اگرچہ فی الحال اس میں پیداوار نہ ہو، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس خراجی زمین ہے اور وہ زمین پیداوار کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اب اگر مالک اس کو ویسے

① الہدایہ: کتاب الزکاۃ، باب زکاة الزروع والشمار، ج ۱ ص ۲۲۰، ط: رحمانیہ

② لأن الخراج (أليق بحال الكافر) لأن الكفر ينافي أداء العبادة بخلاف الخراج، لأن الإسلام لا ينافي العقوبة.

[البنيۃ: کتاب الزکاۃ، باب زکاة الزروع والشمار، ج ۳ ص ۳۳۳، ط: دار الكتب العلمیة]

③ الہدایہ: کتاب الزکاۃ، باب زکاة الزروع والشمار، ج ۱ ص ۲۲۱، ط: رحمانیہ

چھوڑ دے اس میں کھینچ بارٹی نہ کرے، بالفعل کچھ بھی نہ ہوت بھی اُس سے خراج لیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خراج کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ زمین زراعت کی صلاحیت رکھتی ہوا اور یہاں بھی زمین زراعت کی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے خراج لازم ہو گا، زراعت نہ کرنا اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ ①

## باب من يجوز دفع الصدقات إلية ومن لا يجوز

(۱۶۲) إِنَّ التَّمْلِيْكَ شَرُطٌ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ. ②

ترجمہ: تمیلیک زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے شرط ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تمیلیک شرط ہے، یعنی زکوٰۃ اس وقت اداء ہو گی جب آپ کسی کو مالک بنادیں، بدون تمیلیک کے زکوٰۃ اداء نہ ہو گی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے نہ مسجد بناسکتے ہیں اور نہ کسی میت کی تکفین کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں تمیلیک معدوم ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے تمیلیک شرط ہے، بہر حال زکوٰۃ اس وقت اداء ہو گی جب آپ کسی کو مالک بنادیں اور مسجد بنانا یا میت کی تکفین وغیرہ کرنا اس میں آپ نے کسی کو مالک نہیں بنایا اور بدون تمیلیک کے زکوٰۃ اداء نہیں ہوتی، تو مذکورہ صورتوں میں بھی زکوٰۃ اداء نہ ہو گی۔ ③

❶ (وَإِنْ كَانَتْ) عَيْنُ قِيرٍ أَوْ نَفْطٍ (فِي أَرْضِ خَرَاجٍ فَفِي حَرِيمِهَا الصَّالِحِ لِلزَّرَاعَةِ الْخَرَاجُ) قَيْدٌ بِكُوْنِ الْحَرِيمِ الصَّالِحِ لِلزَّرَاعَةِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، لَأَنَّ الْخَرَاجَ يَتَعَلَّقُ بِالْتَّمَكِّنِ مِنْ الزَّرَاعَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَرِيمُ عُشْرِيًّا وَزَرَعَهُ وَجَبَ الْعُشْرُ فِيمَا يَخْرُجُ وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهُ لَا شَيْءٌ عَلَيْهِ.

[مجمع الأئمہ: کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الخارج، ج ۱ ص ۲۱۹، ط: دار إحياء التراث]

❷ الہدایہ: کتاب الزکاۃ، باب من یجوز دفع الصدقات إلیه ومن لا یجوز، ج ۱ ص ۲۲۲، ط: زرمانیہ

❸ (قَوْلُهُ وَلَا يُبَيِّنُ بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيْتٌ) لَا نَعْدَامُ التَّمْلِيْكِ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْنُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّمْلِيْكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي تَكْفِينِ الْمَيْتِ أَنَّ الدَّلِيلَ لَوْ أَكَلَ الْمَيْتَ يَكُونُ الْكَفْنُ لِلْمَكْفُنِ لَا لِلْوَارِثِ كَذَا فِي النَّهَايَةِ وَكَذَا لَا يُقْضَى بِهَا ذِيْنُ مَيْتٍ وَلَا يُبَيِّنُ بِهَا السَّقَائِيَّاتُ وَلَا تُحْفَرُ بِهَا الْأَبَارُ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقْبِضَهَا فَقِيرٌ أَوْ يَقْبِضَهَا لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ لِأَنَّهَا تَمْلِيْكٌ وَلَا بُدُّ فِيهَا مِنْ الْقِضَى.

[الجوهرۃ النیرۃ: کتاب الزکاۃ، باب مصارف الزکاۃ، ج ۱ ص ۱۲۹، ط: المطبعة الخیریۃ]

## باب صدقة الفطر

**(۱۲۳) إِنَّ سَبَبَ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ.** ①

ترجمہ: صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ایسا رہے جس کا خرچہ برداشت کیا جاتا ہوا اور جس پر ولایت حاصل ہو۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہمارے نزدیک ہروہ رأس ہے جس کا خرچہ برداشت کیا جاتا ہوا اور اس پر ولایت حاصل ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں جو شخص نصاب کا مالک ہوا سے چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنی زیر تربیت نابالغ اولاد اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، اس لئے کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ایسا رأس ہے جس کا وہ شخص متولی ہے اور اس کے ننان نفقہ کا ذمہ دار ہے، اس لئے تو صدقۃ فطر کو رأس کی طرف منسوب کر کے زکوٰۃ الرأس کہا جاتا ہے، اور ایک چیز کی دوسری کی طرف اضافت کرنا مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے، پس معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کا سبب رأس اور ذات ہے۔ اولاد صغار کا خرچہ اور ولایت چونکہ والد کی ہے اس لئے صدقۃ الفطر والد پر واجب ہو گا بشرطیکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح غلاموں کا صدقہ مولیٰ پر واجب ہے، اس لئے کہ ان کا خرچہ بھی مولیٰ برداشت کرتا ہے اور ان پر ولایت بھی مولیٰ کو حاصل ہے۔ ②

**❶ الہدایہ: کتاب الزکاۃ، باب صدقة الفطر، ج ۱ ص ۲۲۵، ط: رجمانہ**

**❷ (عَنْ نَفْسِهِ وَأُولَادِهِ الصَّغَارِ وَعِيَدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبِّرِهِ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَا غَيْرُهُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنْ سَبَبَ وُجُوبِهَا رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ، لَأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ رَأْسِهِ فِي الدَّبَّ وَالنُّصْرَةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ فَيُلَزِّمُهُ عَنْ أُولَادِهِ الصَّغَارِ وَمَمَالِيِّكِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْمُدَبِّرِ وَأُمَّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَلَا تَجِبُ عَنْ أَبْوَيْهِ وَأُولَادِهِ الْكِبَارِ وَرَوْجَتِهِ وَمُكَاتِبِهِ لِعدَمِ الْوِلَايَةِ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ مَجْنُونًا فَقِيرًا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ لِوُجُودِ الْمَتُونَةِ وَالْوِلَايَةِ.**

[الاختیار لتعلیل المختار: کتاب الزکاۃ، باب صدقة الفطر، ج ۱ ص ۱۲۳، ط: المطبعة الحلبي]

①) إِنَّ الْإِذْنَ قَدْ يُبَثُّ عَادَةً۔

ترجمہ: اجازت کسی عادتاً ثابت ہوتی ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اجازت صراحتاً جاتی ہے لیکن بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی اجازت عادت کے طور پر ثابت ہوتی ہے یعنی ان کی صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بالغ اولاد یا اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا ان کی اجازت اور حکم کے بغیر تو استحساناً یہ جائز ہے، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے عادتاً اجازت ثابت ہے، اور ضابطہ ہے کہ ”الثَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِثُ بِالنَّصِّ“ یعنی عرف و عادت سے ثابت ہونے والی چیز صراحتاً ثابت کی گئی چیز کی طرح ہوتی ہے۔ ②

②) إِنَّ الْإِضَافَةَ تُفِيدُ الْأُخْتِصَاصَ۔

ترجمہ: اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اضافت یعنی مضافت، مضافت الیہ میں نسبت کا ہونا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جب ایک چیز دوسری کی طرف مضافت ہو تو یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مضافت، مضافت الیہ کے ساتھ خاص ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجب کا تعلق عید الفطر کے دن طلوع فجر کے ساتھ ہے، کیونکہ صدقہ فطر کی اضافت عید الفطر کے دن کی

①) الہدایہ: کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر، ج ۱ ص ۲۲۵، ط: رحمانیہ

②) (ولو أدى عنهم) أي عن أولاده الكبار (أو عن زوجته) أي أو أدى عن زوجته (بغير أمرهم أجزأ استحسان لثبت إذن عادة) والقياس أن لا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها، وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدى عنها، وكان إذن ثابنا عادة، بخلاف الزكاة، لأنها عبادة محضة لا تصح بدون إذن صريح.

[البنيۃ: کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر، ج ۳ ص ۳۸۹، ط: دار الكتب العلمية]

③) الہدایہ: کتاب الزکاة، فصل في مقدار الواجب ووقته، ج ۱ ص ۲۲۸، ط: رحمانیہ

طرف ہے نہ کہ رات کی طرف، اور اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، لہذا صدقہ فطر بھی دن کے ساتھ خاص ہو گانہ کہ رات کے ساتھ، نیز فطر سے صوم کی ضد مراد ہے اور صوم کا تعلق دن سے ہے، تو صوم کی ضد یعنی فطر کا تعلق بھی دن کے ساتھ ہو گانہ کہ رات کے ساتھ۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کے دن صحیح صادق سے شروع ہوتی ہے۔ مذکورہ اصول کی بنابر اگر طلوع فجر کے وقت صدقہ فطر کا سبب یعنی ”مؤنث اور ولایت“ موجود ہو تو صدقہ فطر واجب ہو گا اگر نہ ہو تو واجب نہ ہو گا، مثلاً عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے کوئی فوت ہو گیا تو صدقہ فطر ساقط ہو جائے گا اور اگر طلوع فجر کے وقت کوئی بچ پیدا ہوا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ ①

① (ولنا أن الإضافة) أي إضافة الصدقة إلى الفطر (للاختصاص، واحتياط الفطر باليوم دون الليل) إذ المراد فطر يضاد الصوم، وهو في اليوم لأن الصوم فيه حرام، ألا ترى أن الفطر كان يوجد في كل ليلة من رمضان، ولا يتعلق الوجوب به، فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم.  
[البنيان: كتاب الزكاة، فصل في مقدار الواجب ووقته، ج ۳ ص ۵۰۳، ط: دار الكتب العلمية]

## كتاب الصوم

١٦٦) إِنَّ الْكُفَّارَةَ تَنْدِرُ إِلَى الشَّبَهَاتِ. ①

ترجمہ: کفارہ شبہات سے ساقط ہو جاتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا طلب یہ ہے کفارات شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اکیلے رمضان کا چاند دیکھا تو وہ روزہ رکھے اگرچہ امام وقت کسی وجہ سے اس کی شہادت کو قبول نہ کرے، اس لئے کہ حدیث میں ”صُومُوا الرُّؤْيَةَ“، ”صُومُوا“، کاظم عالم ہے، جس شخص کو بھی روئیت حاصل ہو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والے نے روزہ نہ رکھا بلکہ افطار کر دیا، تو اس صورت میں اس پر قضاء تو واجب ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ قاضی نے شرعی دلیل سے اس کی شہادت کو رد کیا ہے اور وہ دلیل شرعی غلطی کی تہمت ہے، جب مطلع صاف تھا تو علاقہ میں کسی کو نظر نہیں آیا، اور صرف اس شخص کو نظر آیا، تو یہ باعث حیرت ہے، نیز ممکن ہے کہ اس نے چاند جیسی کوئی چیز دیکھی ہو اور اس سے چاند سمجھ لیا ہو تو دیکھنے میں غلطی واقع ہو گئی، اس لئے امام نے اس کی شہادت کو رد کر دیا، تو روئیت ہلال میں شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہات سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ②

❶ الہدایہ: کتاب الصوم، ج ۱ ص ۲۳۳، ط: رحمانیہ

❷ أَنَّ الْقَاضِيَ رَدَ شَهَادَتَهُ بِدَلِيلٍ شَرِعيٍّ وَهُوَ تَهْمَةُ الْغُلْطِ لَاَنْ تَفَرِّدَهُ بِالرَّؤْيَةِ مَعَ تَسَاوِيِ كَافِةِ النَّاسِ فِي النَّظَرِ وَالْمُنْظَرِ وَالْجُوَّ وَالْإِلْتَسَامِ يُورَثُ تَهْمَةُ الْغُلْطِ وَهَذِهِ الْكُفَّارَةُ تَنْدِرُ إِلَى الشَّبَهَاتِ وَلَاَنَّ عَدَمَ وَجُوبَ الصَّومِ عَلَى غَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَقِ الْكَافِةِ وَكَذَا فِي حَقِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا شَهْرَكُمْ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُكُمْ يَوْمَ تصُومُونَ . فَجَعَلَ الشَّهْرَ مَضَافًا إِلَى الْكَافِةِ لَا إِلَى وَاحِدٍ بَعْنَيهِ فَلَا تَثْبِتُ الرَّمَضَانِيَّةَ إِلَّا بِوَجُوبِ الصَّومِ عَلَى الْكُلِّ فَإِذَا لَمْ تَثْبِتِ الرَّمَضَانِيَّةَ قَطَّعًا لَا تَجُبُ الْكُفَّارَةُ.

[الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: كتاب الصوم، ص ۲۲، ط: المؤسسة

①) إِنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

ترجمہ: دینات میں فاسن کا قول معتبر نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ دینی امور و معاملات میں فاسن کا قول معتبر نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر آسمان میں علت ہو یعنی ابر وغیرہ ہو تو اس صورت میں امام چاند دیکھنے میں ایک عادل آدمی کی گواہی کو قبول کرے گا، چاہے وہ ایک عادل مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، لیکن عدالت شرط ہے کہ ایک عادل ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینات کے قبیل سے ہے اور دینات میں فاسن کا قول معتبر نہیں ہے بلکہ عادل ہونا ضروری ہے۔ ②

## باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ

③) إِنَّ الْهَيَّةَ إِنْ كَانَتْ مُذَكَّرَةً لَا يُعْتَبِرُ النِّسِيَانُ وَإِلَّا فَهُوَ مُعْتَبِرٌ.

ترجمہ: اگر ہیئت و کیفیت یادداںے والی ہو تو نسیان کا اعتبار نہیں ہوگا، وگرنہ نسیان معتبر ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ایسے فعل میں مشغول ہو کہ اس فعل کی ہیئت اور کیفیت انسان کو وہ فعل یادداںے والی ہو تو اس میں بھول جانے کا اعتبار نہ ہوگا، اور اگر ایسے فعل میں مشغول ہو کہ اس فعل کی حالت اور کیفیت انسان کو یادداںے والی نہ ہو تو اس میں نسیان معتبر ہوگا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر روزے دار نے بھول کر کچھ کھاپی لیا یا جماع کر لیا تو ان صورتوں میں استحساناً روزہ نہ ٹوٹے گا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ قیاس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ امساک کا نام ہے اور کھانا پینا یا جماع کرنا امساک کی ضد ہے، اور قاعدہ ہے کہ شیء اپنی ضد سے باطل ہو جاتی ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جانا چاہئے اور یہ ایسا ہے جیسا کہ نماز

❶ الہدایہ: کتاب الصوم، ج ۱ ص ۲۳۳، ط: رحمانیہ

❷ (فِي رؤية الهلال رجالاً كان أو امرأة حراً كان أو عبداً) لأنه أمر ديني فأشباهه رواية الأخبار، ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة، وتشترط العدالة، لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول.

[اللباب في شرح الكتاب: کتاب الصوم، ج ۱ ص ۱۲۲، ط: المکتبة العلمیة]

❸ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۳۲، ط: رحمانیہ

میں بھول کر کھانے پینے یا بات کرنے سے سے نمازوں جاتی ہے، اسی طرح روزہ بھی نسیانًا اکل و شرب سے ٹوٹ جائے گا۔ استحسان کی وجہ یہ حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكِلَ وَشَرِبَ، فَلَيْتَمْ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ①.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہئے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلا یا اور پلا یا ہے۔

بہر حال مذکورہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا برخلاف نماز کے، کیونکہ نماز کی بیست انسان کو یاد دلاتی ہے، نماز کی حالت میں ہمہ وقت یاد رہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، کیونکہ نماز کی حالت غیر حالت نماز کے بالکل مختلف ہے، نماز میں اس قدر کثرت سے اور ادون طائف اور تسبیحات ہیں کہ نمازی ایک پل کے لئے بھی نماز کو نہیں بھول سکتا ہے، ہمہ وقت یاد رہتا ہے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ پس نماز کی حالت میں نسیان معتبر نہیں ہوگا برخلاف روزے کا، اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ میں انسان کو کھانے پینے کی عادت رہتی ہے اس لئے روزے میں نسیان کا غالب ہونا مستبعد نہیں ہے۔ اس لئے روزے کو نماز پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے روزے کو نماز پر قیاس کیا تھا، تو مذکورہ اصول اس قیاس کے جواب پڑتی ہے۔ ②

**① صحیح البخاری:** کتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيما، ج ۳ ص ۱۳، رقم

الحدیث: ۱۹۳۳

**② (ب) خلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكورة هيئة الصلاة القيام والركوع والسجود والانتقال من واحد إلى واحد، وكل هذه الأفعال تذكر المصلى. (فلا يغلب النسيان) ولا يستلزم غلبة النسيان عدم نفي هيئات ما (ولا مذكر) أى ولا شىء مذكر (في الصوم فيغلب) لأن هيئة الصائم وغير الصائم سواء لأن الصوم أمر مبطن فغلب عليه النسيان.**

[البنيان: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، ج ۲ ص ۷۳، ط: دار الكتب العلمية]

(۱۶۹) إِنَّ النَّادِرَ كَالْمَعْذُومِ ①

ترجمہ: نادر معدوم کی طرح ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا وجود کم ہو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی قلیل الوقوع چیز معدوم کے حکم میں ہوتی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ مخطی اور مکرہ پر قضاء واجب ہے، اگر کسی روزہ دار نے غلطی سے کوئی چیز کھاپی لی یا زبردستی کسی نے اُسے کچھ کھلا پلا دیا تو ہمارے یہاں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر روزے کی قضاء واجب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح خطاہ اور اکراہ میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احناف فرماتے ہیں کہ نسیان اور خطاہ و اکراہ کے درمیان واضح فرق ہے اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، نسیان کثیر الواقع ہے جب کہ خطاہ و اکراہ قلیل الواقع ہیں، اور قلیل معدوم کے حکم میں ہوتا ہے۔ نیز نسیان صاحب حق یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور خطاہ و اکراہ بندوں کی طرف سے ہے۔ ②

(۲۰) إِنَّ كَفَّارَةَ الصَّوْمِ تَدْوُرُ عَلَى كَمَالِ الْجِنَائِةِ ③

ترجمہ: روزے کا کفارہ کامل جنایت پر دائِر ہوتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ صوم کا دار و مدار کامل جنایت پر ہے، اگر روزہ دار نے عورت کا بوسہ لیا یا مس کیا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر روزے کی قضاء

① الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاہ والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۳۲، ط: رحمانیہ

② لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخْطِنًا أَوْ مُكْرَهًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ حِلَالًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَعْتَبُرُ بِالنَّاسِيِّ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ وَعُلُوُّ النُّسِيَانِ غَالِبٌ، وَلَأَنَّ النُّسِيَانَ مِنْ قَبْلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قَبْلِ غَيْرِهِ فَيَقْتَرِقُ أَنَّ كَالْمُقَيَّدِ وَالْمَرِيضِ الْعَاجِزُ عَنِ الْأَذَاءِ بِالرَّأْسِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يَقْضِي الْمُقَيَّدُ لَا الْمَرِيضُ۔

[البحر الرائق: کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۲ ص ۲۹۲، ط: دار

الكتاب الإسلامي]

③ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاہ والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۳۵، ط: رحمانیہ

واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قضاء اس لئے واجب ہے کہ یہاں معناً جماعت پایا گیا ہے، کیونکہ یہاں مرد و عورت شہوت کے ساتھ چھٹ گئے اور ازالہ ہو گیا، اور منافی کا وجود اختیاط ایجاد قضاء کے لئے کافی ہے، خواہ وہ معناً پایا جائے۔ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب حقیقتاً جماعت پایا جائے۔ وجوب کفارہ کے لئے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے، اور یہاں چونکہ صرف معناً جماعت پایا گیا اس لئے جرم ناقص ہے اور ناقص جرم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حقیقتاً جماعت نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدمِ جماعت کا شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہات سے کفارات ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے حدود شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ ①

(۱) إِنَّ وُصُولَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ يُفْطِرُ الصَّوْمَ. ②

ترجمہ: اس چیز کا پیٹ تک پہنچنا جس سے بدن کی اصلاح ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے بدن کا فائدہ اور اصلاح ہو اگر وہ پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس شخص نے حقہ کرایا (یعنی پاخانے کے راستے سے پیٹ میں دواء پہنچائی) یا ناک میں دواز الی یا کان میں دوا کے قطرے ڈالے تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ“ کہ جو فِ معدہ میں داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نیز ہر وہ چیز ہے جس میں بدن کی اصلاح ہو اور وہ پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح غذا سے بدن کو تقویت پہنچانا مقصود ہوتا ہے،

❶ (قَوْلُهُ فِإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسِ فَعَلِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكُفَّارَةِ) لِوُجُودِ مَعْنَى الْجِمَاعِ وَهُوَ الْإِنْزَالُ عَنْ شَهْوَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَأَمَّا الْكُفَّارَةُ فَتَسْقِيرٌ إِلَى كَمَالِ الْجِنَاحِيَّةِ لَأَنَّهَا عُقُوبَةٌ فَلَا يُعَاقَبُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ بُلوغِ الْجِنَاحِيَّةِ نِهَايَتِهَا وَلَمْ تَبْلُغْ نِهَايَتِهَا الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصوم، ج ۱ ص ۱۳۹، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الهدایۃ: كتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۳۸

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

اسی طرح دوائے سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور غذا کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہو گا۔ ①

### (۲) إِنْ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخيِ.

ترجمہ: قضاۓ علی التراخی واجب ہے۔

تشریح: صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتالا رہے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کے روزوں کی قضاۓ میں اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرا رمضان آگیا، تو اس صورت میں رمضان ثانی کے روزے رکھئے اور رمضان اول کے روزوں کی قضاۓ رمضان ثانی کے بعد کرے اور اس پر کوئی فدیyah نہ ہو گا، کیونکہ قضاۓ کا وجوب تراخی پر ہے، اب جب رمضان ثانی آگیا تو پہلے اس کے روزے رکھئے اس لئے کہ یہ اس کا وقت ہے، پہلے اس کے نقد روزے رکھے بعد میں رمضان اول کی قضاۓ کرے، کیونکہ قضاۓ کا وقت پوری زندگی ہے اور تاخیر کی وجہ سے اس پر فدیyah بھی واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ رمضان کے روزوں کی قضاۓ فی الفور واجب نہیں ہے بلکہ اس میں تاخیر کی گنجائش ہے، اسی لئے تو قضاۓ سے پہلے نفل روزے رکھنا جائز ہے، معلوم ہوا کہ قضاۓ کا وجوب علی الفور نہیں ہے۔ ②

### (۳) إِنْ شَرْطَ الْخَلِيفَةِ إِسْتِمْرَارُ الْعِجْزِ.

ترجمہ: خلیفہ ہونے کے لئے دائمی عجز شرط ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نائب اور خلیفہ پر عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اصل

**۱) الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلِوْجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَالَحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ وَلَا كَفَارَةً عَلَيْهِ لَا نَعْدَامُ الْفِطْرِ صُورَةً.**

[مجمع الأنہر: کتاب الصوم، باب موجب الفساد، ج ۱ ص ۲۳۱، ط: دار إحياء التراث]

**۲) الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، فصل، ج ۱ ص ۲۳۰، ط: رحمانیہ**

**۳) (وَإِنْ أَخْرَهَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخِرَ صَامَ الثَّانِي)، لأنَّهُ وَقْتُهُ حَتَّى لَوْ نَوَاهُ عَنِ الْقَضَاءِ لَا يَقْعُدُ إِلَّا عَنِ الْأَدَاءِ كَمَا تَقْدِمُ (وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدِهِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ (وَلَا فَدِيَّةٌ عَلَيْهِ) لِأَنَّ وَجْبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخيِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَطْمُوَعَ.**

[اللباب فی شرح الكتاب: کتاب الصوم، ج ۱ ص ۲۰۰، ط: المکتبة العلمیة]

**۴) الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، فصل، ج ۱ ص ۲۳۰، ط: رحمانیہ**

پ عمل کرنے سے عاجز ہو، لیکن یہ عجز عارضی نہ ہو بلکہ داعی ہو۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ شیخ فانی جب روزے پر قادر نہ ہو تو ہر روزے کے عوض بطورِ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن اگر یہ روزے پر قادر ہو جائے تو اس وقت یہ حکم باطل ہو جائے گا، یعنی پھر روزہ رکھنا لازم ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ اصل ہے اور فدیہ دینا خلیفہ ہے اور خلیفہ کی شرط یہ ہے کہ عجز داعی ہو، جب شیخ فانی روزے پر قادر ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے حق میں عجز کا دام نہیں ہے، جب عجز داعی نہ رہا تو بدل یعنی فدیہ کا حکم بھی باطل ہو جائے گا اور روزوں کی قضاۓ کرنی ہو گی۔ ①

(۷۲) إِنَّ الْعِبَادَةَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِخْتِيَارِ ②

ترجمہ: عبادات میں اختیار ضروری ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات میں اختیار ضروری ہے، یعنی اداء کرنا اور ترک کرنا اختیار میں ہو، کیونکہ عبادت کا مقصد ابتلاء ہے اور بغیر اختیار کے ابتلاء کا معنی ثابت نہیں ہو سکتا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے قضاۓ روزے ہوں تو اگر وہ وصیت کر دے تو اس کی طرف سے ولی ہردن کے لئے مسکین کو نصف صاع گندم، یا ایک صاع کھجور، یا چودے، اس پر وصیت کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں اختیار ضروری ہے، اور یہ اختیار وصیت میں تو ہے لیکن وراشت میں نہیں ہے کیونکہ وراشت جبری ہوتی ہے۔ اس لئے مورث بوقتِ مرض کسی وارث کو محروم کرنا

❶ (والشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام) لقربه إلى الفناء أو لفناء قوته (يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً كما يطعم) المکفر (في الكفارات) وكذا العجوز الفانية. والأصل فيه قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) معناه "لا يطيقونه" ولو قدر بعد على الصوم يبطل حكم الفداء، لأن شرط الخليفة استمرار العجو.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الصوم، ج ۱ ص ۱۷۱، ط: المكتبة العلمية]

❷ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، فصل، ج ۱ ص ۲۲۰، ط: رحمانیہ

فَإِنْ سَبَبَ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ وَفِي الصَّوْمِ

چاہے تو بھی اُسے وراثت ملے گی۔ ①

(۵۷) إِنْ سَبَبَ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ الْجُزْءُ الْمُتَّصِلُ بِالْأَدَاءِ وَفِي الصَّوْمِ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ. ②

ترجمہ: وجوب کا سبب نماز میں وہ جزء ہے جو ادا کے ساتھ متصل ہوتا ہے اور روزے میں پہلا جزء ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سبب وجوب وہ جزء ہے جو ادا کے ساتھ متصل ہے، اور روزے میں سبب وجوب دن کا پہلا حصہ ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلارہے ہیں کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے، یا کافر رمضان میں اسلام قبول کر لے، تو دن کے ماقبلی حصے میں کھانے پینے وغیرہ سے رک جائیں اور اس دن کی قضاۓ ان پر نہیں ہے اور نہ گزشتہ دنوں کی قضاۓ ہے۔ گزشتہ دنوں کی قضاۓ اس لئے نہیں ہے کہ بلوغت سے پہلے اور اسلام لانے سے پہلے خطاب ان کی طرف متوجہ نہ تھا، اور اس دن کی قضاۓ اس لئے نہیں ہے کہ چونکہ روزے میں سبب وجوب دن کا ابتدائی حصہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ طلوع فجر سے متصل ہوتا ہے، اور اس وقت ان لوگوں میں اہلیت معدوم تھی، اس لئے ان پر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا، اور جب روزہ واجب نہیں ہوا تو اس کی قضاۓ بھی لازم نہیں ہو گی۔

برخلاف نماز کے کہ نماز کی قضاۓ واجب ہے کیونکہ نماز میں سبب وجوب وہ جزء ہے جو ادا سے متصل ہو اور اس جزء میں ان میں اہلیت پائی گئی، لہذا جب سبب وجوب کے وقت اہلیت پائی گئی

❶ (وَمِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصِيَ بِهِ أَطْعَمْ عَنْهُ وَلِيهِ) وجوباً إن خرجت من ثلث ماله، وإن لا فيقدر الثالث (لكل يوم مسكنيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير)، لأنه عجز عن الآداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني، ثم لا بد من الإيصال عندنا، حتى إن مات ولم يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته ذلك ولو تبرعوا عنه من غير وصية جاز وعلى هذا الركأة.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الصوم، ج ۱ ص ۱۷۱، ط: المكتبة العلمية]

❷ الهدایۃ: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاۓ والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۳۱، ط: رحمانیہ

فَلَا يَنْهَا فِتْنَةُ الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَتَاهُمْ وَلَا يَنْهَا فِتْنَةُ الْمُجْرِمِينَ إِذَا أَتَاهُمْ وَلَا يَنْهَا فِتْنَةُ الْمُنْكَرِينَ إِذَا أَتَاهُمْ وَلَا يَنْهَا فِتْنَةُ الْمُنْسَكِينَ إِذَا أَتَاهُمْ

تو ان پر نماز واجب ہوگی، لہذا بنه پڑھنے کی صورت میں قضاء واجب ہوگی۔ ①

(۱۷) إِنَّ السَّفَرَ لَا يَنْافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوعِ.

ترجمہ: سفر نہ تو اہلیت و جوب کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی صحیت شروع کے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ سفر و جوب کی اہلیت کا اور شروع کرنے کی صحیت کے منافی نہیں ہے، یعنی سفر کی وجہ سے و جوب کی اہلیت ختم نہیں ہوتی بلکہ سفر کے ساتھ و جوب کی اہلیت باقی رہتی ہے اور سفر کے ساتھ شروع کرنا بھی درست ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر مسافر نے روزہ افطار کرنے کی نیت کر لی، پھر وہ زوال سے پہلے شہر میں آگیا اور پھر روزہ رکھنے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہے، اس لئے کہ سفر نہ اہلیت صوم کے منافی ہے اور نہ ہی روزہ شروع کرنے کے منافی ہے، لہذا جب اس میں اہلیت باقی ہے اور جس میں اہلیت و جوب ہو وہ اگر روزے کی نیت کر لے تو درست

① (وإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرَ فِي رَمَضَانَ) أَى فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ (أَمْسَكَ بِقِيَةَ يَوْمِهِمَا) وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا طَهَرَتْ وَالنُّفَسَاءُ وَالْمُجَنَّونُ إِذَا أَفَاقَ وَالْمُرِيضُ إِذَا بَرَءَ وَالْمَسَافِرُ إِذَا أَقَامَ فَحُكْمُ هُؤُلَاءِ فِي الْإِمْسَاكِ عَنِ الْمُفَطَّرَاتِ سَوَاءً، وَهَكُذَا كُلُّ مَعْذُورٍ زَالَ عَذْرُهُ بَعْدَ طَلُوعِ الْفَجْرِ، أَمَّا لَوْ زَالَ قَبْلَ طَلُوعِ الْفَجْرِ لِزَمَهِ الصَّومِ....(قضاء لحق الوقت بالتشبه) یعنی لقضاء حق الوقت بالتشبه بالصائمین، ولثلا يعرض نفسه للتهمة... (وصاما ما بعده لتحقق السبب) وهو شهود الشهر (والأهلية) الإسلام والبلوغ (ولم يقضايا يومهما) الذي بلغ فيه الصبي وأسلم الكافر (ولا ما مضى) من الأيام (لعدم الخطاب) لأن الخطاب إنما يكون عند الأهلية وكانت منتفقة (وهذا بخلاف الصلاة) أى هذا الحكم الذي ذكرنا، وهو عدم وجوب قضاء صوم ذلك اليوم الذي بلغ فيه الصبي أو أسلم الكافر، بخلاف الصلاة يجب قضاها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت (لأن السبب) أى السبب في وجوب الصلاة (فيها) أى في الصلاة (الجزء المتصل بالأداء، فوجدت الأهلية عنده، وفي صوم الجزء الأول، والأهلية منعدمة عنده) أى عند الجزء الأول.

[البنيان: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، فصل، ج ۲ ص ۹۲، دار الكتب العلمية]

② الہدایہ: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، فصل، ج ۱ ص ۲۳۱، ط: رحمانیہ

ہے، لہذا اس کی بھی یہ نیت درست ہے۔ ①

(۷۷) لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ حِدَةٍ. ②

ترجمہ: روزے کے ہردن کے لئے علیحدہ طور پر نیت کرنا ضروری ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ہردن کے لئے الگ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کا تعلق دن سے ہے جب کہ ہردن کے بعد رات کی شکل میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جس میں نیت نہیں کی جاسکتی اور نہ اس میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، اس لئے ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت ضروری ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر رمضان کی پہلی رات سے بے ہوشی طاری ہو گئی اور پورا ماہ بے ہوش رہا، تو پہلے روزے کے علاوہ پورے ماہ کی قضاء واجب ہے، کیونکہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ اس نے پہلے روزے کی نیت کر لی ہو گی، اور جب پہلے روزے کی نیت کر لی تو اس کا یہ روزہ شرعاً معتبر ہو گا اور اس کی قضاء واجب نہ ہو گی۔ چونکہ اس کے بعد کے روزوں کی نیت نہیں پائی گئی اس لئے ان کی قضاء واجب ہو گی۔ ہاں اگر یہ شخص چاند نظر آنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا تو پہلے روزے کی بھی قضاء واجب ہو گی، کیونکہ چاند نظر آنے سے پہلے کی نیت معتبر نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے

❶ (قُولُهُ: وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ وَنَوَى الصَّوْمُ فِي وَقْتِهِ صَحَّ إِنْ نَوَى قَبْلَ اُتِصَافِ النَّهَارِ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوعِ أَطْلَقَ الصَّوْمَ فَشَمِيلَ الْفُرُضَ الَّذِي لَا يُشْرَطُ فِيهِ التَّبِيِّثُ وَالنَّفَلُ وَحِيثُ أَفَادَ صِحَّةَ صَوْمَ الْفَرُضِ لِزِمَّ عَلَيْهِ صَوْمُهُ إِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ لِزَوَالِ الْمُرَّخِصِ فِي وَقْتِ الْيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُسَاحِ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيحاً لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ فَهَذَا أَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ شُبُهَةِ الْمُبِيحِ.

[البحر الرائق: کتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج ۲، ص ۲۹۸، ط: دار

الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۲۲، ط: رحمانیہ

نzdیک رمضان کے تمام روزے ایک نیت کے ساتھ ادا کئے جاسکتے ہیں اس لئے ہر روزہ کے لئے علیحدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ اصول امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جھٹ ہے۔ ①

(۷۸) إِنَّ الْإِغْمَاءَ يُضَعِّفُ الْقُوَّىٰ فَقَطُّ وَلَا يُزِيلُ الْحِجَّىٰ. ②

ترجمہ: بے ہوشی صرف اعضاء کو کمزور کرتی ہے لیکن عقل کو زائل نہیں کرتی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ بے ہوشی صرف انسان کے اعضاء میں جو قوت اور قرار ہوتا ہے اس کو کمزور کرتی ہے اور عقل کو ختم نہیں کرتی، بخلاف جنون کے کوہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس آدمی پر پورے رمضان کے مہینہ میں بے ہوشی طاری رہی تو بعد میں قضاء کرے گا، کیونکہ بے ہوشی بھی بیماری کی ایک قسم ہے اور یہ صرف اعضاء کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے عقل پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو یہ اغماۃ تاخیر میں تو عذر بن سکتا ہے کہ فی الحال روزے نہ رکھے لیکن بالکل ساقط کرنے میں عذر نہیں بن سکتا، کیونکہ ساقط کرنے میں عذر وہ چیز بن سکتی ہے جو عقل پر اثر انداز ہو جیسے جنون۔ ③

(۷۹) لَا عِبَادَةٌ إِلَّا بِالنِّيَّةِ. ④

❶ (وعندنا لا بد من النية لكل يوم، لأنها) أى لأن صيام الشهر (عبادات متفرقة) أى صوم كل يوم عبادة وحدها، لا ترى أن الفساد في الأصل لا يمنع صحة الباقي، فكانت كصلاة مختلفة فيستدعي لكل نية واحدة (لأنه يتخلل بين كل يومين ما ليس بزمان هذه العبادة) وهو الليالي فيبقى صوم كل يوم عبادة طول الشهر فيحتاج إلى تعداد النية بتعداد الأيام ولا عبادة إلا بالنية.

[البنياۃ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، فصل، ج ۲، ص ۹۵، دار الكتب العلمیة]

❷ الہدایۃ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، ج ۱ ص ۲۲۲، ط: رحمانیہ

❸ الإغماء إذا استوسع الشهر لا يسقط القضاء، لأن نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا، وكذلك الجنون غير المستوسع لا يسقط القضاء، لعدم الحرج.

[منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: کتاب الصوم، فصل، ج ۱ ص ۲۷۵، ط: وزارة الأوقاف]

❹ الہدایۃ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والکفارۃ، فصل، ج ۱ ص ۲۳۲

تَرْجِمَةً: بغير نية عبادت تتحقق نبيت ہوتی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عبادت تحقق نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت کے لئے نیت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی نے پورے رمضان میں روزوں کی نیت نہیں کی اور نہ افطار کی، یعنی نہ روزے کی نیت کی اور نہ افطار کی بلکہ ویسے بغیر نیت کے امساک اختیار کیا یعنی کھانے پینے یا جماع سے رکارہا، تو اس شخص پر روزوں کی قضا واجب ہے، اس لئے کہ رمضان میں مطلق امساک عبادت نہیں ہے بلکہ نیت کے ساتھ مفطراتِ ثلاثة سے رکنا عبادت ہے۔ صورتِ مسئلہ میں امساک تو پایا گیا مگر نیت نہیں پائی گئی، اس لئے مذکورہ امساک عبادت نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ روزے میں مفطراتِ ثلاثة سے جو امساک متعلق ہے وہ عبادت کی جہت سے ہونہ کے عادت کی جہت سے اور امساک من جہة العبادة اور من جہة العادة میں فرق نیت سے ہوتا ہے اور بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوتی، لہذا جب اس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ بھی نہ ہوگا اور اس پر قضا واجب ہے۔ ①

(۱۸۰) إِنَّ الْكُفَّارَةَ تَعْلَقُ بِالْفَسَادِ لَا بِالْمُتَنَاعِ. ②

ترجمہ: کفارے کا تعلق روزہ توڑنے سے ہے نہ کہ رکنے سے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ کے تعلق روزہ فاسد کرنے سے ہے، امتناع یعنی رکنے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کسی عبادت کو فاسد کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، عبادت سے رکنے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

① أَنَّ الْمُسْتَحْقَ عَلَيْهِ الْأَمْسَاكُ بِجَهَةِ الْعِبَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ وَالْإِخْلَاصُ لَا يَكُونُ بِدُونِ النِّيَّةِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ، ج ۱ ص ۳۲۱، ط: دار الكتاب الاسلامی]

② الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضا وکفارہ، فصل، ج ۱ ص ۲۲۲، ط: رحمانیہ

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور اسی حال میں صبح کی، پھر صبح کو کچھ کھا پی لیا تو اس شخص پر روزے کی قضاۓ ہو گی کفارہ نہیں ہو گا۔ قضاۓ اس لئے ہو گی کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور روزہ نہ رکھنے سے قضاۓ واجب ہوتی ہے۔ کفارہ اس لئے واجب نہیں ہے کہ کفارہ کا سبب روزہ توڑنا ہے اور صورتِ مسئلہ میں جب اس شخص نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ متحقق نہیں ہوتا، جب یہ روزہ ہی نہیں ہے تو کھانے پینے سے بھلا یہ کیسے ٹوٹے گا؟ اس لئے صورت میں روزہ توڑنا نہیں پایا گیا، اور ضابطہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے سے کفارہ آتا ہے نہ کر کھنے سے رکنے پر۔ ①

(۱۸۱) إِنَّ الظُّنَّ إِذَا لَمْ يَسْتَبِدِ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ لَيْسَ بِمُعْتَبِرٍ. ②

ترجمہ: جو گمان دلیل شرعی کی طرف منسوب نہ ہو وہ معتبر نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب گمان دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی نے پچھنے لگائے اور یہ گمان کیا کہ پچھنے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر قصدًا کچھ کھایا تو اس پر قضاۓ اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اس لئے کہ اس آدمی کا یہ گمان کہ پچھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کسی دلیل شرعی کی طرف منسوب نہیں ہے اور جو گمان دلیل شرعی کی طرف منسوب نہ ہو وہ معتبر نہیں ہوتا، لہذا یہ گمان بھی معتبر نہ ہو گا۔ روزہ ٹوٹنے کا تعلق کسی چیز کے پیٹ میں داخل ہونے سے ہے نہ کہ خارج ہونے سے، پچھنے لگانے سے تو فاسد خون خارج ہوتا ہے، اس لئے یہ مفسد صوم نہیں ہے، جبکہ مذکورہ مسئلہ میں اس نے مفسد سمجھ کر کھا پی لیا تو یہ عمدۂ رمضان میں کھانے پینے کی طرح ہو گیا، اور عمدۂ کھانے

❶ (أن الكفارة تعلقت بالإفساد) أى بِإِفْسَادِ الصُّومِ (وهذا امتناع) أى عن الصُّومِ لَا إِفْسَادٌ

لہ (إَذَا صُومَ إِلَّا بِالنِّيَةِ) فلا كفارۃ علیہ لأنہ غیر صائم۔

[البنيۃ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، فصل، ج ۲ ص ۹۹، ط: دار الكتب العلمية]

❷ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاۓ والکفارۃ، فصل، ج ۱ ص ۲۲۳، ط: رحمانیہ

پینے سے قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ ①

(۱۸۲) إِنْ قَوْلَ الْقَاتِلِ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ لَا يُؤْرِثُ الشُّبُهَةَ.

ترجمہ: قیاس کے برخلاف قائل کا قول شبہ پیدا نہیں کرتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب قائل کا قول قیاس کے مخالف ہو تو وہ شبہ پیدا نہیں کرتا، یعنی اگر کسی مسئلہ میں کسی سے ایسا قول منقول ہو جو قیاس کے خلاف ہو تو اس مسئلہ میں اس قول سے شبہ پیدا نہیں ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ مذکورہ مسئلہ میں امام او زاعی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ پھپنے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ شبہ پیدا نہیں کرتا کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے، قائل کا قول جب قیاس کے خلاف ہو تو وہ شبہ پیدا نہیں کرتا۔ صورت مسئلہ میں امام او زاعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پھپنے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اختلاف سے فسادِ صوم کا شبہ پیدا ہو گیا اور شبہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس مسئلہ میں امام او زاعی رحمہ اللہ کے اختلاف کی وجہ سے کفارہ ساقط ہونا چاہئے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام او زاعی رحمہ اللہ کا قول مخالف قیاس ہے، قیاس کا تقاضا ہے کہ جسم میں داخل ہونے والی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ کہ خارج ہونے والی چیز سے، پھپنے لگانے سے فاسدِ خون خارج ہوتا ہے، اس لئے قیاس اس سے روزہ فاسد نہیں ہو گا۔ تو خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اس

❶ (ولو احتجم وطن أن ذلک) أى الاحتجام (يفطره ثم أكل متعمداً) أى قصداً (عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعى) أى لأن ظن المحتاج ما استند إلى دليل شرعى حتى تسقط عنه الكفاره، فإن الحجامة كالقصد في خروج الدم من العرق والقصد لا يفسد وكذا الحجامة وقد صح في البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محروم واحتجم وهو صائم فدل هذا على أن الحجامة لا تفتر الصائم.

[البنياۃ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والكفارة، فصل، ج ۲ ص ۹۰، ط: دار

الكتب العلمية]

❷ الہدایہ: کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء والكفارة، فصل، ج ۱ ص ۲۲۳، ط: رحمانیہ

قول سے شبہ پیدا نہیں ہوگا، جب شبہ نہیں ہوگا تو کفارہ بھی ساقط نہیں ہوگا، اس لئے کہ کفارہ شبہ سے ساقط ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ ہر وہ قول جو قیاس سے ہم آہنگ ہوا سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ ①

(۱۸۳) إِنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ يَبْتَدَئُ عَلَى وُجُوبِ الصَّيَانَةِ. ②

ترجمہ: قضاۓ کا وجوب صیانت کے وجوب پرمنی ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو فاسد کرنے کی وجہ سے جو قضاۓ واجب ہوتی ہے اس کی بنیاد صیانت کے واجب ہونے پر ہے، یعنی عبادت کا جو حصہ ادا ہوا ہے اس کی حفاظت واجب ہے ”لِقُولِهِ تَعَالَى : لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“، ”قضايا کا وجوب اس لئے ہے تاکہ جو حصہ ادا ہوا ہے وہ ابطال سے محفوظ ہو جائے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر کسی نے ایامِ منہی عنہا میں سے کسی دن روزہ کی نیت کر کے شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس پر اس روزے کی قضاۓ واجب نہیں ہے، اس لئے کہ یومِ نحر ان پانچ ایام میں سے ایک ہے جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، پس یومِ نحر میں روزہ شروع کرتے ہی یہ شخص فعلِ منہی عنہ کا مرتكب ہو گیا، اور فعلِ منہی عنہ کا ابطال واجب ہے، اس لئے اس روزہ کا اتمام اور اس کی حفاظت واجب نہ ہو گی، جب اس روزے کا اتمام واجب نہیں ہے تو قضاۓ بھی واجب نہیں ہو گی، کیونکہ وجوب قضاۓ و جوب اتمام پرمنی ہے، یعنی جس چیز کا اتمام واجب ہے فاسد کرنے سے اس کی قضاۓ بھی واجب ہو گی، جس کا اتمام

① (وقول الأوزاعي رَحْمَةُ اللَّهِ: لَا يُورثُ الشَّبَهَ، لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسِ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لَا نَسْلِمُ أَنْ مَنْشأَ الشَّبَهِ ذَلِكَ وَحْدَهُ، بل قول الأوزاعي بذلك منشأ لها أيضاً، قوله: إِنَّ الْحِجَامَةَ تُفَطَّرُ الصَّائِمَ، وَبَهْ قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا، فَأَجَابَ بَأْنَ قول الأوزاعي لـ يُورثُ الشَّبَهَ فِي سُقُوطِ الْكُفَّارَةِ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّ الْفَطَرَ مَا يَدْخُلُ لَا مَا يَخْرُجُ.

[البنيان: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاۓ والكفارة، فصل، ج ۲ ص ۱۱۰، ط: دار

الكتب العلمية]

② الهدایۃ: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاۓ والكفارة، فصل، ج ۱ ص ۲۳۶، ط: زمانیہ

فَلَا يَنْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْمَحْيَى إِذَا أَتَاهُ الْحَيَاةَ وَلَا يَنْهَا عَنِ الْمَمْوتِ إِذَا مَرَأَهُ الْمَمْوتَ

واجب نہیں اس کی قضاۓ بھی واجب نہیں، اس لئے کہ وجوب قضاۓ وجوب اتمام پرمنی ہے۔ ①

## باب الاعتكاف

(۱۸۲) إِنَّ مُواطِبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلُ السُّنَّةِ. ②

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا (کسی فعل پر) مواظبت اختیار کرنا سنت کی دلیل ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی عمل پر مواظبت اور ہمیشگی اختیار کی ہو تو وہ اس عمل کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف مستحب ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اعتکاف سنت موکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف پر مواظبت اختیار کی ہے اور جس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہو وہ سنت ہوتا ہے، لہذا اعتکاف بھی سنت ہو گا۔ مواظبت پر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے: ③

❶ (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ إِنْ شَرَعَ فِيهَا فَأَفْطَرَ) أَيْ إِنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفِ وَمُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، لَأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّدْرِ وَصَارَ كَالشُّرُوعِ فِي الطَّلاقِ فِي الْوَقْتِ الْمُكْرُوِّهِ وَالْفُرُقُ لِأَبِي حَيْفَةَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ أَنَّ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّى صَائِمًا حَتَّى يَحْسَنَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ فَيَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهِيِّ فَيَجِبُ إِبْطَالُهُ وَلَا تَحْبُبْ صِيَانَتُهُ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يُبَتَّى عَلَيْهِ.

[البحر الرائق: کاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فصل، ج ۲ ص ۳۲۱، ط:

دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۲۷، ط: زمانیہ

❸ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ.

[صحیح البخاری: کتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف فی العشر الامان، ج ۳ ص ۲۷، رقم

= الحدیث: ۲۰۲۶، ط: دار طرق النجاة]

فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا فَلَا يَنْهَا

(۱۸۵) إِنَّ الْقِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الْمَنْقُولِ غَيْرُ مَقْبُولٍ۔ ①

ترجمہ: قیاس نص منقول کے مقابلے میں مقبول نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیاس ایسی نص کے مقابلے میں ہو جو شارع سے منقول ہو تو یہ قیاس مقبول نہیں ہے، یعنی نص پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کیا جائے گا، کیونکہ قیاس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا جو قیاس نص منقول کے مقابلے میں ہو گا وہ مقبول نہیں ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اعتکاف کا معنی ہے روزے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، روزہ احناف کے نزدیک اعتکاف کی شرط ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ”لَا اِعْتَكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ“، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے۔ اقوال صحابہ جو غیر مدرک بالقیاس ہوں وہ مرفوع روایت کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ②

جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ شرط نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک مستقل عبادت ہے لہذا یہ کسی اور عبادت کے لئے شرط نہیں ہو سکتا اور یہی قیاس کا تقاضہ ہے، اس لئے کہ شرط بننے میں تابع ہونے کا مفہوم ہے جو روزہ کی اصلیت کے منافی ہے۔ احناف کی دلیل

= وَالَّذِي ظَهَرَ لِلْعَبْدِ الْضَّعِيفِ أَنَّ السُّنَّةَ مَا وَأَظَبَ الْبَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَا مَعَ التَّرْكِ فَهِيَ ذَلِيلُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانًا فَهِيَ ذَلِيلٌ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ، وَإِنْ افْتَرَنَتْ بِالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَهِيَ ذَلِيلُ الْوُجُوبِ فَافْهُمْ۔

[البحر الرائق: کتاب الطهارة، سنن الوضوء، ج ۱، ص ۱۸، ط: دار الكتاب الإسلامي/ردار المختار:

کاب الطهارة، سنن الوضوء، ج ۱ ص ۱۰۵، ط: دار الفكر]

① الہدایہ: کاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۲۷۷، ط: رحمانیہ

② سنن أبي دواد: کتاب الصوم، باب المعتکف يعود المريض، ج ۲ ص ۳۳۳، رقم الحديث:

۲۲۷۳، ط: المکتبۃ العصریۃ/ مصنف ابن أبي شیۃ: کاب الصیام، لا اعتکاف إلا بالصوم،

ج ۲ ص ۳۳۳، رقم الحديث: ۹۶۱۹، ۹۶۲۰، ۹۶۲۵، ط: مکتبۃ الرشد]

مذکورہ اصول ہے کہ قیاس اگر نص منقول کے مقابلے میں ہو وہ مقبول نہیں ہے، مذکورہ مسئلہ میں بھی قیاس حدیث کے مقابلے میں ہے۔ مذکورہ اصول سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احناف کے ہاں حدیث رسول کا کس قدر مقام ہے؟ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس پر عمل کرتے ہیں حدیث پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ احناف کے ہاں حدیث ضعیف بھی قیاس پر مقدم ہے، بلکہ اقوال صحابہ کا مقام بھی قیاس سے بڑھ کر ہے۔ ①

### (۱۸۶) إِنَّ النَّفْلَ مَبْنَىٰ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ ②

ترجمہ: نفل کا دار و مدار سہولت پر ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادت کی بنیاد تیسیر اور آسانی پر ہے۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ روزہ اعتکاف واجبه کی صحت کے لئے شرط ہے اور اس روایت کے مطابق جو حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ روزہ نفلی اعتکاف کی صحت کے لئے بھی شرط ہے، تو اس روایت کی رو سے

### ③ إِلَّاَنِ الْقِيَاسَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ بَاطِلٌ.

[بدائع الصنائع: کاب آداب القاضی، فصل فی بیان شرائط جواز القضاۓ، ج ۷ ص ۳، ط: دار الكتب العلمية/ البحر الرائق: کاب القضاۓ، ج ۲ ص ۲۷۷، ط: دار الكتاب الإسلامی] وَأَصْحَابُ أُبَيِّ حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذَهَبَ أُبَيِّ حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ أُولَى مِنِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ، وَعَلَى ذَلِكَ بَنَى مَذَهَبُهُ، كَمَا قَدَّمَ حَدِيثَ الْقَهْقَهَةَ مَعَ ضَعْفِهِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ، وَقَدَّمَ حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِبَيِّنِ التَّمَرِ فِي السَّفَرِ مَعَ ضَعْفِهِ عَلَى الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، وَمَعَ قَطْعِ السَّارِقِ بِسَرْقَةِ أَقْلَ مِنْ عَشَرَةِ ذَرَاهِمَ وَالْحَدِيثُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَجَعَلَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَالْحَدِيثُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَشَرَطَ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ الْمِصْرَ وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَذِلِكَ، وَتَرَكَ الْقِيَاسَ الْمَحْضَ فِي مَسَائلِ الْأَبَارِ لِآثَارِ فِيهَا غَيْرُ مَرْفُوعَةٍ، فَتَقْدِيمُ الْحَدِيثِ الْضَّعِيفِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

[إعلام الموقعين: فصل الرأى على ثلاثة أنواع، ج ۱ ص ۲۱، ط: دار الكتب العلمية]

④ الهدایۃ: کاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۲۷۷، ط: زمانیہ

ایک دن سے کم اعتکاف نہ ہوگا کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے اور روزہ ایک دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ اصل کی روایت اور امام محمد بن حسن اللہ کے قول کے مطابق اعتکافِ نفلیٰ کی اقل مدت ایک ساعت ہے، تو یہ روزے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اعتکافِ نفلیٰ ایک نفلیٰ عبادت ہے اور نوافل کی بنیاد آسانی پر ہے، اگر اس میں روزے کی شرط لگائی جائے تو اس صورت میں یہ رکے بجائے عشر ہوگا۔ تطوع کا دار و مدار سہولت پر ہے اس لئے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہے تو بھی اس کے لئے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔ ①

(۱۸۷) إِنَّ ذَكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ يَتَنَوَّلُ مَا يِإِزَانُهَا مِنَ الْيَالِيَّاتِ. ②

ترجمہ: ایام کا بطورِ جمع ذکر کرنا یہ اپنے مقابل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایام جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا تو اس صورت میں ان کے مقابل جو راتیں ہیں ان کو بھی یہ شامل ہوگا، یعنی ایام دن اور رات دونوں کو شامل ہوں گے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے اوپر دونوں کا اعتکاف واجب کر دیا، مثلاً یہ نذر مانی کہ میں دس دن اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں دونوں کے ساتھ راتوں کا بھی اعتکاف کرنا اس پر لازم ہوگا، یعنی صرف دن میں اعتکاف نہیں کرے گا بلکہ دن اور رات دونوں میں معتکف رہے گا، کیونکہ اس نے ایام کا ذکر جمع کے صیغہ کے ساتھ کیا ہے اور جب ایام کا ذکر علی سبیلِ اجمع ہو تو وہ راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی دن اور رات کا اعتکاف لازم ہوگا۔ جیسے اگر کوئی کہے ”مَا رَأَيْتَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ“، کہ میں نے کئی دونوں سے آپ کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو نہ دن میں دیکھا اور نہ رات میں، اس کا یہ

① وَفِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَقْلَهُ سَاعَةً فَيُكُونُ مِنْ غَيْرِ صُومٍ لَأَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ الْأَتَرَى أَنَّهُ يَقْعُدُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَرَأَيْتَكَ مَعَ الْقُدرَةِ عَلَى التُّرُولِ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۱۳۶، ط: المطبعة الخيرية]

② الهدایۃ: کتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۲۲۹، ط: زمانیہ

فَلَمَّا . فَلَمَّا .

مطلوب نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو دن میں نہیں دیکھا البتہ رات میں دیکھا ہے۔ ①

(۱۸۸) إِنَّ مَبْنَى الْاعْتِكَافِ عَلَى التَّابُعِ بِخَلَافِ الصَّوْمِ فَإِنْ مَبْنَاهُ عَلَى التَّفْرِقِ.

ترجمہ: اعتکاف کی بنیاد تتابع پر ہے، برخلاف روزے کے کہ اس کی بنیاد تفرق پر ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے اعتکاف کی بنیاد تتابع یعنی پے در پے یکے بعد دیگرے پر ہے اگرچہ کوئی تتابع کی شرط نہ لگائے، برخلاف روزے کے کہ روزے کی بنیاد تفرق یعنی الگ الگ کر کے رکھنے پر ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ مذکورہ مسئلہ جوابی گزرا یعنی اگر کوئی اپنے اوپر اعتکاف واجب کر دے تو یہ اعتکاف پے در پے کرے گا یعنی یکے بعد دیگرے درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتا اگرچہ ناذر نے تتابع کی شرط نہ لگائی ہو، برخلاف روزے کے کہ اس میں تتابع شرط نہیں ہے کیونکہ روزے کی بنیاد تفرق پر ہے، لہذا جب تک تتابع پر صراحة نہ کرے تو تتابع کے ساتھ لازم نہ ہوگا۔ اعتکاف کا دار و مدار تتابع اور تسلسل پر ہے، اس لئے کہ رات اور دن کے پورے اوقات اعتکاف کے قابل ہیں، دن رات میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو اعتکاف کے قابل نہ ہو، اعتکاف دن اور رات کے پورے اوقات میں ہوتا ہے اس لئے تتابع ضروری ہے۔ جبکہ روزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، روزہ صرف دن میں ہوتا ہے، اس لئے روزے متفرق طور پر لازم ہوں گے۔ ②

❶ (أَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَيِّلِ الْجَمْعِ يَسْأَوُ مَا يَأْرِيَهَا مِنِ الْلَّيَالِي) عُرُوفًا (يَقَالُ: مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ أَيَّامٍ، وَالْمُرَادُ بِالْأَيَّامِ) وَإِذَا حَلَّفَ لَا يُكَلِّمُ فَلَمَّا شَهَرًا أَوْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْأَيَّامِ وَالْلَّيَالِي، أَلَا تَرَى إِلَى قِصَّةِ زَكَرِيَاً عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ (أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزاً) (آل عمران: ۲۲) وَقَالَ (أَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) (مریم: ۴۰) وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ، وَتَأْوِيلُهُ مَا ذَكَرْنَا.

[العنایہ: کتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۲ ص ۲۰، ط: دار الفکر]

❷ الہدایہ: کتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۲۲۹، ط: رحمانیہ

❸ وَكَانَتْ مُتَسَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ التَّابُعُ لِأَنَّ الْأُوقَاتِ كُلُّهَا قَابِلَةٌ بِخَلَافِ الصَّوْمِ لَأَنَّ مَبْنَاهُ =

## کتاب الحج

(۱۸۹) إِنَّ السَّبَبَ إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ لَمْ يَتَكَرَّرِ الْمُسَبَّبُ.

ترجمہ: جب تک سبب میں تکرار نہ ہو تو مسبب میں بھی تکرار نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب سبب میں تکرار نہ ہو تو مسبب میں بھی تکرار نہ ہو گا کیونکہ سبب کا وجود مسبب پر موقوف ہوتا ہے، لہذا سبب کے تکرار سے مسبب میں تکرار ہو گا، اور سبب کے عدم تکرار سے مسبب میں بھی تکرار نہ ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے کیونکہ حج کا سبب ”بیت اللہ“ ہے اور بیت اللہ میں تکرار نہیں ہے، جب سبب میں تکرار نہ ہو تو مسبب میں بھی تکرار نہ ہو گا، لہذا حج میں بھی تکرار نہیں ہے زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ سپتیت کی دلیل اضافت ہے، اس لئے کہا جاتا ہے ”حج الیت“ ②

(۱۹۰) إِنَّ الْعِبَادَاتِ بِأَسْرِهَا مَوْضُوعَةٌ عَنِ الصِّبْيَانِ.

ترجمہ: تمام عبادات بچوں سے اٹھائی گئی ہیں۔

=عَلَى التَّفْرِقِ لَاَنَّ الْيَالَى عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلصُّومِ فَخَلَلُهَا يُوجَبُ التَّفَرُقُ فَيَجُبُ عَلَى التَّفَرُقِ حَتَّى يُصَنَّ عَلَى السَّابِعِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج ۱ ص ۳۵۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

① الہدایہ: کتاب الحج، ج ۱ ص ۲۵۰، ط: زرجمانیہ

② (وَلَا يَجِدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ يَعْنِي لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَالَ لَهُمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ حُجُوا الْبَيْتَ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ فَقَالُوا: لَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطْوِعُ، وَلَا نَسَبَّبُ الْبَيْتَ) لِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ، يُقَالُ حَجُّ الْبَيْتِ وَالإِضَافَةُ ذَلِيلُ السَّبَبِيَّةِ (وَإِنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ) الْبَيْتُ (فَلَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ).

[العنایہ: کتاب الحج، ج ۲ ص ۲۱۱، ط: دار الفکر]

② الہدایہ: کتاب الحج، ج ۱ ص ۲۵۰، ط: زرجمانیہ

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بھی عبادتیں ہیں وہ نابالغ بچوں سے اٹھائی گئی

ہیں یعنی ان پر واجب نہیں ہیں کیونکہ بچے مکلف نہیں ہیں اور مکلف اس لئے نہیں ہیں کہ عبادات میں اختیار ضروری ہے جبکہ بچوں میں قصورِ عقل کی وجہ سے اختیار متحقق نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حج صرف بالغین پر فرض ہے نابالغ پر فرض نہیں ہے، اس لئے کہ حج عبادت ہے اور بچوں سے تمام عبادتیں ساقط کر دی گئی ہیں کیونکہ وہ خطاباتِ شرع کے مکلف نہیں ہیں۔ ①

(۱۹۱) إِنَّ الْقُدْرَةَ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمُمْتَبِرٍ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ.

ترجمہ: امام صاحب کے نزدیک غیر کی قدرت سے قادر ہونا معتبر نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی فریضے پر قادر ہو جائے لیکن بذاتِ خود نہیں بلکہ غیر کے قادر ہونے سے، یعنی کسی دوسرے شخص کے توسط سے تو امام صاحب کے نزدیک اس قدرت کا اعتبار نہ ہو گا، اور نہ اس قدرت کی وجہ سے اس پر حکم واجب ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ناپینا آدمی کسی ایسے آدمی کو پالے جو اس ناپینا کی کفایت کرے اور سفر کی مشقت برداشت کرے اور زاد اور راحله بھی مل جائے پھر بھی امام صاحب کے نزدیک اس ناپینا پر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ناپینا آدمی اپنے عدمِ بینائی کی وجہ سے بذاتِ خود حج پر قادر نہ تھا، البتہ دوسرے آدمی کی وجہ سے یہ قادر ہوا اور امام صاحب کے نزدیک غیر کی قدرت سے قادر ہونا معتبر نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں معتبر ہے اس لئے ان کے ہاں ناپینا کو اگر کوئی قادر مل جائے تو اس پر حج فرض ہو گا۔ ②

❶ ولأن الحج (عبادة، والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان) لا رتفاع القلم عنهم إلى وقت البلوغ.

[البنيان: كتاب الحج، ج ۲ ص ۱۲۳، ط: دار الكتب العلمية]

❷ الهدایہ: كتاب الحج، ج ۱ ص ۲۵۰، ۲۵۱، ط: رحمانیہ

❸ والأعمى إذا وجدَ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ سَفَرِهِ وَوَجَدَ أَرَادَأَوْ رَاحِلَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ، لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ فَلَا تَعْتَبِرُ الْقُدْرَةُ بِغَيْرِهِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ، لِأَنَّهُ لَوْ هَذِي يُؤَدِّي بِنَفْسِهِ فَأَشَبَّهُ الصَّالُ عنْ مَوَاضِعِ النُّسُكِ.

[تبیین الحقائق: كتاب الحج، ج ۲ ص ۳، ط: دار الكتاب الإسلامي]

(۱۹۲) إِنَّ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْشَّرِيعَةِ ①

ترجمہ: بندے کا حق شریعت کے حق پر مقدم ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہیں، یعنی حقوق العباد کو ضائع کر کے حقوق اللہ کو سرانجام دینا درست نہیں ہے۔ حقوق العباد حقوق اللہ پر اس لئے مقدم ہے کہ بندے محتاج ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ احتیاج اور ضرورت سے پاک ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حج واجب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مال اس شخص کے حج سے واپسی تک اس کے بال بچوں کے نفقة سے بھی زائد ہو، اس لئے کہ شوہر پر بیوی کا نفقة واجب ہے اور شریعت نے اپنے حق پر بندوں کے حق کو مقدم کیا ہے، اور چونکہ حج شریعت کا حق ہے، اس لئے شریعت نے اپنے اس حق پر بندوں یعنی بیوی بچوں کے حق کو مقدم کیا ہے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے اس حق سے زائد مال ہونے کی شرط لگائی ہے۔ ②

(۱۹۳) إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ ③

ترجمہ: فرائض کے حق میں شوہر کا حق ظاہر نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا بیوی پر حق فرض عبادات میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی شوہر بیوی کو کسی فرض عبادت سے نہیں روک سکتا، البتہ نفلی عبادت سے روکنے کا حق حاصل ہے اور فرائض سے اس لئے منع نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا طَاغَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“

① الہدایہ: کتاب الحج، ج ۱ ص ۲۵۱، ط: رحمانیہ

② (وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره) يدل على ذلك، ولكن ليس المراد من العيال المرأة وحدها، وقد قال قاضي خان رَحْمَةُ اللَّهِ فاضلاً عن نفقة عياله، وأولاده الصغار، وإنما كان حق المرأة مقدماً على حق الشرع يعني على حق الله تعالى في أحكام الدنيا لحاجة العبد، وغنى الله عز وجل.

[البنيۃ: کتاب الحج، ج ۲ ص ۱۳۷، ط: دار الكتب العلمية]

③ الہدایہ: کتاب الحج، ج ۱ ص ۲۵۲، ط: رحمانیہ

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر بیوی کو محرم مل جائے جس کے ساتھ وہ حج کرے جیسے والد، بھائی وغیرہ تو شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیوی کو حج سے منع کر دے، کیونکہ حج فرائض میں سے ہے اور فرائض میں شوہر کا حق ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ فرض نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے اور زکوٰۃ اداء کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ یہ سب فرائض ہیں۔ اور چونکہ حج بھی فرض ہے، اس لئے اگر عورت محرم کے ساتھ فرض حج کی ادائیگی کے لئے جا رہی ہو تو شوہر اسے نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر عورت نفلی حج پر جا رہی ہو تو اس صورت میں شوہر کو روکنے کا حق ہے، اس لئے کہ نفل میں اس کا حق شریعت سے مقدم ہے، اس لئے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ ①

① ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحْرُجُ لِحَجَّةِ الْفَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَأْذُنْ لَهَا زُوْجُهَا لِأَنَّ حَقَّ الرَّزْوِجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَأَمَّا فِي التَّطْرُعِ وَالْمُنْدُورِ فَلَهُ مَنْعِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَصَّلُ إِلَى الْحَجَّ إِلَّا بِهِ كَمَا يَلْزَمُهَا شَرَاءُ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لَا تَتَوَصَّلُ إِلَّا بِهَا.

## باب الإحرام

(۱۹۳) إِنَّ بَابَ الْحَجَّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. ①

ترجمہ: حج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی حج میں ان چیزوں کی بھی گنجائش ہے جن کی نماز میں نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ حج میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص حج کی نیت سے اگر جانور کے گلے میں قلا دہ ڈال کر اسے روانہ کر دے تو بھی وہ محرم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے تلبیہ نہ پڑھا ہو، کیونکہ ذکر لسانی اگرچہ نہیں پایا گیا، مگر ذکر قلبی تو پایا گیا، لہذا جب حج میں غیر ذکر لیعنی قلا دہ ڈالنا ذکر لیعنی تلبیہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو تلبیہ منقولہ کے علاوہ دوسرا ذکر تو بدرجہ اولیٰ تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا، خواہ وہ عربی میں ہو یا فارسی میں، اس کے برخلاف چونکہ نماز میں اس طرح کی وسعت نہیں ہے، اس لئے نماز میں تکبیر اور عربی کا ہونا ضروری ہے۔ ②

(۱۹۴) إِنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى مِثَالِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ. ③

ترجمہ: احرام میں تلبیہ پڑھنا نماز میں تکبیر کے مانند ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں تلبیہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جب حاجی ایک

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۵۷، ط: رحمانیہ

② إِنَّ بَابَ الْحَجَّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ لَا يَقُومُ بِعُضُّهَا مَقَامَ بَعْضٍ، وَبَعْضُ الْأَفْعَالِ يَقُومُ مَقَامَ الْبَعْضِ كَالْهُدُىٰ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ كَثِيرٍ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجَّ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَهُوَ يُحِسِّنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لَا يُحِسِّنُهَا، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَيْفَةَ.

[بدائع الصنائع: کتاب الحج، فصل بیان ما یصیر به محrama، ج ۲ ص ۱۲۱، ط: دار الكتب العلمية]

③ الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۵۹، ط: رحمانیہ

حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا تلبیہ پڑھے، یعنی ہر اونچ پیچ میں، نمازوں کے بعد اور اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں تلبیہ پڑھے، کیونکہ تلبیہ فی الاحرام بمنزلہ تکبیر فی الصلاۃ کے ہے اور نماز میں جب مصلیٰ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو تکبیر کہتا ہے، لہذا حاجی بھی جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا تلبیہ پڑھے گا۔ ①

(۱۹۶) إِنَّ التَّوْقِيْتَ يَذْهَبُ بِالرِّفْقَةِ. ۲

ترجمہ: تعین دل کی نرمی کو ختم کر دیتی ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آدعیہ میں تخصیص تعین سے انسان کے قلب میں جورقت و نرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ”بسوٹ“ میں بیت اللہ کے دیدار کے وقت کوئی دعا مخصوص اور متعین نہیں کی ہے، یعنی جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑے تو جو بھی دعا ہو کر سکتا ہے، اس میں کوئی دعا متعین نہیں ہے، کیونکہ تعین سے قلب میں جورقت و نرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جبکہ مقصود رقت و خشوع ہوتا ہے۔ انسان خود بخود کعبۃ اللہ کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے لگتا ہے، جس کا اثر برآہ راست اس کے جسم و جان پر ہوتا ہے، اس لئے اگر دعا کمیں متعین کرو دی جائیں تو اس سے رقت قلبی ختم ہو جاتی ہے اور استحضار قلبی ناپید ہو جاتی ہے۔ ②

① (ويكثُر من التلبية) ندبًا رافعًا بها صوته من غير مبالغة (عقیب الصلوات) ولو نفلاً (وكلما علا شرفاً) أى مكاناً مرتفعاً (أو هبط وادياً أو لقى ركباناً) أى جماعة ولو مشاة (وبالأسحار)، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون في هذه الأحوال، والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة، فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۱۸۳، ط: المكتبة العلمية]

② الهدایۃ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۲۰، ط: زرجمانیہ

وَمَحَمَّدٌ رَّحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَعِينْ فِي الْأَصْلِ لِمُشَاهِدِ الْحَجَّ شَيْئًا مِّنْ الدَّعَوَاتِ، لَاَنَّ التَّوْقِيْتَ يَذْهَبُ بِالرِّفْقَةِ، وَإِنْ تَرَكَ بِالْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنٌ.

[البحر الرائق: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۲ ص ۳۵، ط: دار الكتاب الإسلامي]

فَلَا تُؤْذِنُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهُ الْحَجَرُ وَلَا يُؤْذِنُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَتَاهُ الْحَجَرُ

(۱۹) إِنَّ التَّحْرُزَ عَنْ أَذَى الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ۔ ①

ترجمہ: مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا واجب ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف واذیت دینے سے بچنا واجب ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"

اور واجب کی وجہ سے سنت کا ترک جائز ہے لیکن اس کے عکس سنت کی وجہ سے واجب کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر حاجی کسی مسلمان کو اذیت دیئے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو بوسہ دے ورنہ نہ دے، اس لئے کہ استلام حجر اسود سنت ہے اور مسلمان کو اذیت دینے سے بچنا واجب ہے اور سنت کی وجہ سے واجب کا ترک جائز نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں بوسہ کی جگہ دور سے استلام کرے۔ ②

(۱۹۸) إِنَّ مَا ثَبَتَ فِرْضِيَّةُ بِنَصِّ الْكِتَابِ لَا يَتَأْدِي كَمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ۔ ③

ترجمہ: جس چیز کی فرضیت کتاب اللہ کی نص سے ثابت ہو وہ اس طریقے پر ادا نہیں کیا جائے گا جو خبر واحد سے ثابت ہے۔

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۲۰، ط: رحمانیہ

۲ إِنْ اسْتَطَعْتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِنَ مُسْلِمًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكَ رَجُلٌ أَيْدُكَ تُؤْذِي الصُّعِيفَ فَلَا تُرَازِّ حِمْنَ النَّاسَ عَلَى الْحَجَرِ، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ فُرْجَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ وَهَلَّ وَلَأَنْ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ سُنَّةٌ، وَالتَّحْرُزُ عَنْ أَذَى الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤْذِنَ مُسْلِمًا لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ إِنْ اسْتَطَاعَ تَقْيِيلَهُ وَإِلَّا مَسَّ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبْلَ يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ أَمْسَحَ الْحَجَرَ شَيْئًا مِنْ عَرْجُونَ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ قَبْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمُحْجَنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اسْتَقْبِلَهُ وَكَبِّرْ وَهَلَّ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى.

[المبسوط للسرخسی: کتاب المناسک، ج ۲ ص ۱۰، ط: دار المعرفة]

② الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۲۱، ط: رحمانیہ

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی فرضیت کتاب اللہ کی نص سے ثابت ہو تو اس طور پر ادا نہیں کیا جائے گا جو خبر واحد سے ثابت ہے، اس لئے کہ کتاب اللہ کی نص قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے اور بوقت تعارض قطعی پر عمل کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ حطیم کا بیت اللہ میں شامل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے، جب حطیم بیت اللہ کا جز ہے تو حکم بیت اللہ کا ہے وہی حطیم کا بھی ہے، تو جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا درست ہے تو حطیم کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنا درست ہونا چاہئے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص صرف حطیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نص قطعی "فَوَلُواْ وَجْهُكُمْ شَطْرَةٍ" سے ثابت ہے، اور حطیم کا جزو کعبہ ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، لہذا مذکورہ اصول کی وجہ سے جو چیز نص قطعی سے ثابت ہو وہ خبر واحد کے ذریعے ثابت طریقے سے ادا نہیں کی جائے گی۔ البتہ طواف میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے حطیم کو بھی شامل کریں گے۔ اسی طرح وضو میں مسح راس نص قطعی سے ثابت ہے اور کانوں کا سر کا جزء ہونا خبر واحد سے ثابت ہے، اب اگر کوئی صرف کانوں پر مسح کرے اور سر کا مسح نہ کرے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح مذکورہ مسئلہ میں بھی۔ ①

(۱۹۹) إِنَّ الْحُكْمَ لَا يَرْزُولُ بِزَوَالِ السَّبَبِ. ②

ترجمہ: حکم سبب کے زوال سے زائل نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ سبب کے زائل ہونے سے حکم زائل نہیں ہوتا بلکہ حکم

① وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنْ فَرْضَ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ ثَابِتٌ بِالنَّصْ، وَكَوْنُ الْأَذَانِ مِنْ الرَّأْسِ ثَابِتٌ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ مَا يُثْبَتُ بِالنَّصْ كَمَنْ اسْتَقْبَلَ الْحَطِيمَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُجْزِئُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَطِيمُ مِنْ الْبُيْتِ، لَأَنَّ فَرْضِيَّةَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ بِالنَّصْ، وَكَوْنُ الْحَطِيمِ مِنْ الْبُيْتِ ثَابِتٌ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ مَا ثَبَّتَ بِالنَّصْ.

[المیسوط للسرخسی: کتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، ج ۱ ص ۲۵، ط: دار المعرفة]

② الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۲۱، ۲۲۲، ط: زمانیہ

باقی رہتا ہے اگرچہ سبب اب موجود نہ ہو، کیونکہ ایک چیز کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا کسی ایک سبب کے موجود نہ ہونے سے حکم بھی موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ حاجی پہلے تین چکروں میں مل کرے گا، یعنی اکڑا کڑا کر چلے اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب صحابہ کرام مکہ میں آئے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ان کو مدینے کی آب وہاں نے کمزور کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اکڑا کر چلیں تاکہ مشرکین کے سامنے بہادری اور طاقت ظاہر ہو جائے، پھر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی اب تک باقی ہے، اگرچہ ابھی مل کا سبب یعنی اظہارِ شجاعت و بہادری موجود نہیں لیکن چونکہ سبب کے زوال سے حکم زائل نہیں ہوتا، لہذا اب بھی یہ مل کا حکم زائل نہ ہو گا، جیسے رمی جمار کا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ سبب تو زائل ہو گیا لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت آہستہ پڑھنا اس لئے تھا کہ کفار قرأت کے دوران شور شرابہ کرتے تھے، مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، اب یہ سبب ختم ہو گیا لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ ①

(۲۰۰) إِنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ. ②

ترجمہ: طواف کے چکر نماز کی رکعتوں کے مانند ہیں۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے چکروں کی نماز کی رکعات کے ساتھ

❶ وَلِكِنَّهُ صَارَ سُنَّةً بِذَلِكَ السَّبَبِ فَيَبْقَى بَعْدَ زَوَالِهِ كَرَمُ الْجِمَارِ سَبَبُهُ رَمُّ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، ثُمَّ يَقْبَى بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ السَّبَبِ.

[المبسوط للسرخسی: کتاب المناسک، ج ۲ ص ۱۰، ط: دار المعرفة]  
کان سببہ إظهار الجلد للمسرکین حين قالوا أضعنتمهم حمی شرب ثم بقی الحکم بعد زوال السبب کا لاخفاء فی صلاة الظهر والعصر کان لتشویش الكفرة وأذاهم للمسلمین عند قراءتهم القرآن فی صلاتهم.

[الجوهرة النيرة: کتاب الحج، ج ۱ ص ۱۵۳، ط: المطبعة الخيرية]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۶۲، ط: رحمانیہ

تشبیہ ہے اور وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کی ہر رکعت کو تکبیر سے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح طواف کے بھی ہر چکر کو استلام حجر سے شروع کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ طواف کے ہر چکر کو استلام حجر سے شروع کیا جائے گا، کیونکہ طواف کے چکر نماز کی رکعات کی مانند ہیں اور نماز کی ہر رکعت تکبیر سے شروع کی جاتی ہے، لہذا طواف کا بھی ہر چکر استلام حجر سے شروع کیا جائے گا۔ ①

(۲۰۱) إِنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ وَإِلَّا فَلَا.

ترجمہ: ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتا ہے جو حجر اسود کی طرف لوٹے و گرنہ نہیں۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی بین الصفا والمروة ہوگی تو اس طواف کے بعد حجر اسود کی طرف لوٹے گا، اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہوتا پھر حجر اسود کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتارہے ہیں کہ طائف جب استلام کے ساتھ طواف کو ختم کرے گا، تو پھر مقام ابراہیم کی طرف آ کر مقام ابراہیم پریا جہاں آسان ہو مسجد میں دو رکعت پڑھے، پھر دوبارہ حجر اسود کی طرف لوٹ جائے اور حجر اسود کا استلام کرے، کیونکہ یہ ایسا طواف ہے کہ جس کے بعد سعی ہے اور ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتا ہے میں حجر اسود کی طرف لوٹے گا، عود کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح استلام حجر کے ساتھ طواف کی ابتداء ہوتی ہے اسی طرح سعی کی ابتداء بھی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ ②

① وَكُلَّمَا مَرَرْتَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي طَوَافِكَ هَذَا فَاسْتَلَمْتُهُ إِنِّي أَسْتَطَعْتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِنَ  
مُسْلِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ وَهَلَّلْ، لَأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَواتِ فَكَمَا  
تَفَسَّحَ كُلُّ رَكْعَةٍ تَقُومُ إِلَيْهَا بِالْتَّكْبِيرِ فَكَذَلِكَ تَفَسَّحَ كُلُّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ.

[المبسوط للسرخسى: كتاب المناسك، ج ۲ ص ۱۱، ط: دار المعرفة]

② الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۲۲، ط: رحمانیہ

③ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي سَلْتَمَهُ لِيَكُونَ افْتَاحُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ بِاسْتِلَامِ  
الْحَجَرِ كَمَا يَكُونُ افْتَاحُ الطَّوَافِ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ =

فَإِنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ.

(۲۰۲) (۱) إِنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ.

ترجمہ: رکنیت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ کسی شی کا رکن ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی شی کی رکنیت دلیل ظنی سے ثابت نہیں ہوتی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ سعی میں الصفا والمرودہ واجب ہے رکن نہیں ہے، کیونکہ شی کی رکنیت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے اور سعی میں الصفا والمرودہ دلیل ظنی سے ثابت ہے اس لئے واجب ہے فرض نہیں ہے۔ جس طرح طواف نص قطعی سے ثابت ہے اس لئے فرض ہے اور طہارت خبر واحد سے ثابت ہے اس لئے واجب ہے۔ (۲)

(۲۰۳) (۲) إِنَّ التَّنْفُلَ بِالسَّعْيِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.

ترجمہ: نفل سعی کرنا مشروع نہیں ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ سعی کا نفل ہونا مشروع نہیں ہے بلکہ شریعت میں سعی کا وجوب ثابت ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ طواف کرنے والا بیت اللہ کا طواف کرے گا جب بھی اسے موقع ملیکن ان طوافوں کے بعد سعی نہیں کرے گا، کیونکہ حج کے احرام

= سَعْيٌ فِيْهِ يَعُودُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَجَرِ وَكُلُّ طَوَافٍ لَا سَعْيَ بَعْدَهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ.

[بدائع الصنائع: كتاب الحج، فصل بيان سنن الحج، ج ۲ ص ۱۲۸، ط: دار الكتب العلمية]

(۱) الہدایہ: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۶۳، ط: رحمانیہ

(۲) لَا إِنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالنَّصْ وَلَا يُوجَبُ فِيَّ بِهِ تَبَثُّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لِأَنَّهُ يُوجَبُ الْعَمَلُ وَلَا يُوجَبُ عِلْمُ الْيَقِينِ، وَالرُّكْنِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِمَا يُوجَبُ عِلْمُ الْيَقِينِ فَأَصْلُ الطَّوَافِ رُكْنٌ ثَابِثٌ بِالنَّصْ، وَالظَّهَارَةُ فِيهِ تَبَثُّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيُكُونُ مُوجَبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ فَلَمْ تَصُرِّ الظَّهَارَةُ رُكْنًا، وَلِكِنَّهَا وَاجِبَةً.

[المبسوط للسرخسی: كتاب الحج، باب الطواف، ج ۲ ص ۳۸، ط: دار المعرفة]

(۳) الہدایہ: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۶۳، ط: رحمانیہ

میں صرف ایک بار سعی واجب ہوتی ہے، اور وہ شخص طوافِ قدوم کے بعد سعی کر چکا ہے، اس لئے اب سعی کرنے کی چند اس ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص نفل سعی کرے، کیونکہ نفل سعی مشروع نہیں ہے۔ ①

(۲۰۳) إِنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ يَقْفُ وَإِلَّا فَلَا.

ترجمہ: ہر ایسی رمی جس کے بعد رمی ہو تو وقوف کرے وگرنہ نہیں۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی رمی یعنی کنکری پھینکنا جس کے بعد دوبارہ رمی ہو تو اس صورت میں رمی کے بعد وقوف کرے گا یعنی تھوڑی دیر ک جائے، جیسے جمرہ اولیٰ کی رمی اور جمرہ اوسط کی رمی، اور اگر رمی کے بعد دوسری رمی نہ ہو تو اس صورت میں رمی کے بعد نہ ٹھہرے، جیسے جمرہ عقبہ کی رمی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ رمی کی ابتداء کرے گا اس مقام سے جو مسجد حیف کے ساتھ متصل ہے، پھر رمی کرے گا، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھے اور اس رمی کے بعد ٹھہر جائے، پھر رمی کرے اسی مقام سے جس سے پہلے رمی کر چکا ہے اور اس کے بعد بھی ٹھہر جائے پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور اس کے بعد نہ ٹھہرے، کیونکہ پہلے یعنی جمرہ اولیٰ اور جمرہ اوسط کے بعد رمی ہے، اور ہر وہ رمی جس کے رمی ہو تو ہاں وقوف کرے، تو لہذا جمرہ اولیٰ اور جمرہ اوسط کے ہاں بھی وقوف کرے گا اور جمرہ عقبہ کے بعد چونکہ رمی نہیں ہے اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہ ہو تو وقوف نہیں کرے گا، لہذا جمرہ عقبہ کے بعد بھی وقوف نہ کرے۔ ②

❶ (والتنفل بالسعى غير مشروع) لعدم ورود النص به. فإن قلت: السعى تبع الطواف، ولهذا لا يجوز قبله والتنفل بمتبوعه مشروع فيجب أن يكون التنفل بالسعى أيضاً مشروعًا تبعاً للطواف. قلت: السعى إنما ثبت كونه عبادة بالنص، بخلاف القياس فيقتصر على النص، والنص ورد بالإتيان مرة فلا يشرع ثانياً بالقياس لأنه لا محل له.

[البناء: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۲ ص ۲۱، ط: دار الكتب العلمية]

❷ الهدایۃ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۷۲، ط: رحمانیہ

❸ وأَلَّا صُلُّ أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ وَقَفَ عِنْدَهُ وَكُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ لَمْ يَقْفُ عِنْدَهُ وَرَمْيَهُ رَأِكَّا =

(۲۰۵) مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجَّ فَتَرْكُهُ لَا يُؤْجِبُ الْجَابِرَ. ①

ترجمہ: جو چیز حج کے افعال میں سے نہیں ہے اس کا ترک کرنا نقصان کو ثابت نہیں کرتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو فعل حج کے افعال میں سے نہ ہو اگر اس کو آدمی چھوڑ دے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ دم افعال حج کے کسی فعل کو ترک کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے منی کے علاوہ کسی دوسری جگہ جان بوجھ کر رات گزاری تو ہمارے بہاں اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ قیامِ منی کا ثبوت اس لئے ہے تاکہ حاجی کے لئے رمی کرنا آسان ہو، لہذا قیامِ منی افعالِ حج میں سے نہیں ہوگا اور اس کے ترک پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی جو جغر نقصان کے لئے وضع کی گئی ہے یعنی دم وغیرہ۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے بہاں چونکہ قیامِ منی واجب ہے، لہذا اس کے ترک پر دم واجب ہوگا۔ ②

(۲۰۶) إِنَّ مَا هُوَ رُكْنٌ لَا بُدًّا مِنْ وُجُودِهِ كَيْفَمَا كَانَ. ③

ترجمہ: جو شیء رکن ہو اس کا موجود ہونا ضروری ہے جس طرح بھی ہو۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز رکن ہو اس کا صرف پایا جانا ضروری ہے، اب اس کا پایا جانا جس طرح بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو۔

=أَفْضَلُ لِمَا رَوَيْنَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ كُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهُ رَأْكِبًا وَإِلَّا فَمَا شِئَ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۲ ص ۳۰، ط: دار الكتاب الإسلامي]

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۲۷۵، ط: زرجمانیہ

② وَيُكَرِّهُ أَنْ يَبِيتَ لِيَالِي مِنَ الْأَيَّامِ وَكَانَ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا لَأَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجَّ فَتَرْكُهُ لَا يُؤْجِبُ الْجَبَرَ.

[الجوهرۃ النیرۃ: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۱۶۱، ط: المطبعة الخیریۃ]

③ الہدایہ: کتاب الحج، باب الإحرام، فصل، ج ۱ ص ۲۷۷، ط: زرجمانیہ

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر حاجی صاحب عرفہ سے آگے نکل گیا نیند کی حالت میں، یا بے ہوشی کی حالت میں، یا حاجی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میدان عرفہ ہے، تو حاجی کے وقوف سے یہ کفایت کرے گا، یعنی اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ کیونکہ وقوف عرفہ رکن ہے اور جو چیز رکن ہواں کا موجود ہونا صرف ضروری ہے، جس طرح بھی ہواں شخص کا وقوف عرفہ پایا گیا ہے۔ مرور کی صورت میں بھی حج کا رکن یعنی وقوف پایا گیا اور اغماء و نوم وقوف کے منافی نہیں ہیں، جیسے اگر کسی شخص نے روزے کی نیت سے سحری کی اور پھر پورے دن سویا رہا، یا بے ہوش پڑا رہا تو رکنِ صوم یعنی امساک کے پائے جانے کی وجہ سے اس شخص کا روزہ اداء ہو جائے گا، اسی طرح رکنِ حج یعنی وقوف کے پائے جانے کی وجہ سے حج اداء ہو جائے گا۔ ①

(۲۰) إِنِّي أَظْهَارَ الْإِجَابَةَ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ. ②

ترجمہ: اجابت کا اظہار جس طرح قول سے ہوتا ہے اسی طرح کبھی فعل سے بھی ہوتا ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اجابت قول یعنی تلبیہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اسی طرح کبھی کسی فعل یعنی ہدی کے لگے میں قلا دہ دالنے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ جس نے بدنہ یعنی ہدی کے جانور کا قلا دہ باندھا چاہے وہ بدنہ نفلی ہو، یا نذر کی وجہ سے ہو، یا کسی پرندے کے شکار کا بدله ہو، اور خود بھی وہ آدمی اس ہدی مقلدہ کے ساتھ متوجہ ہوا اور حج کا ارادہ بھی کیا تو یہ شخص محرم شمار ہو گا اور محرم کے جتنے احکام اور محذوراتِ احرام ہیں وہ اس پر لاگو ہوں گے اگرچہ تلبیہ نہ پڑھے، کیونکہ تلبیہ سے مقصود

① (قَوْلُهُ وَمَنْ اجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَةٌ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ الْوُقُوفِ) وَهَذَا إِذَا أَحْرَمَ وَهُوَ مُفِيقٌ ثُمَّ أَغْمَى عَلَيْهِ حَالَ الْوُقُوفِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ إِجْمَاعًا لَآنَ مَا هُوَ الرُّكْنُ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الْوُقُوفُ فَلَا يَمْنَعُهُ الْإِغْمَاءُ وَالنُّومُ كَرُكْنُ الصُّومِ وَإِنَّمَا اخْتَلَ مِنْهُ النِّيَّةُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِكُلِّ رُكْنٍ.

[الجوهرة النيرة: كتاب الحج، باب الإحرام، ج ۱ ص ۱۶۲، ط: المطبعة الخيرية]

② الهدایۃ: كتاب الحج، باب الإحرام، فصل، ج ۱ ص ۲۷۸، ط: زرمانیہ

اظہارِ اجابت ہوتی ہے اور اظہارِ اجابت کبھی فعل سے بھی ہوتی ہے، جب اس شخص نے قلادہ ڈال کر ہدی کا جانور روانہ کیا تو با فعل اجابت ہے، اس لئے کہ قلادہ حج کے شعائر میں سے ہے جیسے تلبیہ، اور فعل کے ساتھ اجابت اس طرح ہے جیسے قول کے ساتھ، لہذا یہ شخص محروم شمار ہوگا۔ ①

## باب القرآن

(۲۰۸) لَا تَدْخُلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ.

ترجمہ: عباداتِ مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت بذاتِ خود مقصود ہو تو اس میں تداخل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی فعل سے سب کو ادا نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک کے لئے الگ فعل ضروری ہے۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ قارن (یعنی جس میں ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں ادائے جائیں) اس کے لئے حج اور عمرہ دونوں کے افعال کو بجالانا ضروری ہے، یعنی افعالِ حج کو الگ سر انجام دے اور افعالِ عمرہ کو الگ بجالائے، مثلاً عمرہ کے لئے الگ طواف و سعی کرے، اور حج کے لئے الگ طواف و سعی کرے، یہ احناف کا مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج قارن ایک ہی سعی اور ایک ہی طواف کرے گا۔ احناف کی دلیل مذکورہ اصول ہے کہ عباداتِ مقصودہ میں تداخل نہیں ہو سکتا، عمرہ اور حج دونوں الگ الگ عبادتِ مقصودہ ہیں، لہذا ان میں بھی تداخل نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی ظہر کی نماز کی ادائیگی میں عصر کی بھی نیت کرے کہ ایک ہی نماز سے دونوں اداء ہو جائیں، تو اس طرح تداخل نہیں ہوگا، ہر ایک عبادت

❶ وَلَأَنَّ سَوقَ الْهَدْيٍ بَعْدَ التَّقْلِيدِ فِي مَعْنَى التَّلْبِيَةِ إِذَا لَا يَفْعُلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوُ الْعُمَرَةَ فَصَارَ مِنْ خَصَائِصِهِ كَالتَّلْبِيَةِ إِذَا مَقْصُودٌ بِالْتَّلْبِيَةِ إِظْهَارُ الْإِجَابَةِ لِلْدَّعْوَةِ وَبِتَقْلِيدِ الْهَدْيٍ يَحْصُلُ إِظْهَارُ الْإِجَابَةِ أَيْضًا وَإِظْهَارُ الْإِجَابَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ بِالْقُولِ وَهَذَا، لِأَنَّ التَّقْلِيدَ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجَّ كَالتَّلْبِيَةِ، فَإِذَا اتَّصلَ بِالْيَةِ يَكُونُ مُحِرِّمًا كَالتَّلْبِيَةِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب الإحرام، ج ۲ ص ۳۹، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب القرآن، ج ۱ ص ۲۸۱، ط: رحمانیہ

مقصود ہے اس لئے الگ اداء ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ایک دن میں دور و زوں کی نیت کرے۔ ①

(۲۰۹) إِنَّ الْأَبْدَالَ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا. ②

ترجمہ: بدل صرف شریعت کی طرف سے مقرر کئے جاتے ہیں۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے کسی حکم کا بدل مقرر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جس چیز کا جو بدل مقرر کیا ہے وہی ہو گا، یعنی بدل مقرر کرنا شریعت پر موقوف ہے۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر قارن نے قبلی کے عوض ایامِ حج میں تین روزے نہ رکھے یہاں تک کہ یومِ اندر کا دن آگیا، اب اس صورت میں اس پر دم آئے گا اور اب روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شریعت نے دم کا بدل یومِ اندر سے پہلے روزے مقرر کئے ہیں، اب اگر یہ یومِ اندر کے بعد روزے رکھے گا تو اس صورت میں اپنی طرف سے بدل مقرر کرنا لازم آئے گا اور اپنی طرف سے بدل مقرر کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یومِ اندر کے بعد روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ ③

❶ وَرَوَى الطَّحاوِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلَىٰ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَانَ بْنَ الْحُصَينِ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافِينَ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ، وَلَاَنَّ الْقِرَآنَ هُوَ الْجَمْعُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا أَحَدَهُمَا لَمْ يَكُنْ جَامِعاً، وَلَاَنَّهُ لَا تَدَخُلَ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصُّومِ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب القرآن، ج ۲ ص ۳۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب القرآن، ج ۱ ص ۲۸۲، ط: رحمانیہ

❸ إِنْ لَمْ يَصُمْ الْثَّلَاثَةَ حَتَّىٰ دَخَلَ يَوْمَ السُّعْدَىٰ لَمْ يُحِرِّزِ الصَّوْمُ أَصْلًا، وَصَارَ الدَّمُ مُتَعَيِّنًا، لَأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ وَالْأَبْدَالُ لَا تُنْصَبُ إِلَّا شَرْعًا، وَالنَّصْ خَصَّ بِوَقْتِ الْحَجَّ وَجَوَازُ الدَّمِ عَلَى الْأَصْلِ.

[البحر الرائق: کتاب الحج، باب القرآن، ج ۲ ص ۳۸۸، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## باب التمتع

(۲۱۰) لَوْ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْمُحْرِمِ وَالْمُبِيْحِ فَالْتَّرْجِيْحُ لِلْمُحْرِمِ. ①

ترجمہ: جب حرم اور میح کے درمیان تعارض آجائے تو ترجیح حرم کو دی جائے گی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل حرم یعنی حرمت ثابت کرنے والی دلیل اور دلیل میح یعنی اباحت ثابت کرنے والی دلیل کے مابین تعارض آجائے، یعنی ایک دلیل سے شیء کی حرمت ثابت ہو رہی ہو جبکہ دوسری دلیل سے اسی شیء کی حلث ثابت ہو رہی ہے تو اس صورت میں حرمت والی دلیل کو ترجیح دی جائے گی یعنی اس شیء پر حرام کا حکم لگایا جائے گا، اس لئے کہ اس میں احتیاط ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اشعار (یعنی اونٹ اور گائے کو زخم لگا کر خون نکالنا) مکروہ ہے، کیونکہ یہ مثلہ ہے اور مثلہ حرام ہے، جبکہ دوسری دلیل سے اشعار کی اباحت ثابت ہو رہی ہے، اب جب حرم اور میح کے درمیان تعارض واقع ہوا تو حرم کو ترجیح دی جائے گی۔

فائدہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ سے غزوہ خیر کے وقت منع فرمایا، جبکہ آپ نے اشعار جتنہ الوداع کے موقع پر کیا، تو اشعار کرنا متاخر ہے اس لئے تعارض نہیں ہے۔ تعارض اس وقت ہوتا جب دونوں باتوں کی تاریخ معلوم نہ ہوتی۔ نیز اشعار مثلہ نہیں ہے اس لئے کہ ہر زخم مثلہ نہیں ہوتا بلکہ مثلہ وہ ہوتا ہے کہ جانور کی ناک، کان وغیرہ اعضاء کاٹ دیجئے جائیں۔ اشعار میں تو معمولی زخم لگایا جاتا ہے۔ اشعار کا ثبوت صحیح اور صریح احادیث سے ہے، اس لئے اسے مکروہ کہنا درست نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اشعار کو مطلقاً مکروہ نہیں کہا بلکہ آپ کے زمانے میں لوگ اشعار میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اشعار کی وجہ سے کہیں جانور ہلاک نہ ہو جائے اس لئے آپ نے مکروہ کہا۔ یہ توجیہ بہتر ہے تاکہ آپ کی طرف صریح احادیث

کی مخالفت کا الزام نہ آئے۔ ①

نوٹ: علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ نے إشعار کی کراہت والے قول کی مدل انداز میں

تردید کی ہے، دیکھئے: حاشیہ نمبر ۲۸۵ ص ۲۸۵، ط: رحمانیہ

❶ لَمَّا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِشْعَارِ سُنَّةً وَبَيْنَ كَوْنَهُ مُثْلَةً، وَهِيَ حَرَامٌ فَالرُّجُحَانُ لِلْحَرَامِ،  
لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ مَعَ الْمُسِيحِ إِذَا اجْتَمَعَا فَالْمُحَرَّمُ أُولَى، وَعِنْدِي إِطْلَاقُ اسْمِ الْمُثْلَةِ عَلَى الْإِشْعَارِ  
مُشْكِلٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ فِي أَوَّلِ مَقْدَمِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَشْعَرَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَى إِلَيْهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَوْ كَانَ الْإِشْعَارُ مِنْ بَابِ الْمُثْلَةِ  
لَمَّا أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالْكَلَامُ الصَّحِيحُ فِي  
هَذَا الْبَابِ أَنْ يُقَالُ: إِنَّ أَبَا حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَرِهُ الْإِشْعَارُ الْمُحَدَّثُ الَّذِي يُفْعَلُ عَلَى وَجْهِ  
الْمُبَالَغَةِ، وَيُخَافُ مِنْهُ السَّرَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ لَا مُطْلَقُ الْإِشْعَارِ.

[حاشیۃ الشلبی علی تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب التمتع، ج ۲ ص ۷۷، ط: دار

الكتاب الاسلامی]

(قوله: ولو وقع التعارض فالرجح للمحرم) قد يقال: لا تعارض فإن النهي عنه كان باشر قصبة  
العرنيين عقيب غزوة أحد ومعلوم أن إشعار كان بعده، فعلم أنه إما مخصوص من نص نسخ  
المثلة ما كان هدياً أو أنه ليس بمثلة أصلاً، وهو الحق، إذ ليس كل جرح مثله بل هو ما يكون  
تشويهاً كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون، فلا يقال لكل من جرح مثل به، والأولى ما  
حمل عليه الطحاوى من أن أبا حيفة إنما كره إشعار أهل زمانه، لأنهم لا يهتدون إلى إحسانه،  
وهو شق مجرد الجلد ليديمي، بل يبالغون في اللطم حتى يكثر الألم ويُخاف منه السرایة.

[فتح القدير: کتاب الحج، باب التمتع، ج ۳ ص ۹، ط: دار الفکر]

## باب الجنایات

(۲۱) إِنَّ الْجِنَائِيَّةَ تَكَامُلٌ بِتَكَامُلِ الْأُرْتِفَاقِ. ①

ترجمہ: اتفاق کے مکمل ہونے سے جرم بھی کامل ہو جاتا ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جنایت کامل ہوتی ہے کامل نفع اٹھانے سے، یعنی محروم جب کامل فائدہ اٹھائے گا تو جنایت بھی کامل ہو گی، تو دم لازم آئے گا اور جب فائدہ کامل نہ اٹھائے تو جنایت ناقص ہو گی اور ناقص جنایت کی وجہ سے کفارہ لازم آئے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ محروم نے اگر مکمل عضو پر خوشبو لگائی یا اس سے زیادہ حصے پر تو دم لازم آئے گا، کیونکہ مکمل عضو پر خوشبو لگانا یہ کامل فائدہ اٹھانا ہے اور کامل فائدہ سے جنایت بھی کامل ہوتی ہے اور جنایت جب کامل ہوتی ہے تو دم آتا ہے، لہذا اس شخص پر بھی دم آئے گا۔ اور اگر عضو سے کم میں خوشبو لگائی تو کفارہ لازم ہو گا۔ ②

(۲۲) إِنَّ بِسَبَبِ النُّؤُمِ وَالْإِكْرَاهِ يَنْتَفِي الْمَاثُمُ دُونَ الْحُكْمِ. ③

ترجمہ: نیند اور اکراہ کے سبب سے گناہ ختم ہوتا ہے نہ کہ حکم۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نیند اور اکراہ (کسی پر زبردستی کرنا) کی وجہ سے نامم اور مکرہ سے گناہ تورفع ہو جاتا ہے لیکن حکم رفع نہیں ہو گا یعنی حکم مرتب ہو گا۔ آخرت کے اعتبار سے گناہ کا رہنمی ہو گا، البتہ دنیاوی مواد خذہ بصورتِ دم ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ محروم کا کسی نے حلق کر دیا اس کی اجازت کے بغیر، یعنی وہ سویا ہوا تھا یا زبردستی حلق کر دیا تو دونوں صورتوں میں حلق کرنے والے پر

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۱ ص ۲۸۸، ط: رحمانیہ

② (تَجِبُ شَاءَ إِنْ طَيْبٌ مُحْرِمٌ عُضُواً، وَإِلَّا تَصَدَّقَ أُو خَصْبٌ رَأْسَهُ بِحَنَاءٍ أَوْ أَدْهَنَ بِزَيْتٍ) لَأَنَّ الْجِنَائِيَّةَ تَكَامُلٌ بِتَكَامُلِ الْأُرْتِفَاقِ وَذَلِكَ فِي الْعُضُوِ الْكَامِلِ فَيَتَرَبَّ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمُوْجِبِ وَتَسْقَاطُ الْجِنَائِيَّةُ فِيمَا دُونَهُ فَوْجَبَتِ الصَّدَقَةُ.

[البحر الرائق: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳ ص ۲، ط: دار الكتاب الاسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۱ ص ۲۹۰، ط: رحمانیہ

صدقة ہے اور جس کا حلق کیا ہے اس پر دم لازم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے حکم بغیر حلق کرنا اس طور پر کروہ سویا ہوا تھا یا زبردستی حلق کرنا کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق اخروی لحاظ سے گنہگار تو نہیں ہو گا لیکن دنیاوی لحاظ سے حکم مرتب ہو گا اور اس پر دم لازم ہو گا، اگرچہ یہ حلق اس کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، پھر بھی دم لازم ہو گا اس لئے کہ وجوب دم کا سبب انفاس راحت ہے اور یہ سبب ناممکن اور مکرہ کے حق میں موجود ہے۔ ①

(۲۱۳) إِنَّ الصَّيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْدُهُ إِلَّا بِحِيلَةٍ. ②

ترجمہ: شکاروہ ہے کہ اس کا پکڑنا بغیر حیلے کے ممکن نہ ہو۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ شکار کرنا اس کو کہیں گے کہ جس جانور کا پکڑنا حیلے اور تدبیر کے بغیر ممکن نہ ہو، بلکہ اس کے پکڑنے کے لئے شکاری کوئی حیلہ کرے جیسے جال وغیرہ، اور جس جانور کو بغیر حیلے کے پکڑنا ممکن ہو اس کو شکار نہیں کہتے ہیں۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں اگر محرم نے جراودہ یعنی مذہبی قتل کر دیا تو کچھ صدقہ کر دے جو چاہے، کیونکہ مذہبی خشکی کا شکار ہے اور اس کا پکڑنا بغیر حیلے کے ممکن نہیں ہے اور جس شی کا پکڑنا بغیر حیلے کے ممکن نہ ہو وہ شکار ہوتی ہے، اور محرم اگر شکار کرے تو اس پر اس شی کی جسامت کے لحاظ سے توان لازم آتا ہے، لہذا اس پر بھی صدقہ لازم آئے گا، لقول عمر رضی اللہ

عنه "تَمَرَّةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ" ③

① (وعندنا بسبب النوم والإكراه يتلفي المأثم دون الحكم) یعنی ینتفى الإثم الذى هو حكم الآخرة دون الحكم الذى يتعلق بالدماء (وقد تقرر سببه) أي سبب وجوب الفدية والروا فيه للحال (وهو) أي السبب (ما نال من الراحة والزينة) أي ما نال المخلوق من الزينة والراحة بزوال الشعث ومن الزينة بزوال انتشار الشعر.

[البنياۃ: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۲ ص ۳۳۸، ط: دار الكتب العلمية]

② الهدایۃ: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: رحمانیہ

③ وَأَمَّا وُجُوبُهَا بِقَتْلِ الْجَرَادَةِ فَلَأَنَّ الْجَرَادَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فَإِنَّ الصَّيْدَ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْدُهُ إِلَّا بِحِيلَةٍ وَيَقْصِدُهُ الْأَخْدُ، وَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَمَرَّةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

[البحر الرائق: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۳ ص ۷۳، ط: دار الكتاب الاسلامی]

### ٢١٣) إِنَّ الْعُرْفَ أَمْلَكُ. ①

ترجمہ: عرف زیادہ حقدار ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو شیء متعارف بین الناس ہو اس کو حکم اور فیصل بنانا زیادہ مناسب ہے، یعنی شیء متعارف پر عرف کے مطابق حکم مرتب ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”کلب“ لغت کے اعتبار سے درندوں کو بھی شامل ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عرف میں کلب کا اطلاق درندوں پر نہیں ہوتا۔ عرف حقیقت لغو یہ سے قوی دلیل ہے، اس لئے اگر کوئی قسم کھائے کہ وہ سرنہیں کھائے گا پھر چڑیا کا سر کھائے تو حانت نہیں ہو گا، اس لئے کہ عرف میں چڑیا کے سر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ سر ہے۔ ②

### ٢١٤) إِنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ عَنِ التَّعْرُضِ لَا عَنْ دَفْعِ الْأَدَى. ③

ترجمہ: محروم کو تعرض کرنے سے روکا گیا ہے نہ کہ اذیت دور کرنے سے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ محروم کو حالت احرام میں شریعت نے درندوں وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کسی جانورو غیرہ کو نہ پکڑے اور شکار نہ کرے، لیکن اپنے دفاع سے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اس لئے محروم اپنا دفاع کر سکتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر محروم پر کسی درندے نے اچانک

❶ الہدایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: رحمانیہ

❷ (واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا، والعرف أملک) هذا جواب عن قول الشافعی رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا اسْمَ الْكَلْبِ يَتَنَاهُ السَّبْعُ لِغَةً.

فأجاب عنه: بأنه لا يقع في عرف الناس بخلاف ما قال، لأنهم لا يفهمون من إطلاق اسم الكلب المعروف عندهم، والعرف أرجح وأقوى من الحقيقة اللغوية، ولهذا إذا حلف لا يأكل رأساً فأكل رأس العصفور لا يحيث لعدم العرف فيه وإن كان رأساً في الحقيقة.

[البنایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، ج ۱ ص ۳۹۹، ط: دار الكتب العلمية]

❸ الہدایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: رحمانیہ

حملہ کر دیا اور محرم نے اس کو قتل کر دیا تو اس صورت میں محرم پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے محرم کو تعریض سے منع کیا ہے نہ کہ دفاع سے، لہذا تعریض تو ممنوعاتِ احرام میں سے ہے لیکن دفاع ممنوعاتِ احرام میں سے نہیں ہے، لہذا محرم نے بھی چونکہ اپنا دفاع کیا ہے اس لئے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ①

(۲۱۶) إِنَّ الْجَزَاءَ لَا يَجِبُ مَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ. ②

ترجمہ: شارع کی طرف سے اجازت کے پائے جانے کے ساتھ بدله واجب نہیں ہوتا۔  
تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب شارع کی جانب سے کسی ممنوع فعل کی اجازت ہو تو اس فعل کے ارتکاب سے کچھ بدله واجب نہ ہوگا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ محرم آدمی کو اس اذیت کو دفع کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو متہم ہو، یعنی جن سے تکلیف پہنچنے کا وہم ہو، جیسے فواسق جانور (سانپ، پکھو، چوبہ، کائٹنے والا کتا) وغیرہ۔ تو جس چیز کا تکلیف دینا متحقق ہو، یعنی یقین ہو کہ یہ اذیت پہنچائے گی تو اس کو دفع کرنے کی تو بطریق اولی اجازت ہوگی، اور شارع کی طرف سے اجازت کے ساتھ کچھ واجب نہیں ہوتا۔ لہذا محرم شخص اگر اپنے سے اذیت دور کرنے کے لئے حملہ آور درندے کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر ضمان وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ جب شریعت نے فواسق خمسہ میں اذیت کے وہم کی وجہ سے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے تو پھر وہ جانور جن میں اذیت متحقق ہے انہیں تو بدرجہ اولی مارنے کی اجازت ہوگی۔ ③

① (وَإِنْ صَالَ السَّبْعُ عَلَى مَحْرُومٍ) وَلَا يَمْكُنُهُ دَفْعَهُ إِلَّا بِقتْلِهِ (فَقْتَلَهُ فَلَلَّا شَيْءٌ عَلَيْهِ) لأنَّه ممنوع عن التعریض، لا عن دفع الأذى.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۱ ص ۲۱۵، ط: المكتبة العلمية]

② الہدایہ: كتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۳، ط: زرجمانیہ

③ هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي قَتْلِ الْمُتَوَهَّمِ مِنْهُ الْأَذَى كَمَا فِي الْفُوَاسِقِ فَلَأُنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَحَقِّقِ أَوْلَى وَمَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنَ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا.

[الجوهرة النيرة: كتاب الحج، باب الجنایات، ج ۱ ص ۲۷۱، ط: المطبعة الخيرية]

ପାତ୍ର । ଅନ୍ତିମ । ପାତ୍ର । କଣ୍ଠ । ପାତ୍ର । ଅନ୍ତିମ ।

١٧) إنَّ الْعَارِضَ لَا يُعْتَبِرُ.

ترجمہ: عارض کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو شیء کسی کو عارض ہو یعنی اس کی ذاتی اور خلقتی نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی حکم عارض پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ اصل خلقت پر ہوتا ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ محرم آدمی نے اگر ایسا کبوتر ذبح کیا جو مانوس ہو، یعنی اپنے ساتھ عادی بنایا ہو تو اس پر جزاء ہو گی، کیونکہ کبوتر اصل خلقت کے اعتبار سے وحشی ہے اور اس کا مانوس ہونا عارض ہے، اصلی نہیں ہے۔ احکام شرعیہ میں اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ عوارض کا۔ اس لئے یہ وحشی شمار ہو گا اور چونکہ وحشی جانور کو ذبح کرنے کی وجہ سے جزاء لازم ہوتی ہے، لہذا اس محرم پر بھی جزاء لازم ہو گی۔ ۲

٢١٨) إِنَّ الصُّومَ يُصْلِحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ لِمَحَالٍ.

ترجمہ: روزہ افعال کی جزا تو بن سکتا ہے لیکن محل کا ضمان نہیں بن سکتا۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ منوع فعل کے ارتکاب کی وجہ سے جو بدلہ لازم ہوتا ہے روزہ اُس کی جزاء بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن محل پر جو جنایت واقع ہوتی ہے اس کا بدلہ نہیں بن سکتا، بلکہ محل کے خان پر قیمت لازم ہوگی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر حلال آدمی نے حرم کے شکار میں سے کسی جانور کو ذبح کر دیا تو اس پر اس شکار کی قیمت دینا واجب ہے، یعنی اس کی قیمت کو فقراء

<sup>١</sup> الهدایة: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۲، ط: رحمانیہ

٢٠) أَنْ جِنْسَ الْحَمَامِ مُتَوَحِّشٌ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَإِنَّمَا يُسْتَانِسُ الْبَعْضُ مِنْهُ بِالنَّوْلَدِ وَالنَّانِيْسِ مَعَ بَقَائِهِ صَيْدًا كَالظَّبَابِيَّةِ الْمُسْتَانِسَةِ، وَالْعَامِمِيَّةِ الْمُسْتَانِسَةِ وَالطُّرُطُوشِيَّةِ وَنَحْوَ دَلِكَ حَتَّى يَجِدَ فِيهِ الْجَرَاءُ. وَكَذَا الْمُسْتَانِسُ فِي الْخِلْقَةِ قَدْ يَصِيرُ مُسْتَوْحِشًا كَالْإِبْلِ، إِذَا تَوَحَّشَتْ وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الصَّيْدِ حَتَّى لَا يَجِدُ فِيهِ الْجَزَاءَ، فَعِلْمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالنَّوْلَدِ، وَالاِسْتِئْسَاسُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ.

[بدائع الصنائع: كتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ٢ ص ١٩٦، ط: دار الكتب العلمية]

<sup>٣</sup> الهدایة: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج اص ٥٣٠، ط: رحمانیہ

و مساکین پر صدقہ کرے گا اور اگر وہ اس کے بد لے میں روزہ رکھئے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو ضمان واجب ہوا ہے وہ اس وصف کوفت کرنے کی وجہ سے آیا ہے جو وصف محل میں تھا اور وہ امن ہے اور چونکہ یہ جنایت محل میں واقع ہوئی اور روزہ محل کا ضمان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا یہ شخص بھی روزے نہیں رکھ سکتا بلکہ قیمت واجب ہو گی۔ غیر محروم کے حق میں قتل صید کی جزاً، صرف صید مقتول کی قیمت ہے، روزے سے وہ شخص بری الذمہ نہیں ہو گا، اس لئے کہ قیمت اداء کرنا توان ہے، کفارہ نہیں ہے، لہذا یہ توان اموال کے ضمان کے مشابہ ہے اور جس طرح مالی توان کی ادائیگی صرف مال سے ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، اسی طرح مذکورہ صید کا ضمان بھی صرف اس کی قیمت ہی سے اداء ہو گا اور چیز سے ادائے نہیں ہو گا۔ ①

### (۲۱۹) إِنَّ الْعَادَةَ الْفَاسِيَّةَ مِنْ إِنْحَدَى الْحُجَّاجِ.

ترجمہ: وہ عادت جوشائع اور مشہور ہو دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔

**تشریح:** مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر عادت جاری ہو اور وہ عادت شائع اور مشہور بھی ہو تو دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کرے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس آدمی نے احرام باندھا اس حال میں کہ اس کے گھر یا پنجربے میں اس کے پاس شکار تھا تو اس شخص پر اس شکار کو چھوڑنا اور آزاد کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام احرام باندھے تھے اور ان کے گھروں میں شکار ہوتے تھے لیکن کسی سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ اس شکار کو آزاد کر کے حج پر جاتے ہوں، لہذا اس پر عادت مستمرہ جاری ہے اور عادت چونکہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے، لہذا اس شخص پر بھی شکار کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ محرم نے اس کی طرف حالت احرام میں تعریض نہیں کیا،

---

❶ إِنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْمُحْرِمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَىٰ فِيهِ، وَهُوَ إِحْرَامٌ فَيُكُونُ جَزَاءُ الْفِعْلِ، وَهُوَ الْكُفَّارَةُ  
وَالْحُرْمَةُ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَىٰ فِي الصَّيْدِ فَصَارَ بَدْلَ الْمَحَلِّ وَالصَّوْمُ يَصْلُحُ جَزَاءَ  
الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَلِّ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۲ ص ۲۸، ط: دار الكتاب الاسلامی]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۶، ط: زرحانیہ

بلکہ وہ شکار حالتِ احرام سے پہلے ہی اس کی ملکیت میں تھے۔ ممانعت حالتِ احرام میں شکار کی طرف تعرض ہے نہ کہ پہلے سے ملکیت کا ہونا۔ ①

## (۲۲۰) إِنْ وُصُولَ الْخَلْفِ كَوْصُولُ الْأَصْلِ.

ترجمہ: بدل کا پہنچ جانا اصل کے پہنچنے کی مانند ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ نائب کا پہنچ جانا ایسا ہے جیسا کہ اصل پہنچ گیا، اور جو حکم اصل کے پہنچنے کی صورت میں مرتب ہو گا، ہی حکم بدل کے پہنچنے کی صورت میں بھی دائر ہو گا۔ صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلارہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ہرن کو حرم سے باہر نکالا، پھر اس ہرن نے بچے جنے اور ہرن بھی مرگی اور اس کے بچے بھی مر گئے، تو اس نکالنے والے پر ان کی جزا واجب ہو گی، کیونکہ ہرن حرم سے نکالنے والے کے بعد بھی شرعاً مستحق امن ہے، اسی وجہ سے اس کی جاہِ امن میں لے جانا واجب ہے، ہاں اگر اس نکالنے والے نے ہرن کی جزا ادا کر دی پھر اس نے جتنا تو اس پر بچوں کی جزا واجب نہ ہو گی، کیونکہ جزا ادا کرنے کے بعد وہ مستحق امن نہ رہی، کیونکہ بدل یعنی قیمت کافقراء کی طرف پہنچ جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہرن کا حرم میں پہنچ جانا، اس لئے کہ اصول ہے کہ وصول بدل وصول اصل کی مانند ہوتا ہے۔ ②

❶ لَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُحْرِمُونَ، وَفِي يُؤْتِهِمْ صُيُودٍ وَدَوَاجِنٌ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ إِرْسَالُهَا  
وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْعَادَةُ الْفَاسِيَّةُ، وَهِيَ مِنْ إِحْدَى الْحُجَّاجِ، وَلَأَنَّ الْوَاجِبَ عَدُمُ التَّعْرُضِ، وَهُوَ  
لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَصْصِ لَا يِبْهِ غَيْرُ اللَّهِ فِي مِلْكِهِ.

[البحر الرائق: كتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۳ ص ۳۵، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: كتاب الحج، باب الجنایات، فصل، ج ۱ ص ۳۰۸، ط: زمانیہ

❸ (وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ فَمَا تَضَمَّنَهُمَا فَإِنْ أَدْى جَزَاءَهَا فَوَلَدَتْ لَا يَضْمَنُ الْوَلَدَ)  
لَأَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًّا لِلْأُمُّ شُرُعًا وَلِهَذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ،  
وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرِيعَةٌ فَتَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ فَإِنْ أَدْى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ، لِأَنَّ  
بَعْدَ أَدَاءِ الْجَرَاءِ لَمْ تَبْقَ آمِنَةً، لَأَنَّ وُصُولَ الْخَلْفِ كَوْصُولُ الْأَصْلِ.

[البحر الرائق: كتاب الحج، باب إضافة الإحرام، ج ۱ ص ۳۰۲، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## باب إضافة الإحرام

(۲۲۱) إِنَّ النَّهْيَ لَا يَمْنَعُ تَحْقِيقَ الْفِعْلِ. ①

ترجمہ: نہی فعل کے تحقق کو منع نہیں کرتی۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی فعل پر نہی وارد ہو تو یہ نہی فعل منہی عنہ کو تحقق سے نہیں روک سکتی، یعنی اگر اس نے فعل منہی عنہ کا ارتکاب کر لیا تو تحقق ہو جائے گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ مکی آدمی اگر حج اور عمرے کے افعال کو سرانجام دے تو یہ عبادات ادا ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے اسی طرح ادا کیا ہے جس طرح اپنے اوپر التزام کیا تھا، لیکن مکی کے لئے یہ دونوں سمجھا کرنا منہی عنہ ہیں اور نہی فعل منہی عنہ کے تحقق سے مانع نہیں ہے، لہذا مکی کا یہ حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا، البتہ منہی عنہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس پر دم

واجب ہو گا۔ ②

## باب الإحصار

(۲۲۲) إِنَّ حُرْمَةَ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ. ③

ترجمہ: مال کی حرمت جان کی حرمت کی طرح ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان کی جان محفوظ ہے اور جان کو ضائع کرنا حرام ہے اسی طرح مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ محصر آدمی اگر حج کو پاسکتا ہو لیکن

① الہدایہ: کتاب الحج، باب إضافة الإحرام، ج ۱ ص ۳۰۱، ط: زرمانیہ

② (فَلَوْ أَتَمْهُمَا مِنْهُمْ لَأَكُلُّ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ دُمُّ شَكْرٍ وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ تَحْقِيقَ الْفِعْلِ كَمَا فِي الإِصْلَاحِ (وَعَلَيْهِ دُمٌ) لِجَمِيعِهِ يَنْهَمَا وَهُوَ دُمٌ جَبْرٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلْ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَفَاقِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ، لِأَنَّهُ دُمٌ شَكْرٌ.

[مجمع الأنہر: کتاب الحج، باب إضافة الإحرام، ج ۱ ص ۳۰۲، ط: دار إحياء التراث]

③ الہدایہ: کتاب الحج، باب إضافة الإحصار، ج ۱ ص ۳۱۲، ط: زرمانیہ

ہدی کو نہ پاسکتا ہو تو اس کے لئے استحساناً حلال ہونا جائز ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ مکہ چلا جائے اور افعال حج کو اداء کر لے۔ وجہ استحسان یہ ہے کہ ہم اگر اس محصر کے ذمہ مکہ جانالازم کر دیں تو اس صورت میں اس کا مال ضائع ہو جائے گا اور چونکہ مال کی حرمت نفس کی حرمت کی طرح ہے، اس لئے یہ استحساناً حلال ہو سکتا ہے۔ ①

## باب الفوات

(۲۲۳) إِنَّ الْفَرْضِيَّةَ لَا تُبْثِتُ مَعَ التَّعَارُضِ فِي الْآثارِ. ②

ترجمہ: آثار میں تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں دونصوص یا آثار میں تعارض آجائے تو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمرہ احناف کے نزدیک سنت ہے فرض نہیں ہے، کیونکہ عمرے کے بارے میں دونصوص آپس میں متعارض ہیں اور نصوص میں تعارض کے ہوتے ہوئے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، اس لئے کہ فرضیت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ ③

❶ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ لَوْلَمْ يَتَحَلَّ يَضِيغُ مَالُهُ مَجَانًا، وَحُرْمَةُ الْمَالِ كَحُرْمَةِ النُّفْسِ فَيَتَحَلَّ كَمَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب إضافة الإحرام، ج ۲ ص ۸۱، ط: دار الكتاب الإسلامي]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب الفوات، ج ۱ ص ۳۱۲، ط: زرجمانیہ

❸ وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثارُ لَا تُبْثِتُ الْفَرْضِيَّةُ لِأَنَّهَا لَا تُبْثِتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَإِنْ قِيلَ: هُوَ ثَابِثٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) عَطَافُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجَّ، وَالْحَجَّ فَرِيضَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْإِتِّمَامِ وَالْأَمْرُ لِلْمُوْجُوبِ، أُجِيبَ بِأَنَّ الْقِرَآنَ فِي النَّظِيمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَآنَ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَمْرُ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِتِّمَامِ، وَالْإِتِّمَامُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْإِبْدَاعِ سُنَّةً.

[العنایہ: کتاب الحج، باب الفوات، ج ۳ ص ۱۲۱، ط: دار الفکر]

## باب الحج عن الغير

(۲۲۲) إِنْ فَعَلَ الْمَأْمُورِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِيرِ يَقْعُ عَنِ الْمَأْمُورِ لَا عَنِ الْأَمِيرِ ①

ترجمہ: مامور کا فعل جب آمر کے حکم کے خلاف ہو تو وہ مامور ہی کی طرف سے واقع ہو گا نہ کہ آمر کی طرف سے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ آمر جب مامور کو کسی کام کا حکم کرے پھر مامور آمر کے حکم کے خلاف کرے تو یہ کام مامور کی اپنی طرف سے ہو گا، یعنی اس فعل کے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں وہ مامور کی طرف راجح ہوں گے اور آمر اس صورت میں بری ہو گا۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ اگر دو آدمیوں نے کسی کو وکیل بنایا اس بات کا کہ وہ وکیل ان دونوں یعنی موکلین میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ حج کرے، پھر مامور نے دونوں کی طرف سے ایک ہی حج کا احرام باندھا تو حج اسی مامور کی طرف سے ہو گا، اس آمروں کی طرف سے نہ ہو گا۔ اور اس حج پر جتنا خرچہ ہوا ہے اس کا بھی یہی مامور ضامن ہو گا، اس لئے کہ مامور کا فعل آمر کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو حکم دیا تھا کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ بغیر اشتراک کے حج کرے، اب کسی کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں دے سکتے، اس لئے کہ ترجیح بلا منح لازم آئے گی، جب یہ حج دونوں کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی کو ترجیح بھی نہیں دی جاسکتی تو یہ حج مامور کی طرف سے واقع ہو گا۔ ②

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۱ ص ۳۱، ط: زمانیہ

② وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ عَنْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ فِيْنِ نَوَاهِمَا جَمِيعًا، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَقَدْ خَالَفُوهُمَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرَهُ أَنْ يُخْلِصَ لَهُ الْحَجَّ وَأَنْ يَنْوِيَهُ بِعِيْدِهِ عِنْدِ الْإِحْرَامِ، فِيْنِ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ مُحَالِفًا، وَلَا يَكُونُ عَنْ أَحَدِهِمَا، إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَوَقَعَ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جَعْلِهِ لِغَيْرِهِ۔

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۲ ص ۸۶، ط: دار الكتاب الاسلامی]

## باب الهدی

(۲۲۵) إِنَّ ذَمَّ الْقُرْآنِ وَجَبَ شُكْرًا لِّمَا وَفَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَمْعِ مِنَ النُّسُكِينَ. ①  
ترجمہ: دمِ قرآن اُس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے واجب ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو جمع کرنے کی توفیق دی ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ دمِ قرآن دمِ جبر نہیں ہے بلکہ دمِ شکر ہے، حجٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ حجٰ اور عمرہ دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ادا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے انسان پر دم واجب ہے۔  
صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلارہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو حکم دیا حجٰ قرآن کا تو اس صورت میں دم اُس پر لازم آئے گا جو احرام باندھے گا، کیونکہ دمِ قرآن بطورِ شکر کے واجب ہوتا ہے اور شکر ادا کرنا محروم پر ہے، لہذا دم بھی محروم پر ہو گا۔ ②

(۲۲۶) إِنَّ ذَمَّ الْمُمْتَعَةِ وَالْقُرْآنِ ذُمُّ نُسُكٍ بِخَلَافِ بَقِيَّةِ الدِّمَاءِ فَإِنَّهَا دِمَاءُ الْكُفَّارَاتِ. ③

ترجمہ: حجٰ تنمتی اور قرآن کا دم، دم عبادت ہے، برخلاف باقی دموں کے کیونکہ وہ کفارات کے دم ہیں۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ حجٰ تنمتی اور حجٰ قرآن میں جو دم آتا ہے یہ کفارے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ دم نہ ک، یعنی عبادت کا دم ہے، کیونکہ بطورِ شکر کے واجب ہوتا ہے، برخلاف دمِ کفارہ اور دمِ جنایت وغیرہ کو وہ دمِ جبر ہیں۔

① الہدایہ: کتاب الحج، باب الہدی، ج ۱ ص ۳۲۰، ط: رحمانیہ

② وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَمُّ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَأْمُورِ بِاعتبارِ أَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِّمَا وَفَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكِينَ وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُ بِهَذِهِ النَّعْمَةِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ يَقُعُ عَنِ الْأَمْرِ، لِأَنَّهُ وُقُوعُ شَرْعِيٍّ وَوُجُوبُ ذِمَّ الشُّكْرِ مُسَبِّبٌ عَنِ الْفِعْلِ الْحَقِيقِيِّ الصَّادِرِ مِنْ الْمَأْمُورِ.

[البحر الواقی: کتاب الحج، باب الحج عن الغیر، ج ۳ ص ۷۷، ط: دار الكتاب الاسلامی]

③ الہدایہ: کتاب الحج، باب الہدی، ج ۱ ص ۳۲۰، ط: رحمانیہ

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ نفلی حج کے جانور اور دم متعہ اور قران کے جانوروں کو یوم الحیر ہی کے دن ذبح کیا جائے گا، یوم الحیر کے علاوہ باقی دنوں میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف باقی دموں کے کہ ان کو جب بھی چاہے ذبح کر سکتا ہے، کیونکہ دم متعہ اور قران یہ دم نسک ہیں، اور دم نسک کے جانور کو یوم الحیر ہی کے دن ذبح کرنا ضروری ہے، جبکہ دم کفارہ وغیرہ کا ذبح یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، یوم نحر سے پہلے نہیں ذبح کرنا اولی اور بہتر ہوگا، کیونکہ یہ دم لفصال کی تلافی کے لئے واجب ہوئے ہیں اور لفصال کی تلافی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ①

(۲۲) إِنَّ التَّوَلَّيْ فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَى. ②

ترجمہ: قربات میں متولی بننا زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کے کاموں میں خود متولی بننا یعنی خود سر انجام دینا زیادہ افضل ہے بہ نسبت دوسروں سے کرنے کے، یعنی اگر دوسرے آدمی کے ذریعے سر انجام دے تو یہ بھی جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول کو ذکر کر کے یہ بتلار ہے ہیں کہ ہدی وغیرہ کے جانور کو حامی بذاتِ خود ذبح کرے اگر وہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے اور ثواب کے کام کو بذاتِ خود کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

❶ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ دَمَ التَّطْوُعِ يَخْتَصُ بِأَيَّامِ النَّحْرِ كَدِيمُ الْمُمْتَعَةِ وَالْقِرَآنِ، لَاَنَّهُ نُسُكٌ مِثْلُهُ، وَفِي الْأَصْلِ دَبْحَةٌ يَجُوزُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَدَبْحَةٌ يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَاَنَّ الْقُرْبَةِ فِي التَّطْوُعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ هَدْيٌ، وَيَسْتَحْقُ ذَلِكَ بِالْبُلوغِ إِلَى الْحَرَمَ، وَلِكِنَّ دَبْحَةً يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ، لَاَنَّ الْقُرْبَةَ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ فِيهِ أَظْهَرُ وَيَجُوزُ دَبْحٌ بِقِيَةِ الْهَدَاءِ إِنْ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ حِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِدَمِ الْمُمْتَعَةِ وَالْقِرَآنِ، لَاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ دَمٌ جَبْرٌ عِنْدَهُ، وَلَنَا أَنَّهُ دَمٌ جَبْرٌ فَكَانَ التَّعْجِيلُ بِهَا أَفْضَلَ بِخِلَافِ الْمُمْتَعَةِ، لَاَنَّهُ دَمٌ نُسُكٌ وَكَذَا الْقِرَآنُ.

[تبیین الحقائق: کتاب الحج، باب الهدی، ج ۲ ص ۹۰، ط: دار الكتاب الاسلامی]

❷ الہدایہ: کتاب الحج، باب الہدی، ج ۱ ص ۳۲۱، ط: رحمانیہ

نے بھی جنت الوداع کے موقع پر اونٹ خود خر کئے۔ بذاتِ خود زیادہ بہتر اور اولی ہے۔ ①

### (۲۲۸) إِنَّ السُّتُرَ الْيَقِينَ بِالْجِنَائِياتِ.

ترجمہ: جنایتوں کی پرده پوشی کرنا زیادہ مناسب ہے۔

شرح: مذکورہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو دم انسان پر جنایت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے ان کی تقلید نہ کرے، یعنی ان کے گلے میں قلا دہ نہ ڈالے کیونکہ تقلید سے شہرت مقصود ہوتی ہے جبکہ جنایت میں پوشیدگی بہتر ہے۔

صاحب ہدایہ مذکورہ اصول ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اور ت المجتمع کی ہدی کو قلا دہ ڈالنا درست ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک عبادت کا دم ہے، لہذا اس کی تشهیر کرنا اس کے حسب حال ہے، لیکن ان کے علاوہ دمِ احصار اور دمِ جنایت کے جانوروں کو قلا دہ نہ پہنایا جائے، اس لئے کہ دمِ جنایت کا سبب جنایت ہے، اور جنایت کو چھپانا اور پوشیدہ رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ ②

❶ (وَالْأُولَىٰ أَنْ يَتَوَلَّ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يَحْسِنُ ذَلِكَ) لأنَّهُ قَرْبَةٌ، وَالتَّوْلِي فِي الْقَرْبَاتِ أَوْلَىٰ، لِمَا فِيهِ مِنْ زِيادةِ الْخُشُوعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَقْفَعُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِذَا مَا يَذْبَحُ بِنَفْسِهِ.

[اللباب في شرح الكتاب: كتاب الحج، باب الهدى، ج ۱ ص ۲۲۵، ط: المكتبة العلمية]

❷ الہدایۃ: کتاب الحج، باب الهدى، ج ۱ ص ۳۲۲، ط: رحمانیہ

❸ (قَوْلُهُ: وَتَقْلِيلُهُ بَدَنَةَ التَّطَهُّرِ وَالْمُمْتَعَةِ وَالْقُرْآنِ فَقَطُّ) لِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، وَفِي التَّقْلِيلِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ فَيَلِيقُ بِهِ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ فَقَطُّ أَنَّهُ لَا يَقْلِيلُ دَمَ الْإِحْصَارِ، وَلَا دَمَ الْجِنَائِياتِ، لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَائِيةُ وَالسُّتُرُ الْيَقِينُ بِهَا وَدَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ فَيَلِيقُ بِجِنْسِهَا.

[البحر الرائق: كتاب الحج، باب الهدى، ج ۳ ص ۷۹، ط: دار الكتاب الإسلامي]

## مولف کی کاوشوں پر ایک طائرانہ نظر



Designed & Printed By: Shafiq Urdu Bazaar Karachi. 0321-2037721

(اطفال جامدہ ارادات حظومہ کا بھی، کوئی اخواز نہ ملے ابھی کہی)

ادارة المعارف کراچی 021-35123181, 021-35032020, 0300-2831860

مولانا محمد ظہور صاحب (بادشاہی اسلام پارہونی سروان)

0334-8414660, 0313-1991422



مولانا محمد نعماں صاحب کے علمی و تحقیقی بیانات و دروس کے لئے اس ویس ایپ نمبر پر رابطہ کریں: 03112645500